


قال انما الامم مشركون وانا مسلمون
قال انما الامم مشركون وانا مسلمون

نور الابرار

<http://t.me/tehdiaat>

مُصَنَّف:

مناظر اسلام آباد برضویات علامہ
محمد اسحاق رحمانی "مصروف برکاتی نوری"



Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

کی بجای تفسیر اور صحیح تفہیم

میرزا اسلام آبادی
میرزا اسلام آبادی

مصنف

میرزا اسلام آبادی
میرزا اسلام آبادی

میرزا اسلام آبادی

شیر برادر

۴۰ - اردو بازار - زمیہ سنٹر ۵ لاہور

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَإِلَيْهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلْوَةٌ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ

نام کتاب	-----	خیر بشر کی نوری بشریت
تصنیف	-----	علامہ عبدالستار ہمدانی برکاتی نوری
تصحیح	-----	ارشاد علی جیلانی ”جان“ جیل پوری
تحریک	-----	مولانا حافظ نصیر احمد ہزاروی جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور
طباعت	-----	مئی 2004ء
کیوزنگ	-----	افضل حسین
ناشر	-----	شبیر برادری لاہور
قیمت	-----	روپے

ملنے کے پتے

شبیر برادری 40 اردو بازار لاہور

ادارہ پیغام القرآن 40 اردو بازار لاہور

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

۳

شرفِ اغساب

میں اپنی اس کاوش کو اپنے آقائے نعمت،

تاجدارِ اہل سنت، شہزادہ سیدنا سرکارِ اعلیٰ حضرت،

ہم شہیدِ غوثِ اعظم، نائبِ امامِ اعظم، مظہرِ مجدِّ اعظم،

سیدی و سندی و مادائی و طبائی

حضورِ مفتی اعظمِ عالم حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خاں قبلہ

بریلوی علیہ الرحمہ والرضوان کی ذاتِ پابریکات سے منسوب کرتا ہوں۔ جن کی ایک توجہ نے میری

دنیا بدل دی اور مجھے وہابیت کی گمراہی کے دلدل میں غرق ہونے سے بچا کر ایمان کی لازوال دولت عطا

فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بے شمار گل ان کے مرقدِ مقدس پر تاقیامت نازل ہوتے رہیں اور

ان کے فیوض و برکات سے ہم ہمیشہ مستفیض و مستفید ہوتے رہیں۔

آمین! بجاہ سید المرسلین علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم۔

دعا گو

خانقاہ عالیہ برکاتیہ مارہرہ مظہرہ اور

خانقاہ نور یہ رضویہ بریلی شریف کا ادنیٰ سوالی

عبدالستار ہمدانی ”مصروف“ برکاتی نوری

مرکزِ اہل سنت، برکات رضا

امام احمد رضا روڈ، پور بندر، گجرات۔

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

گلہائے ناشر

اللہ تعالیٰ کا ہزار ہا بار شکر جس نے ناچیز کو اپنے پسندیدہ دین کی اشاعت کا شرف عطا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پیارے رسول مختار و عالم نبی مکرم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں لاکھوں درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جن کی نگاہِ رحمت نے قدم قدم پر سہارا دیا اور ہمارا ”اشاعتی ادارہ“ شبیر برادرز لاہور آج ایک مرکز اشاعت سے مشہور و معروف ہے۔
(الحمد للہ تعالیٰ)

”شبیر برادرز“ نے اشاعتی محاذ پر قدم رکھتے ہی علمائے اہل سنت کی نہایت مسند علمی، تحقیقی، تاریخی، اصلاحی، تبلیغی اور معیاری کتب کو اعلیٰ اور عمدہ طباعت سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی طرح ڈالی، کاغذ، ٹائٹیل، جلد بندی وغیرہ سے ہر کتاب کو دیدہ زیب بنایا گیا۔ جس کے باعث خاص و عام نے اپنی توجہ مبذول فرمائی اور قبولیت کا بڑی عمدگی سے مظاہرہ کیا۔ نیز دیگر اداروں کی بہ نسبت قیمت کو نہایت مناسب سطح پر رکھا تاکہ ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق کتاب باسانی خرید سکے۔

ہمارا اشاعتی پروگرام اس تیزی سے ترقی نہ کرتا اگر ہمیں ممتاز علماء کرام کی سرپرستی حاصل نہ ہوتی جن میں درج ذیل محسنین اسلام و سنت خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

☆ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ

(بانی جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، شیخو پورہ)

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

☆ محقق عصر شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد عبدالکلیم شرف قادری مدظلہ
بانی مکتبہ قادریہ لاہور

☆ ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا محمد منشاہد ایش قسوری
صدر شعبہ قاری جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

☆ محترم المقام حضرت الحاج محمد مقبول احمد قادری ضیاء مدظلہ
بانی رضا اکیڈمی لاہور

اور اب حضرت علامہ مولانا مفتی صاحبزادہ محمد عبدالمصطفیٰ ہزاروی مدظلہ شیخ الحدیث
جائشین مفتی اعظم پاکستان و ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کی سرپرستی میسر ہے۔ جن
کی وساطت سے ادارہ کو قابل قدر اور لائق اشاعت کتابیں وصول ہوتی رہیں گی۔
جنہیں طباعت و اشاعت سے آراستہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔

موصوف کے وسیلہ سے پیش نظر نہایت جامع اور تحقیقی کتاب ”خیر بشر کی نوری
بشریت“ حاصل ہوئی جسے ملت اسلامیہ کی نامور مذہبی شخصیت محترم و مکرم جناب حاجی
محمد رفیق صاحب برکاتی قادری دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائی جو برکاتی فاؤنڈیشن
کراچی کے بانی و سربراہ ہیں۔

ہم موصوف کی اس شفقت و کرم نوازی پر تہ دل سے شکر یہ ادا کرتے ہوئے
ملتس ہیں کہ صحیح عقائد و نظریات پر مبنی تصانیف عنایت فرماتے رہا کریں۔ انشاء اللہ
العزیز ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی نگاہ کرم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اشاعت کے سلسلہ میں مایوس نہیں ہونے دیں
گے۔ اب ہماری طباعتی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع و کشادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے عزم
مہم کر رکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کے علاوہ بڑی بڑی کتب کو بھی اہل علم و قلم اور
شائقین مطالعہ کی خدمت میں پورے اعتماد سے پیش کرتے رہیں ابھی حال میں
مندرجہ ذیل کتابوں کو شائع کرنے کی سعادت نصیب ہوئی چند ایک کے نام ملاحظہ
فرمائیے۔

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

جامع الاحادیث (کامل چھ جلد) (اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ)

فتاویٰ حامدیہ

فتاویٰ بریلی شریف

فتاویٰ فیض الرسول (کامل تین جلد)

فتاویٰ برکاتیہ

امام احمد رضا اور علم حدیث (کامل ۳ جلد)

نجات الانس 'بہار شریعت کامل (۲۰ حصے)

سنہری عبادت ترجمہ کیمیائے سعادت

زینت المحافل ترجمہ نزہۃ المجالس

اور ان کے علاوہ سینکڑوں کتابیں جو مسلک حق اہل سنت و جماعت کی ترجمانی و

پاسبانی پر مبنی ہیں شائع ہو چکی ہیں۔

سیدین نمبر:

ماہنامہ اشرفیہ مبارک پور نے اپنی اشاعتی تاریخ میں خانقاہ عالیہ برکاتیہ ماہرہ شریف کی دو عظیم شخصیتوں کے احوال و آثار کو اس شان سے مرتب کر کے شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ اس سے پہلے کسی سنی مجلہ و جریدہ نے اتنا عظیم اور ضخیم نمبر شاید ہی پیش کیا ہو۔ یہ نمبر تقریباً چودہ صد صفحات پر مشتمل خانقاہ عالیہ برکاتیہ ماہرہ شریف کی نہایت جامع اور مستند تاریخ ہے جہاں سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ ایسے مجدد وقت نے بھی فیضان کا وسیع ذخیرہ اپنے دامن میں سمیٹا اور پھر پوری دنیا میں تاحین حیات تقسیم کرتے رہے۔

پاکستان میں پہلی بار "سیدین نمبر" کو اشاعتی لباس پہنانے کی ہم طرح ڈال چکے

ہیں۔

بس دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمارے مقاصد حسنہ کو شرف قبول سے نوازے۔ آمین

زیر نظر کتاب "خیر بشر کی نوری بشارت" کسی تیبہ و کی محتاج نہیں۔ اس کے عالی

مرتبہ مصنف علامہ عبدالستار ہمدانی معروف برکاتی نوری مدظلہ عالم اسلام میں نہایت مقبول و منظور ہیں۔ ۱۰۰ سے زائد کتابیں لکھ چکے ہیں اور موصوف کی ہر کتاب تحقیق پر مبنی ہے۔ زیب مطالعہ کتاب کو ہی لیجئے اور پڑھنے کے بعد فیصلہ کیجئے۔ یقیناً آپ کہیں گے کہ مصنف نے تحقیق کا حق ادا کر دیا۔

فقط والسلام

ملک شبیر حسین

بانی ادارہ شبیر برادرز لاہور

۱۲ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ / ۳ مئی ۲۰۰۴ء پیر

<http://t.me/Tehqiqat>

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

”خیر بشر کی توری بشریت“

فہرستِ عنوانات

- عرض ناشر ۱۹
- تقریظِ جلیل ۲۲
- بشر یعنی کیا؟ ۲۶
- حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی قوم کے کافروں نے اپنے جیسا
”بشر“ کہا..... ۲۶
- حضرت صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی قوم کے کافروں نے اپنے
جیسا ”بشر“ کہا..... ۲۷
- حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اصحاب الایکہ نے اپنے
جیسا ”بشر“ کہہ کر جھٹلادیا..... ۲۸
- فرعون اور فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت
ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے جیسا ”بشر“ کہا..... ۳۲
- حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دو حواریوں کو کافروں اور مشرکوں
نے اپنے جیسا ”بشر“ کہا..... ۳۳
- اولوالعزم انبیائے کرام کو ”بشر“ کہا گیا..... ۳۵
- اگلی امتوں کے کفار انبیائے کرام کو ”بشر“ کہہ کر کافر ہوئے..... ۳۹
- حضور اقدس ﷺ کو بھی کفار، مشرکین، منافقین، یہود اور نصاریٰ نے
اپنے جیسا ”بشر“ کہنے کی گستاخی کی تھی..... ۴۰
- سب سے پہلے ابلیس نے نبی کو ”بشر“ کہا ہے..... ۴۸

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

- شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کس وجہ سے مجذوم کیا؟ ۵۲
- انبیائے کرام کو اپنے جیسا "بشر" کہنے والوں کو شیطان نے ہی یہ ذہنیت دی ہے ۵۸
- انبیائے کرام کے خلاف کی جانے والی برسائش میں شیطان شریک ہوتا ہے ۶۰
- دارالندوہ کی میٹنگ میں شیطان بصورت شیخ نجدی حاضر تھا ۶۰
- قوم لوط کو لواطت کا فعل قبیح شیطان نے سکھایا ہے ۶۳
- قرآن شریف میں حضور اقدس ﷺ کے لیے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کا ارشاد خداوندی کیوں نازل ہوا ہے؟ ۶۶
- حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزات ۷۲
- حضرت عزیر بن شرحبیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ۷۳
- یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا ۷۹
- حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نمرود کو لکارا کہ اگر تو خدا ہے تو سوچ کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کر کے دکھا ۸۱
- حضور اقدس رحمت عالم ﷺ کے چند عظیم الشان معجزات ۸۲
- مردہ لڑکی کو قبر میں زندہ فرمایا ۸۷
- پکائی ہوئی بکری پھر زندہ ہو گئی ۸۸
- حضرت جابر بن عبد اللہ کے دو مردہ بیٹوں کو زندہ فرمایا ۸۸
- چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ۹۰

- ۹۱ حضورِ اقدس کو پتھر، درخت چٹان وغیرہ سلام کرتے تھے
- ۹۲ جانوروں نے رسالت کی گواہی دی اور سجدہ تعظیمی کیا
- ۹۴ مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے
- ۹۶ درخت اپنی جڑیں اکھاڑ کر خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا

۹۸ لمحہ فکر یہ !!!

- ۱۰۰ "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" آیتِ قرآنی کا مطلب و معنی اور اس کی صحیح تفہیم
- آیت کے شروع میں وارد لفظ "قُلْ" کے استعمال میں کیا حکمت خداوندی ہے؟
- ۱۰۳ قرآن میں "بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کہنے کی کیا وجہ ہے؟
- ۱۰۵ "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کا خلاصہ اور اس کی ضروری وضاحت
- ۱۰۸ آیاتِ محکمات
- ۱۰۹ آیاتِ مشابہات
- ۱۱۲ آیاتِ مشابہات کے متعلق مزید وضاحت
- ۱۱۴ منافقین آیتِ مشابہات کے ظاہری معنی کو دلیل بنا کر گمراہی سے بھولتے ہیں
- ۱۱۹ ایک نہایت عبرت انگیز واقعہ
- ۱۲۱ سیدنا فاروق اعظم کا ارشاد گرامی
- ۱۲۲ آیاتِ محکمات و مشابہات کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس کا ارشاد
- ۱۲۴ عالی
- ۱۲۶ "أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" آیاتِ مشابہات سے ہے

بارگاہ رسالت میں گستاخی کرنے کی غرض سے منافقین زمانہ "أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کی طرح دیگر آیاتِ مشابہات کو بھی دلیل بناتے ہیں ۱۲۷

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ كَأَن تَرَ جُرْمَهُ وَأَرَأَيْتَ كَيْفَ تَفْصِيْلِي وَضَاحَتِي وَتَفْصِيْمِي

۱۳۳

جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ نے آیت شریف "وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ" کا کیا ترجمہ اور وضاحت بیان فرمائی ہے؟

۱۳۷

قلعہ حلب کے حاکم کا تعارف اور اسلامی لشکر سے مقابلہ کی کیفیت حاکم یوقنا کو حضور اقدس ﷺ نے خواب میں ہی عربی زبان کا علم عطا فرما دیا.....

۱۴۰

پھر کیا ہوا؟ حاکم یوقنا نے کیا کیا؟

۱۴۲

"ضَال" کا ترجمہ وارفتہ ہونے کی ایک مزید قرآنی شہادت.....

۱۴۸

سورۃ الفتح اور سورۃ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں وارد لفظ "ذنب" بمعنی گناہ نہیں.....

۱۵۱

خَلَّ لُغَات.....

۱۵۶

عربی زبان کی لغت کے متعلق.....

۱۶۰

لغت کے تعلق سے کی گئی گفتگو کا حاصل.....

۱۶۲

ایک ضروری نکتہ.....

۱۶۵

امام احمد رضا کے ترجمہ پر اعتراض کے امکان کا مقدم اور اختصاراً تحقیقی جواب.....

۱۶۹

"أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" خطاب کن سے ہے.....

۱۷۰

حضور اقدس نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ اور صحابہ کرام حضور اقدس کو اپنے جیسا "بشر" کہتے تھے یا نہیں بلکہ کہا کرتے تھے؟

۱۷۸

- قرآن مجید کی آیتوں کے الفاظ کے ظاہری لغوی معنوں کو دلیل بنا کر کوئی عقیدہ یا عمل مقرر کرنا گمراہیت و بے دینی کا دروازہ کھولتا ہے..... ۱۸۱
- حضرت سیدنا مولیٰ علی نے بے علم و اعظ کو مسجد سے نکلوا دیا..... ۱۸۶
- قرآن مجید کی منسوخ اور ناسخ آیتوں کے متعلق..... ۱۸۷
- ”لکم دینکم ولی دین“ آیت منسوخ ہے اور کیوں منسوخ ہے؟..... ۱۹۱
- منافقین زمانہ منسوخ اور متشابہ آیات ہی بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ ۲۰۰
- کافر کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں؟..... ۲۰۲
- قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر و وضاحت کے متعلق..... ۲۱۳
- قرآن کی تفسیر..... ۲۱۵
- تفسیر قرآن از قرآن..... ۲۱۶
- تفسیر قرآن از احادیث..... ۲۱۷
- تفسیر قرآن از صحابہ کرام..... ۲۱۸
- تفسیر قرآن از تابعین..... ۲۲۰
- دور تابعین کے بعد کے مفسرین..... ۲۲۱
- اللہ و رسول کا فرمان اور منافقین زمانہ کے اقوال..... ۲۲۸
- ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کی طرح دیگر آیات قرآنیہ میں بھی منافقین زمانہ کے غلط تراجم..... ۲۳۰
- اللہ تعالیٰ کی شان میں لفظ ”مکر“ کا استعمال..... ۲۳۲
- اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ”داؤ“ کا استعمال..... ۲۳۳
- اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ”دعا“ کا استعمال..... ۲۳۴
- حضرت آدم کے لیے ”گمراہ“ اور ”نافرمانی“ کے الفاظ کا استعمال..... ۲۳۵
- ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کے لفظی معنی کو دلیل بنا کر حضور اکرم کو اپنے جیسا ”بشر کہنے والے خود اپنی جال میں پھنستے ہیں..... ۲۴۲

- ۲۴۴ دلیل نمبر ۱۔
- ۲۴۵ دلیل نمبر ۲۔
- ۲۴۸ دلیل نمبر ۳۔
- ۲۴۹ دلیل نمبر ۴۔
- ۲۵۸ دلیل نمبر ۵۔
- ۲۶۲ دلیل نمبر ۶۔
- ۲۶۹ حضورِ اقدس ﷺ کیسے بشر تھے؟
- ۲۷۱ حضورِ اقدس کی نورانی بشریت
- ۲۷۶ نورِ مصطفیٰ
- ۲۷۹ قرآن میں حضورِ اقدس کو "نور" کہا گیا ہے
- ۲۸۰ قرآن میں ہے کہ حضورِ اقدس ﷺ اللہ کی واضح دلیل ہیں
- ۲۸۴ ایک اہم سوال
- ۲۸۴ حضورِ اقدس ﷺ کی تین حیثیتیں
- ۲۸۶ حضورِ اقدس ﷺ کی کیفیت صوری بشری
- ۲۸۸ حضورِ اقدس ﷺ کی کیفیت صوری حقی
- ۲۸۸ حضورِ اقدس ﷺ کی کیفیت صوری ملکی
- ۲۹۰ حضورِ اقدس ﷺ کی تابناک اور درخشاں نوری بشریت اور صورت بشری کے اعجاز و کمالات
- ۲۹۰ صورت بشری کے اعجاز و کمالات
- ۲۹۲ بے مثل ولادتِ باسعادت
- ۲۹۳ ولادت کے وقت ہی معجزات کا ظہور
- ۲۹۴ جسمِ اقدس کے ساتھ کس قسم کے آثار و کمالات

- ۲۹۴ ولادت کے وقت نور کی بارش
- ۲۹۵ ولادت کے وقت ہی پوری دنیا حضور کے قبضہ میں
- ۲۹۶ خانہ کعبہ سجدے میں جھکا
- ۲۹۷ گہوارے میں سے جدھر انگلی کا اشارہ فرماتے ادھر چاند جھک جاتا۔
- ۲۹۸ آپ مختون پیدا ہوئے
- ۲۹۸ عالم شیرخواری میں گہوارہ میں کلام فرماتا
- ۲۹۹ بے مثل ایام طفلی
- ۳۰۲ اقوال ائمہ دین
- ۳۰۵ نورانی چہرے کا بے مثل جمال
- ۳۰۵ چہرہ اقدس انوار الہیہ کا آئینہ
- ۳۰۶ چہرہ انور سورج کی طرح درخشاں
- ۳۰۶ چہرہ انور چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن
- ۳۰۶ آفتاب کی طرح چمکنے والا چہرہ انور
- ۳۰۷ چاند سے بھی زیادہ منور چہرہ انور
- ۳۰۷ چہرہ انور کی روشنی سے گم شدہ سوئی مل گئی
- ۳۰۷ سب سے زیادہ حسین اور جمیل
- ۳۰۸ سینہ مبارک کی خوشبو سب سے اعلیٰ مہک
- ۳۰۸ تمام خوشبوؤں سے بہتر سینہ اطہر کی خوشبو
- ۳۰۹ وہن کے لیے سینہ اطہر کی خوشبو لگانے سے پورا شہر مہک اٹھا
- ۳۰۹ حضور اقدس جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ مہک اٹھتا تھا
- جس کے بدن کو حضور ہاتھ سے مس فرماتے، اس میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی
- ۳۱۰
- ۳۱۱ مشک وغیرہ جسے اقدس کی خوشبو اور ہاتھ

- ۳۱۲ مقدس کان کی قوتِ سماعت
- ۳۱۲ آسمان کی چرچر اہٹ سماعت فرماتا
- ۳۱۳ شکمِ مادر سے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز
- ۳۱۴ حضور اقدس ﷺ کے لعابِ دہن کا اعجاز
- ۳۱۳ مدینے کا کھاری کنواں سب سے بیٹھا کنواں بن گیا
- ۳۱۴ کنویں کے پانی میں مشک کی خوشبو پیدا ہوگئی
- ۳۱۴ حضرت مولیٰ علی مرتضیٰ کی دکھتی آنکھیں فوراً اچھی ہو گئیں
- ۳۱۵ یمن کا کھاری کنواں یمن کا سب سے بیٹھا کنواں بن گیا
- ۳۱۶ ہاتھ کا پھوڑا فوراً دور ہو گیا
- ۳۱۶ مقدس آنکھیں
- ۳۱۷ جنگِ موتہ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما دیا
- ۳۱۸ آگے پیچھے اور رات کی تاریکی میں دیکھنا
- ۳۲۰ حضور اقدس کے دیگر جسمانی خصائص
- ۳۲۰ حضور اقدس طبعی طور پر جماعتی سے منزہ تھے
- ۳۲۱ دستِ اقدس (ہاتھ) کا پر کیف اعجاز
- ۳۲۲ دستِ اقدس پھیرتے ہی ٹوٹا ہوا پاؤں درست ہو گیا
- ۳۲۳ زخمی آنکھ کا رخسار پر لٹک جانا اور دستِ اقدس سے درست فرما دینا

۳۲۶ قابلِ غور و فکر حقیقت

- ۳۲۸ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ السلام نے حضور کے امتی ہونے کی تمنا فرمائی۔
- ۳۲۹ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ السلام حضور کے امتی بن کر تشریف لائیں
- ۳۳۰ گے
- ۳۳۲ منافقین زمانہ کا دعویٰ کہ عمل میں امتی نہ ہو سکتا ہے

- ۳۳۸ حضور اقدس کی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں (●)
- حضور اقدس صُورتِ بشری ہی میں دنیا میں کیوں تشریف فرما (●)
- ۳۳۹ ہوئے؟ (●)
- حضور اقدس کیوں صُورتِ بشری میں دنیا میں تشریف لائے اس گفتگو کا (●)
۳۳۹. حاصل (●)
- حضور اقدس ”نوری بشر“ تھے لہذا آپ کے اور آپ کے امتیوں کے لیے (●)
- ۳۵۱ شریعت کے احکام بھی الگ الگ تھے (●)
- ۳۵۱ کلمہ شریف کا فرق (●)
- ۳۵۲ ارکانِ اسلام (●)
- ۳۵۲ نماز کی فرضیت کا فرق (●)
- ۳۵۳ بیٹھ کر امامتِ نماز فرمانا (●)
- ۳۵۴ عصر کی نماز کے بعد دو رکعت پڑھنا (●)
- ۳۵۵ سو جانے (نیند) سے حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا (●)
- ۳۵۶ بیک وقت نکاح میں عورتوں کی تعداد کا فرق (●)
- ۳۵۷ صدقے اور زکوٰۃ کا مال حضور پر اور حضور کی آل پر حرام ہے (●)
- ۳۵۷ امتی کی بیوہ عورت کا نکاحِ ثانی (●)
- ۳۶۰ امتی کی وراثت تقسیم ہوتی ہے جب کہ انبیائے کرام کی نہیں ہوتی (●)
- ۳۶۱ حضور اقدس ﷺ کا بول و براز اور خون پاک اور طاہر ہے (●)
- ۳۶۲ خوشا نصیب (●)
- ۳۶۸ حضور اقدس ﷺ کو ”بشر“ کہنے والے کے لیے کیا حکم شرع ہے؟ (●)
- ۳۶۹ منافقین زمانہ کی ایک بے تکی بے شعور دلیل (●)

۲۷۷ حضورِ اقدس کو بشر کہنے کے متعلق شرعی حکم

- ۳۸۱ خوب یاد رکھو.....
- حضورِ اقدس ﷺ کو اپنے جیسا "بشر" کہنے والے ذورِ حاضر کے منافقین
- ۳۸۲ اپنے پیشوا اور مولوی کو کیا کہتے ہیں؟.....
- ۳۸۹ حل لغات.....
- ۳۹۵ ٹائڈوی صاحب کا "کھدر پریم".....
- ۳۹۷ ٹائڈوی صاحب عالم نور میں رہتے ہیں اور خود بھی نور ہو گئے ہیں؟.....
- ۴۰۶ دارالعلوم دیوبند کے صدرالمدربین مولوی محمود الحسن دیوبندی ہیں؟.....
- گنگوہی صاحب کی قبر کو کوہ طور سے تشبیہ دے کر "ارنی" یعنی تیرا جلوہ
- ۴۰۶ دیکھا پکارا.....
- ۴۱۲ خدائے تعالیٰ سے بڑھ کر تھانوی صاحب کا ڈر؟.....
- ۴۲۱ آیات قرآنیہ سے مسئلے کی وضاحت.....
- ۴۲۷ اس سلسلہ کی چند دیگر آیات.....
- ۴۳۳ منافقین زمانہ کے اعتقاد اور نظریات.....
- ۴۴۰ مآخذ و مراجع.....

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بشریت کا مسئلہ شروع سے لے کر آج تک ہر دور میں زیر بحث رہا ہے۔ خصوصاً موجودہ زمانہ کے منافقین اپنے گستاخانہ جذبے کو تسکین دینے کے لیے انبیائے کرام اور اولیائے عظام کی ذواتِ مقدّہ کو صرف ”بشر“ یا ”اپنے مثل بشر“ کہتے ہیں اور اپنے اس فاسد نظریہ کی تائید میں قرآن مجید کی آیت کریمہ **قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** کے معنی اور مفہوم کو من گھڑت طور پر دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں اور عوام الناس کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔

بے شک تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بشر ہیں، لیکن ان کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں، ان کی بشریت اور عام انسان کی بشریت میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ اس عظیم فرق کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کتاب کو اول تا آخر بغور مطالعہ فرمائیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ انبیائے کرام کی بشریت کا معاملہ روز روشن کی طرح صاف اور عیاں ہو جائے گا۔ اس مسئلہ کی تفہیم اور توضیح کے سلسلہ میں ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور ائمہ دین و بزرگان ملت کے اقوال و ارشادات معتبر کتابوں کے حوالوں سے ہی پیش کیے جائیں۔

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

”بشر یعنی کیا؟“

مختلف زبانوں کے لغات کا جائزہ لینے سے ”بشر“ کے لغوی معنی میں ① آدمی ② انسان ③ منس ④ مائوی ⑤ نانس ⑥ حیوان مطلق یعنی بولنے والا حیوان ⑦ پدائی ⑧ ذلتی ⑨ Mortals ⑩ Mankind ⑪ نفس ⑫ بنی آدم وغیرہ ہوتے ہیں۔ مختصراً بشر یعنی انسان اتنی بات ذہن نشین رکھ کر اس بحث کو آگے بڑھائیں۔

اس دنیا میں جس کسی نے بھی بطور انسان جنم (پیدا ہونا) لیا ہے وہ چاہے مرد ہو، عورت ہو یا بچہ مرد اور عورت کے درمیان کا طبقہ یعنی خنثی یعنی خنث (بچھڑا) ہو اس کو بشر کہا جائے گا یعنی انسان یا آدمی کہا جائے گا۔ اس دھرتی پر پیدا ہونے والا یعنی ماضی میں جو بھی انسان پیدا ہوا ہے وہ مستقبل میں باقیامت پیدا ہونے والا ہر انسان یعنی بشر مخلوق ہی ہے، خالق نہیں۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہی خالق ہے۔ وہی کائنات کا خالق اور معبود یعنی عبادت کے لائق ہے۔

نسل انسانی کا آغاز خلیفۃ اللہ فی الارض ابو البشر، حضور سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہوا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام انسانی کے ولما جاننے کی وجہ سے ”ابو البشر“ کے لقب سے لقب کیے جاتے ہیں۔ تمام انسان آپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے ”آدمی“ کہے جاتے ہیں۔ انسان کی پیدائش کا سلسلہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک جاری رہا رہے گا۔

نوع انسانی حسب جنس دو قسم پر ہے (۱) مرد اور (۲) عورت۔ مگر ایک چیز اور بن و بیون کے درمیان طبقہ کے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت ہی کم ہے بلکہ ان کے نام ہی ہوتی ہے لہذا ان کو الگ شمار کرتے ہوئے یہ مسلم اصول طے شدہ ہے کہ جس کسی نے بھی مطلقاً انسان سے پیدا ہونے کا شرف حاصل کیا ہے مگر چاہے وہ مرد ہو یا عورت اسے آدمی یا انسان یا بشر کہا جائے گا۔

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

آدمی، انسان یا بشر کی بھی کئی قسمیں ہیں، بے شمار اقوام، ذات، گوت، گوتہ قبیلے، خاندان، نسل، حسب نسب، گھرانے، فرقے وغیرہ میں انسان منقسم ہیں۔ ان تمام اقسام کا انفرادی تذکرہ نہ کرتے ہوئے صرف اسلامی نقطہ نظر سے انسان کو دو اقسام میں منقسم کریں یعنی (۱) مؤمن اور (۲) غیر مؤمن۔ قسم اول میں ایمان والے، موحد، مسلمان، مطہج، فرمانبردار اور اللہ و رسول کے احکام کو تسلیم کرنے والے افراد کا شمار ہوگا۔ اور قسم دوم یعنی غیر مؤمن میں کافر، مشرک، یہودی، نصاریٰ، مجوسی، غیر موحد، مرتد، منافق، اور دیگر ادیان باطل کے قبیحین کا شمار ہوگا۔ المختصر! مؤمن یعنی اللہ اور رسول اور اس کی کتابوں اور احکام کو مانتے والا اور غیر مؤمن یعنی انکار کرنے والا۔

ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی ہدایت اور بھلائی کے لیے انبیاء و مرسلین علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام مبعوث فرمائے۔ ہر نبی یا رسول کے زمانہ میں مؤمن اور غیر مؤمن دو قسم کے لوگ تھے۔ مؤمن اپنے نبی کو اللہ کا رسول تسلیم کر کے ان کی ہر بات اور حکم کو مانتا تھا۔ جب کہ غیر مؤمن انکار کرتا تھا۔ ابوالبشر حضرت سیدنا آدم سے لے کر سید المرسلین، محبوب رب العالمین، رحمۃ العالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم وسلم کے زمانہ اقدس تک کم و بیش ایک لاکھ، چوبیس ہزار (1,24,000) انبیائے کرام دنیا میں تشریف لائے۔ وہ تمام کے تمام انسان ہی تھے۔ ان میں کا ایک بھی نبی فرشتہ یا جتات میں سے نہیں تھا۔ کیونکہ نبوت کا تاج کرامت و شرافت صرف انسان کو ہی عطا ہوا ہے۔ اشرف المخلوقات یعنی انسان کے سوا کوئی بھی مخلوق نبوت و رسالت سے سرفراز نہیں کی گئی۔ علاوہ ازیں وہ تمام مقدس انبیائے کرام ”مرد کامل“ تھے۔ کسی بھی عورت کو نبوت عطا نہیں کی گئی۔

جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کسی بھی عورت کو نبوت نہیں ملی تو اس کا حاصل کلام یہ ہوا کہ نوع انسانی میں سے صرف مردوں کو ہی نبوت ملی ہے۔ لہذا ہماری اس بحث سے نوع انسانی کی قسم ثانی یعنی عورت کو ہم مستثنیٰ کر کے اور خواتین کو پردہ میں مستور کر کے اب صرف ”مرد“ کے تعلق سے ہی گفتگو کریں گے۔ لہذا اب جہاں کہیں بھی لفظ ”انسان“ آئے گا اس سے مراد ”انسان مرد“ ہوگا۔ اس نقطہ کو محترم مقام کرام ذہن نشین رکھیں۔

انسان چاہے جس ملک کا بھی ہو، اس کے اعضاء، جسمانی کی تخلیق مساوی ہی ہوتی ہے۔ دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھ، ایک ناک ایک سر، وغیرہ وغیرہ حالانکہ ملک و مقام کے تفاوت کے اعتبار سے قد و قامت، جسامت، رنگ و روپ میں ضرور فرق ہوتا ہے لیکن اصل تخلیق میں باعتبار اعضاء جسمانی تمام انسان مساوی ہوتے ہیں۔ آج تک اس سر زمین پر کروڑوں بلکہ اربوں کی تعداد میں انسان پیدا ہوئے ہیں۔ انسانوں کی اس کثیر تعداد میں سے صرف چند انسان یعنی کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار ”مقدس انسان“ ہی بطور نبی یا رسول اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ بحیثیت نبی یا رسول مبعوث ہونے والے مقدس حضرات انسان ہی تھے لیکن وہ تمام حضرات عام سطح کے انسانوں کی طرح نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور چنے ہوئے ”خاص انسان“ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو بے شمار خصوصیات عنایت فرمائی تھیں اور سب سے بڑی خصوصیت یہ عطا فرمائی تھی کہ انہیں نبوت و رسالت کے تاج کرامت سے نوازا تھا۔

اللہ تعالیٰ کے مبعوث فرمائے ہوئے ”مخصوص انسان“ یعنی انبیاء و مرسلین کا مقصد حیات لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو صرف ایک ہی اللہ واحد العبادت کی پرستش و عبادت اور توحید خالص کی تعلیم و ہدایت کرنا، برائی سے روکنا اور نیکی و بھلائی کی راہ پر گامزن کرنا تھا۔ ہر نبی پر وحی یعنی خدا کا پیغام آتا تھا۔ ان حضرات پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حکم (وحی) نازل ہوتا تھا اُسے من و عنین لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ اس فریضہ تبلیغ میں وہ حضرات کسی قسم کی کوتاہی یا کاہلی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ کامل طور سے فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ادا کرتے تھے۔ اور لوگوں کو احکام الہیہ کی تعمیل کی تاکید، توثیق، اور ترغیب میں حد درجہ کوشش فرما کر لوگوں کو اعمال صالحہ پر عمل پیرا فرماتے تھے۔

لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے جو انبیاء کرام تھے وہ انسان ہی تھے اور جن لوگوں (امت) تک اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا تھا، وہ تمام لوگ بھی انسان ہی تھے۔ یعنی اللہ کے کچھ خاص انسان اللہ کا پیغام اللہ کے عام انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ ان خاص انسان اور عام انسان کے جسمانی اعضاء و اعضاء کا شکل و صورت ایک ہی تھا۔ ان کا اعتبار و احترام

درجات ان میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ عظیم فرق تھا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبعوث فرمودہ ”خاص انسان“ یعنی انبیائے کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اللہ کا حکم اپنی قوم (امت) تک پہنچانے میں کسی قسم کا ڈر، خوف، غم، یا جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ بلکہ بلا خوف لَوْمَةً لَانہم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیتے تھے۔ ان حضرات قدسیہ نے کبھی بھی یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ پیغام الہی لوگوں کو پسند آئے گا یا نہیں؟ بلکہ انہوں نے صاف لفظوں میں لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا دیا کہ اے لوگو! اے میری قوم! اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام مت کرو۔ نیکی اختیار کرو اور برائی سے پرہیز کرو۔ ہدایت کا راستہ اپناؤ اور گمراہی کی راہ پر چلنے سے اجتناب کرو۔ الغرض! انبیائے کرام نے ہمیشہ اپنی امت کو نیکی، بھلائی اور اخلاقی محاسن کی ہی تعلیم و تلقین فرمائی ہے۔ لیکن ان انبیائے کرام کے تمام امتیوں کو ان کی اخلاقی محاسن پر مشتمل تعلیم و تربیت پسند نہ آتی۔ کیونکہ ان کی قوم کے اوباش، لوفر، فساق، فجار، جرائم پیشہ، بت پرست، کفار، مشرک، اور مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے افراد کو انبیائے کرام کی دعوت حق سے بڑی تکلیف ہوئی اور ان مجرمانہ اور مشرکانہ ذہنیت رکھنے والے افراد کو اپنا ذاتی اور مالی خسارہ نظر آیا۔ مثال کے طور پر بت پرستی کا پیشہ کرنے والے کو جب اطلاع ہوئی کہ ہماری قوم کے نبی نے بت پرستی کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ تو اس کو اپنا ذاتی مفاد خطرہ میں محسوس ہونے لگا کیونکہ بت پرستی کے پیشہ میں بتوں پر جو چڑھاوا، بھینٹ، بلی، وغیرہ رسوم کے ذریعہ جو مستقل اور کثیر آمدنی ہوتی تھی وہ یک لخت بند ہو جانے کا اندیشہ نظر آنے لگا۔ باپ دادا کے زمانہ سے ہونے والی اور چلی آتی آمدنی کا سلسلہ اب منقطع ہو جائے گا۔ اس خیال سے وہ تمللا اٹھے۔ آرام و راحت سے بسر ہونے والی زندگی اب مشقت و پریشانیوں سے دوچار ہوگی۔ اس تصور نے انہیں مضطرب کر دیا۔ ہائے! اب کیا ہوگا؟ بیوی بچوں کی پرورش اور خاندان کے لیے ذریعہ معاش کا کیا انتظام ہوگا؟ اب کونسا کاروبار کروں گا؟ کونسی تجارت شروع کروں گا؟ نہ جانے وہ تجارت نفع بخش ہوگی یا نہیں؟ عرصہ دراز سے آرام سے بیٹھ کر حرام کی روٹیاں کھاتی ہیں، اب محنت و مشقت کس طرح ہو سکے گی؟ اگر قوم نے انہیں کھانا کھانے کو تسلیم کر لیا اور کھانا کھا لیا تو وہ تو دیوالیہ نکل جائے گا۔

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

امیری اور تو نگری کے دن رخصت ہو کر غریبی اور مفلسی کے ایام شروع ہوں گے۔ لہذا اب کچھ کرنا چاہئے۔ لوگوں کو نبی کی بات تسلیم کرنے سے روکنا چاہئے۔

صرف بت پرستی کے پیشہ آور ہی نہیں بلکہ بھو، شراب، طوائف کی دیوثی وغیرہ جیسے قبیح اور مذموم پیشہ آور بھی اسی طرح کی ذہنی اُلجھن میں پڑے ہوئے تھے کیونکہ ان کی قوم کے نبی نے پرستش اصنام کے ساتھ ساتھ زنا، شراب، بھو وغیرہ جیسے قبیح افعال کی بھی ممانعت فرمادی تھی۔ لہذا قوم کے ان اوپاش اور بد معاش افراد نے متحدہ محاذ کی شکل اختیار کی۔ سب کو اپنے اپنے ذاتی اور معاشی مفاد کی فکر لگی ہوئی تھی۔ قریب کے مستقبل میں پیش آنے والی غربت اور مالی خسارہ کا بھیا نک منظر نگاہوں کے سامنے اُبھر آیا تھا۔ اس آنے والی آفت کی روک تھام کے لیے کوئی تدبیر کارآمد ہوگی اس مسئلہ پر گہری سوچ و فکر میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ کہنے کی ہمت اور حوصلہ کسی میں نہ تھا کہ چاہے خدا کا حکم ہے مگر میں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤں گا۔ ایسا کہنے سے قوم کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ خدا کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرنا ممکن نہیں۔ لہذا انہوں نے ایک متفقہ تدبیر سوچ نکالی کہ قوم کو اپنے نبی کی بات ماننے سے روکنے کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم قوم کے سامنے یہ اعلان کر دیں کہ:-

”خدا کا حکم ماننے سے ہمیں انکار نہیں۔ خدا کے حکم کے سامنے ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدا نے ہی یہ حکم دیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر یہ جواب ملا کہ خدا نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے اور خدا کے نبی نے خدا کا حکم ہم کو سنایا ہے تو ہم یہ کہہ کر ان کی بات کا رد کر دیں گے کہ یہ غلط ہے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نبی تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ اگر خدائے تعالیٰ ہم تک کوئی حکم پہنچانا چاہتا تو ضرور کسی فرشتہ کو ہم تک بھیج کر اپنا حکم پہنچا دیتا۔ ان نبیوں میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ ان کے ذریعہ ہم تک اپنے احکام پہنچائے؟ کیوں کہ خدا کا حکم ہم کو سنانے والے نبی تو ہمارے جیسے ہی بشر ہیں۔ یہ نبی خدا کا حکم ہم کو سنانے کے بہانے ہم پر فضیلت اور فوقیت حاصل کر کے قوم کے سردار اور

”

مذکورہ بالا تجویز و تدبیر کو اپنا آئین مقصد بنا کر قوم کے اوباش افراد نے ایک اتحادی منظم سازش کے تحت انبیائے کرام کی بات سے لوگوں کو متنفر اور منحرف کرنے کی غرض فاسد سے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہم کو خدا کا حکم ماننے سے قطعاً انکار و تردید نہیں لیکن جو نبی ہم کو خدا کا حکم سنا رہے ہیں، وہ تو ہمارے جیسے بشر (انسان) ہیں۔ ان کی بات پر ہم اعتماد اور بھروسہ کیسے کریں؟ کفار، مشرکین اور دیگر رذیل افراد کے ”غیر مؤمن“ گروہ نے انبیائے کرام کی بات تسلیم کرنے سے لوگوں کو روکنے کے لیے توہین و تنقیص انبیائے کرام کے لیے ”بشر“ ہونے کا بہانہ ہاتھ پر دھرا اور ہر بات کا انکار کرنے کے لیے صرف ”بشر“ ہونے کا بہانہ پیش کرنے لگے۔

المختصر! ہر نبی اور رسول کے دور میں انبیائے کرام کے دشمنوں اور گستاخوں نے ”بشر“ ہونے کا معاملہ اٹھا کر یکساں سلوک کیا ہے۔ نبی کو بشر کہنے کی ذہنیت ان کو ان کے مقتدا اور گرد گھنٹال ابلیس لعین نے دی ہے کیونکہ سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا شیطان ہے۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کا بین ثبوت موجود ہے۔ جس کی تفصیلی بحث ہم انشاء اللہ اگلے صفحات میں زیور گوش سامعین اور مبصر چشم ناظرین کی غرض سے پیش کریں گے۔

قرآن مجید میں نبی و رسول کے مخالفین یعنی کفار، مشرک، مرتد، و منافق گروہ کی اس ”بشر“ والی بولی کا متعدد مقام پر تذکرہ ہے۔ جن میں سے چند آیات کریمہ پیش خدمت ہیں:-

”حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی قوم کے کافروں نے اپنے جیسا ”بشر“ کہا“

حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی قوم کو بت پرستی اور دیگر افعال رذیلہ و قبیح سے روکتے ہوئے فرمایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بتوں کو پوجنا چھوڑ دو اور نیکی اور

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بھلائی کی راہ اختیار کرو۔ تب حضرت نوح کی قوم کے کافروں نے جواب دیتے ہوئے کہا:۔

فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَكًا

حوالہ:- پارہ: ۱۸، سورۃ المؤمنون، آیت: ۲۴

ترجمہ:- تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے یہ تو نہیں مگر تم
جیسا آدمی، چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اُتارتا۔

(کنز الایمان)

اس آیت میں ایسا ذکر ہے کہ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی قوم کے
کافر سرداروں نے اپنے جیسا بشر کہا۔ مزید برآں حضرت ممدوح کی شان میں تنقیص و توهین
کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم کو اللہ کا پیغام سنانے کے یہاں وہ ہمارا رہبر اور سردار بننا چاہتا
ہے۔ اگر اللہ کو ہم تک کوئی پیغام بھیجنا تھا تو اس ”بشر“ (انسان) کے بجائے کسی فرشتہ کو بھیج دیتا۔
اس آیت سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے جیسا
بشر کہنے والے کافر تھے۔ کیونکہ آیت، میں قَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا کے الفاظ وارد ہیں
اور جس کا ترجمہ ”جن سرداروں نے کفر کیا وہ بولے“ ہوتا ہے۔ نبی کے لیے لفظ ”اپنے جیسا
بشر“ کا استعمال کرنا زمانہ قدیم کے کافروں کا طرز عمل ہے۔

”حضرت ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی قوم کے

کافروں نے اپنے جیسا بشر کہا“

حضرت ہود علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے قوم کو توحید خالص کا پیغام دیا اور لوگوں
کو اصنام پرستش یعنی بتوں کی پوجا کرنے اور بتوں کو اپنا معبود ماننے سے روکا اور صرف ایک
اللہ واحد اقدس کی عبادت کرنے کی نصیحت فرمائی تو ان کی قوم کے کافروں نے قوم کے لوگوں کو

marfat.com

حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بات تسلیم کرنے سے روکنے کے لیے قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کی بات مت مانو، یہ تمہاری طرح بشر ہیں۔ تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں۔
علاوہ ازیں قوم نوح اور قوم عاد کے کافروں نے بھی اپنے اپنے نبی کے متعلق یہی بات کہی تھی۔ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح ہے کہ:-

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. وَلَئِنِ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخُسِرُونَ-

(پارہ: ۱۸، سورۃ المؤمنون، آیت: ۳۳، اور ۳۴)

ترجمہ:- ”کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے۔ اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو، جب تو تم ضرور گھائے میں ہو۔“ (کنز الایمان)

مندرجہ بالا آیت میں قوم نوح، قوم ہود، اور قوم عاد کے کفار کا مقولہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے نبی کی شان و عظمت گھٹانے کے لیے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ نبی تم جیسے ہی بشر ہیں اور جو تم کھاتے پیتے ہو یہ بھی وہی کھاتے پیتے ہیں اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی فرمانبرداری کی تو تم ضرور گھائے یعنی نقصان میں ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ قوم نوح، قوم ہود اور قوم عاد کے کافروں نے ”بشر“ ہونے کا سبب اور بہانہ جتا کر اپنی قوم کو انبیائے کرام کے خلاف ورغلانے اور اُکسانے کی کوشش کی اور قوم کو دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کی تو تم کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ قوم نوح، قوم ہود اور قوم عاد کے کافروں نے بھی اپنے اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا تھا اور ان کے انسان ہونے، کھانے پینے اور بتقاضائے بشری کے افعال کو دلیل بنا کر ان کو اپنے جیسا بشر ثابت کرنے کی سعی ناکام کی تھی۔ معلوم ہوا کہ جو مؤمن نہیں ہوتا، وہی اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے کی گستاخی کرتا ہے۔ اور بشر ہونے کا بہانہ پیش کر کے نبی کا تقرب الی اللہ، تمیز کا تصرف بن اللہ، نبی کی جہالت عند اللہ، اور نبی کے اختیارات بن

جانب اللہ کا انکار کرنے کی کوشش کر کے تنقیص و توہین انبیائے کرام کے ارتکاب کا جرم عظیم کرتا ہے۔ لیکن جو سچا مؤمن ہوتا ہے وہ ان گستاخوں کی توہین آمیز گفتگو کا قطعاً اثر نہیں لیتا بلکہ ان کی ہتھیوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اور نبی کی عظمت و صداقت کا صدق دل سے قائل ہوتا ہے۔

”حضرت صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی قوم کے کافروں نے اپنے جیسا بشر کہا“

حضرت صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو برائیوں سے روکا اور خدا کے عذاب سے ڈرایا، تو ان کی قوم نے ان کے پیغام کو جھٹلانے کے لیے ”بشر“ ہونے کا ہی بہانہ پیش کیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ:-

”كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۝“ پھر چند آیتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ”مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأَبِئَاتِ بَايَةَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ“

(پارہ: ۱۹، سورہ الشعراء، آیت: ۱۴۱، اور آیت: ۱۵۴)

ترجمہ:- ”تمود نے رسول کو جھٹلایا“ ۝ ”تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو، تو کوئی نشانی لاؤ، اگر سچے ہو۔“ (کنز الایمان)

اس آیت میں صاف ارشاد ہے کہ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکنے کے لیے یہ بات ہی اٹھائی کہ تم تو ہماری طرح بشر (آدمی) ہو۔ حضرت صالح کو بشر کہنے کا ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ حضرت صالح کو ہمارے جیسا بشر کہہ کر ان کی شان و عظمت گھٹائی جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت و تعظیم جمنے نہ پائے۔ حضرت صالح کو بشر کہہ کر ان کی صداقت کو بھی چیلنج کیا اور یہاں تک کہا کہ اگر تم اپنے

martat.com

نبی اور رسول ہونے کی دعوے میں سچے ہو، تو کوئی نشانی (معجزہ) پیش کرو۔

”حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اصحابُ الایکہ نے اپنے جیسا بشر کہہ کر جھٹلایا“

حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اصحابُ الایکہ - یعنی ”بن والوں“ نے اپنے جیسا بشر کہہ کر جھٹلایا۔ یہ بن (صحرا) مدین کے قریب واقع تھا۔ جس میں کثیر تعداد میں درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ جیسا کہ اہل مدین کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۶۷۳) اصحاب مدین اور بن والوں میں یہ خرابی تھی کہ وہ ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے۔ اور کم تولتے تھے۔ علاوہ ازیں وہ رہزنی یعنی لوٹ مار اور ڈکیتی کا پیشہ کرتے تھے اور لوگوں کو لوٹ لیتے تھے اور ان کی کھیتیاں تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو اللہ کا ڈر سنایا اور ان افعالِ رذیلہ و قبیحہ سے باز آنے کی نصیحت فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زُشد و ہدایت پر مشتمل باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا لہذا انہوں نے حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت سے لوگوں کو روکنے کے لیے وہی ”بشر“ ہونے کا بہانہ پیش کیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ:-

”قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۖ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا
وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ۖ“

(پارہ: ۱۹، سورۃ الشعراء، آیت: ۱۸۵ و ۱۸۶)

ترجمہ:- بولے تم پر جادو ہوا ہے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور بے شک

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۳۶۲)

اس آیت میں صاف بیان ہے کہ قوم ثمود، قوم نوح، قوم عاد اور بعد کی دیگر اقوام کے کافروں نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کھلم کھلا کہا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو۔ تم ہم کو ہمارے باپ دادا کے دین سے منحرف کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو، تو اپنے نبی ہونے کے ثبوت میں کوئی روشن دلیل پیش کرو۔ تاکہ تمہاری نبوت کا دعویٰ سچ ثابت ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جن انبیائے کرام سے ان کی نبوت کے ثبوت میں کافروں نے دلیل طلب کی تھی۔ ان انبیائے کرام نے بہت سی روشن دلیلیں پیش فرمادی تھیں لیکن ان کی قوم نے بغض، عناد، سرکشی اور ہٹ دھرمی کی بنا پر جدید دلیل طلب کی تھی اور اب تک کے پیش کردہ معجزات کا انکار کر دیا تھا۔ الحاصل! ان کافروں نے انبیائے کرام کی رسالت کا انکار کرنے کے لیے بشر ہونے کا بہانہ پیش کیا تھا۔

”نبی کو بشر کہنے والے کافروں کو انبیائے کرام نے

کیا جواب دیا تھا؟“

جب قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، ثمود اور دیگر اقوام کے کافروں نے اپنے نبی کو ”اپنے جیسا بشر“ کہہ کر ان کی شان اور عظمت گھٹا کر ان کے منصب تبلیغ اور پیغام توحید کی وقعت و اہمیت کم کر کے لوگوں کو ان کی بات ماننے سے روکنے کی کوشش کی اور بشر ہونے کا مسئلہ زور و شور سے چھیڑا اور نبی کی رُشد و ہدایت پر مشتمل باتیں کانٹے کے لیے ہر بات میں بشر، بشر اور بشر کی راگنی آلاپنی شروع کی، تب ان کو جواب دیتے ہوئے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:-

”قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنْ اللّٰهُ يَمُنُّ
عَلٰى مَنْ دَسَّاهُ مِنْ عِبَادِهِ

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

(پارہ: ۱۳، سورہ ابراہیم آیت: ۱۱)

ترجمہ:- "ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔"

(کنز الایمان)

تفسیر:- "یعنی نبوت اور رسالت کے ساتھ برگزیدہ کرتا ہے اور اس منصبِ عظیم کے ساتھ مشرف فرماتا ہے۔"

(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۳۶۳)

اس آیت میں انبیائے کرام کے جواب کا بیان ہوا ہے۔ انبیائے کرام نے اپنی قوم کے

ان

کافروں کو جواب دیا ہے جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہہ کر ان کی تحقیر اور تذلیل کرتے تھے۔ انبیائے کرام نے ان بشر کہنے والوں کو ایسا جامع اور مانع جواب مرحمت فرمایا ہے کہ اگر ان کافروں میں ذرہ برابر بھی فہم و عقل ہوتی تو وہ انبیائے کرام کے صرف ایک جملے پر مشتمل جواب سے اپنے زعمِ باطل اور اعتقادِ فاسد کا ردِ بلیغ اور دندان شکن جواب محسوس کرتے۔ انبیائے کرام نے نبی کو بشر کہنے والے کافروں کو جو جواب دیا ہے اس کے جملے پر قارئین کرام خاص توجہ فرمائیں۔ کافروں نے کہا کہ انبیاء ہماری طرح بشر ہیں۔ انبیائے کرام نے کافروں کو جواب دیا کہ ہم ہیں تو تمہارے جیسے بشر لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اے کافرو! ہم صرف ظاہری صورت میں تمہاری طرح ہیں لیکن ظاہری صورت کی مساوات سے دھوکہ کھا کر ہم کو اپنے جیسا قیاس مت کرو کیونکہ "وَلَيْكُمُ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ" یعنی "اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔" یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرما کر ہمیں نبوت و رسالت کا تاج کرامت عنایت فرما کر ہمیں تم سے افضل اور برگزیدہ فرمایا ہے۔ اور ہم کو نبوت و رسالت کا جو منصب

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

عطا فرمایا اس منصب عالی کی وجہ سے تمہارے اور ہمارے درمیان باعتبار مراتب فرق عظیم

ہے۔ ہم تمہاری مثل نہیں

اور نہ تم ہماری مثل ہو اور نہ ہو سکتے ہو۔

”فرعون اور فرعونیوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اپنے جیسا بشر کہا“

کافروں، مشرکوں، منافقوں اور مرتدوں نے انبیائے کرام علیٰ نبینا و علیہم افضل الصلوٰۃ
والسلام کو ”اپنے جیسا بشر“ کہنے کا سلسلہ ہر دور میں جاری رکھا۔ انبیائے کرام کی رشد و ہدایت
پر مشتمل باتوں اور ان کے اظہار من الشمس معجزات کا جب ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا، تب
انہوں نے دلیل کے میدان سے راہ فرار اختیار کر کے ذاتیات پر حملہ (Personal
Attack) کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ انبیائے کرام کی مذہبی، سماجی، ثروتی، اقتصادی،
روایاتی، ازدواجی، معاشرتی، اخلاقی بلکہ ذاتی اور نجی زندگی کے ہر پہلو کو ٹٹولا کہ شاید کوئی ایسی
بات مل جائے کہ جس کو تختہ مشق بنا کر ان کے دامن عصمت پر کچھڑا اچھالا جائے لیکن ان
کو نا کامیابی اور مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو ”معصوم
و محفوظ“ بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ جن سے کسی قسم کے گناہ، بد تہذیبی، یا باعث تنفر کسی فعل کے
صدور کا امکان ہی نہ تھا۔ بلکہ وہ تمام حضرات علم و عمل، حلم و حکمت، رشد و ہدایت، نیکی و بھلائی،
تواضع و انکساری، ہمدردی و غمگساری، تقویٰ و پرہیزگاری، صبر و بردباری، جو دو سخا، ہر اعتبار سے
اخلاقی محاسن کے پیکر جمیل تھے۔ ان کے خلاف آواز اٹھانے اور لوگوں کو ان سے منحرف کرنے
کے لیے ایسی کوئی بات دستیاب نہ ہوئی۔ جس کو پیش کر کے ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی مہم

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

چلائی جائے۔ البتہ! لے دے کر ان کے پاس صرف ایک ٹوٹا پھوٹا ہتھیار باقی تھا اور وہ بشریت کا ہتھیار تھا۔ انبیائے کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے خلاف ہر دور کے کافروں نے ”بشر“ ہونے کا روٹا روٹا کر اپنا سینہ چیرا ہے۔ زمانہ ماضی کے کفار کے نقش قدم پر چل کر فرعون لعین نے بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام کے خلاف بھی بشر ہونے کا معاملہ اٹھایا تھا۔

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام نے قوم بنی اسرائیل کو اللہ کے دین کی طرف بلایا اور فرعون اور اس کے درباریوں کو ”دعوتِ حق“ دی، تو فرعون اور اس کے ہم نواؤں نے جو جواب دیا اس کا بیان قرآن مجید میں اس طرح ہے کہ:-

تَمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ مَا اسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عٰلِينَ
فَقَالُوا أَنۡتَوٰمِنۡ لِّبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا

(پارہ: ۱۸، سورۃ المؤمنون، آیت: ۴۵، ۴۶)

ترجمہ:- ”پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن سندوں کے ساتھ بھیجا، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے غرور کیا اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے۔ تو بولے کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر۔“ (کنز الایمان)

”حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دو حواریوں کو
کافروں اور مشرکوں نے اپنے جیسا بشر کہا“

حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دو حواری (صحابی) کو ملک شام

(Syria) کے دارالسلطنت انطاکیہ (Antioch) بھیجا تاکہ وہ وہاں کے بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی طرف بلائیں اور ان کو شرک و کفر سے باز رکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے جن صحابہ کو ملک شام دعوت حق کا فریضہ انجام دینے کے لیے ارسال فرمایا تھا، ان کے اسمائے گرامی صادق اور مصدق ہیں۔ ایک روایت میں ان کے نام یوحنا اور یولس وارد ہیں۔ بہر حال حضرت عیسیٰ کے دونوں صحابہ بنی اسرائیل کے اولیائے عظام میں سے تھے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ خرق عادت تصرفات اور کرامات سے نوازا تھا۔

حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرستادہ مذکورہ بنی اسرائیل کے اولیائے عظام جب ملک شام کے شہر انطاکیہ گئے اور اپنی خدا داد صلاحیتوں سے لوگوں کو مسخر کر کے ان کو نکالت اور گمراہیت کی راہ سے موڑ کر رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن کرنے لگے اور بت پرستی اور دیگر افعال رذیلہ اور عقائد باطلہ و فاسدہ سے تائب کرا کر توحید اور رسالت پر ایمان لانے کی تعلیم دینے لگے، تو ملک شام کے کافروں اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حواریوں کے متعلق کہا کہ:-

”قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ“

(پارہ: ۲۳، سورۃ- نساء، آیت: ۱۵)

ترجمہ:- ”بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور رحمن نے کچھ نہیں اتارا۔ تم زے جھوٹے ہو۔ (کنز الایمان)

اس آیت سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ کفار، مشرکین، منافقین، یہود اور نصاریٰ نے انبیائے کرام کی شان و عظمت گھٹانے کے لیے ان کو ”اپنے جیسا بشر“ کہا۔ اسی طرح اولیائے عظام کی شان و عظمت گھٹانے کے لیے اولیاء کو بھی اپنے جیسا بشر کہا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہمراہی حواری (صحابہ) یعنی حضرت صادق اور مصدق یا

بروایت دیگر حضرت یوحنا اور حضرت یوس اجلہ اولیاء بنی اسرائیل سے تھے۔ ان کے متعلق بھی سرشوں نے یہی کہا کہ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا یعنی ”تم ہمارے جیسے آدمی ہو، ان سرشوں کے نقش قدم پر چل کر دوزخ حاضر کے منافقین بھی انبیاء اور اولیاء کو اپنے جیسا بشر کہتے اور لکھتے ہیں۔

”اولوالعزم انبیائے کرام کو بشر کہا گیا“

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۗ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ۗ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلَاسَ ۗ كُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَاسْمِعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۗ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ فَاِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُوَ لَا يَفْعَلُ وَكَلَّمْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ اِقْتَدِهِ ۗ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ۝

(پارہ ۷، سورۃ الانعام، آیت: ۸۳، ۹۱)

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ترجمہ:- اور ہم نے انہیں اسحق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکو کاروں کو ﴿ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں ﴿ اور اسمعیل اور نوح اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی ﴿ اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی ﴿ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں جسے چاہے دے اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت جاتا ﴿ یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں، تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے، جو انکار والی نہیں ﴿ یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی، تو تم انہیں کی راہ چلو، تم فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کو ﴿ اور یہودیوں نے اللہ کی قدرت نہ جانی جیسی چاہئے تھی، جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا ﴿ ” (کنز الایمان شریف)

ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اور عظیم المرتبت انبیاء و مرسلین کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں جن انبیاء کا ذکر فرمایا گیا ہے ان کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں:

- (۱) حضرت اسحق (۲) حضرت یعقوب (۳) حضرت نوح (۴) حضرت داؤد
 - (۵) حضرت سلیمان (۶) حضرت ایوب (۷) حضرت یوسف (۸) حضرت موسیٰ
 - (۹) حضرت ہارون (۱۰) حضرت زکریا (۱۱) حضرت یحییٰ (۱۲) حضرت عیسیٰ (۱۳) حضرت الیاس (۱۴) حضرت اسمعیل (۱۵) حضرت نوح اور (۱۶) حضرت لوط
- (علی نبینا وعلیہم افضل الصلوٰۃ والسلام)

مذکورہ مقدس انبیائے کرام کے علاوہ ان کے آباء و اجداد، اولاد اور بھائیوں میں سے بھی
کچھ حضرات کا ضمنا اور اشارہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر ۸۷ میں ہے کہ "وَمِنْ
آبَائِهِمْ وَنُرَيْبِهِمْ وَآخْوَانِهِمْ" یعنی اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں
سے۔"

مذکورہ نفوس قدسیہ کا ذکر وہ آیات میں ذکر فرما کر ان کی شانِ عظمت اور فضیلت کا اظہار
فرماتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:-

- ہم نے ان کو راہ دکھائی
- ان نیکو کاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔
- وہ ہمارے قرب کے لائق ہیں۔
- ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔
- ہم نے انہیں چُن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔
- ہم نے ان کو کتاب دی۔
- ہم نے ان کو حکم دیا۔
- ہم نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔
- ہم نے ان کی ہدایت فرمائی۔

انبیائے کرام کے متدرجہ بالا فضائل و خصائص قرآن مجید میں اس لیے بیان فرمائے
گئے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ انبیائے کرام اور دیگر عباد صالحین، اللہ کے پیدا کیے ہوئے
انسان اور اللہ کے بندے ہونے کے باوجود کثیر فضیلتوں اور خصوصیتوں کے حامل ہونے کی وجہ
سے وہ تمہاری طرح عام انسان نہیں ہیں یعنی "بَشَرًا مِّثْلُكُمْ" نہیں ہیں۔ ظاہری صورت بشری
سے دھوکہ کھا کر ان کو اپنے جیسا قیاس مت کرنا۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ ان کے
متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ "وَاجْتَبَيْنَاهُمْ" یعنی "ہم نے انہیں چُن لیا ہے" یعنی یہ حضرات
عام انسانوں کی طرح اور تمہاری مثل نہیں بلکہ ہمارے خاص اور چنے ہوئے بندے ہیں۔ ان کی
عظمت اور شانِ رفعت کا ہم تبارے مقدس کلام میں "وَجَعَلْنَاهُمْ سُلٰطٰنًا" فرما کر تمہیں آگاہ

و متنبہ کرتے ہیں کہ خبردار! ان حضرات کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھنا بلکہ ان کے جن اوصاف کا ہمارے مقدس کلام میں تذکرہ کیا گیا ہے، ان اوصاف کو ہمہ وقت ملحوظ خاطر رکھ کر ان کی عظمت و رفعت کے مقرر اور معترف رہنا۔ لیکن! سرکشوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم عالی کو بھی لا ابالی پن اور بے اعتنائی سے پس پشت ڈال دیا اور بغض و عناد کے جذبہ کے تحت عداوت و تصددا انبیائے کرام کو اپنے جیسا بشر کہا اور اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام اور حکم کی بے قدری اور بے وقعتی کرنے کا جرم عظیم کیا۔ جس کا بیان بھی مندرجہ بالا آیات میں ہے کہ:-

”وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ“ یعنی ”اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہئے تھی۔“

اللہ تعالیٰ ان منکرین عظمت انبیاء کی خوئے بد اور نصیحت نافرمانی کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی۔ جس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ارشاد اور فرمان کی قدر نہ کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے یعنی انبیائے کرام اور عباد صالحین کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں فضیلت دی، ان کو ہمارے قرب کے لائق بنایا وغیرہ وغیرہ لیکن سرکشوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہ مانا اور فرمان الہی کی قدر نہ جانی اور کیا کہا؟

”إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشَرًا مِّنْ سَمَوَاتٍ“ یعنی ”جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا“ یعنی انبیائے کرام کو بشر کہا، اور بشر کہنے کی آڑ اور پردہ میں ایمان لانے کا انکار کیا۔

ثابت ہوا کہ جو بے ایمان ہوتے ہیں، وہی نبی اور رسول کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔ ملاوہ ازیں نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والے اللہ کے حکم کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ ارتکاب جرم تو پن انبیاء کے ساتھ ساتھ شان الوہیت کا بھی انکار کرتے ہیں کیونکہ:-

⑤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مقدس بندے انبیائے کرام نیکوکار ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ہمارے قرب کے لائق ہیں، ہم نے ان کو فضیلت دی، ہم نے ان کو چن لیا، ہم نے ان کو کتاب، حکم اور نبوت عطا فرما کر برگزیدہ کیا۔

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

لیکن.....!!!

سرکش لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہیں۔ فرمان الہی کے متضاد بولی بول کر سخت اور قبیح جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔

”اگلی امتوں کے کفار انبیائے کرام کو بشر کہہ کر کافر ہوئے“

قرآن مجید میں ارشاد رب تبارک و تعالیٰ ہے کہ:

”الْمَ يَأْتِكُمْ نَبْوًا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَمَا قُوتُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا“

(پارہ: ۲۸، سورۃ التغابن، آیت: ۶ و ۵)

ترجمہ:- ”کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ۝ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو بولے کیا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے۔ تو کافر ہوئے اور پھر گئے۔“ (کنز الایمان)

تفسیر:- ”یعنی انہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا اور یہ کمال بے عقلی اور نا فہمی ہے، بشر کا رسول ہونا تو نہ مانا اور پتھر کا خدا ہونا تسلیم کر لیا۔“

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

(تفسیر خزان العرفان، ص: ۱۰۰۱)

اس آیت کریمہ کے الفاظ اور ترجمہ کو بغور ملاحظہ فرمائیں، صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ اس کی تلاوت فرمائیں اور یہ نظر تیسق غور و فکر کریں تو آپ کی فہم سلیم میں یہ حقیقت پتھر کی لکیر کی مانند منقش ہو جائے گی کہ:-

اگلی اُمتوں میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور دردناک عذاب کے مستحق ہوئے ان کافروں کے کفر کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کو بشر کہا تھا۔ اس آیت شریف کے جملہ کے الفاظ کی ترتیب ملاحظہ فرمائیں کہ ان کافروں نے کہا کہ یہ بشر کیا ہمیں راہ بتائیں گے؟ ان کا یہ مقولہ نقل فرمانے کے بعد فوراً ارشاد ہوتا ہے کہ "فَكَفَرُوا" یعنی "تو کافر ہوئے" ثابت ہوا کہ نبی کی شان گھٹانے کے لیے نبی کو صرف "بشر" کہنے والے کو قرآن کافر کہہ رہا ہے تو جو لوگ نبی کو صرف "بشر" نہیں بلکہ "اپنے جیسا بشر" اور "عاجز بندہ" کہتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم نافذ ہوگا؟ اس کا فیصلہ اور فتویٰ قارئین کرام اپنے دل سے ہی طلب فرمائیں۔

”حضورِ اقدس ﷺ کو بھی کفار، مشرکین،

منافقین، یہود اور نصاریٰ نے اپنے

جیسا بشر کہنے کی گستاخی کی تھی“

کفار اور مشرکین نے زمانہ قدیم سے یہ اصول بنا رکھا تھا کہ لوگوں کو انبیائے کرام پر ایمان لانے سے روکنے کا سب سے سہل اور آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی جائے کہ تم جن کو نبی یا رسول مان کر، ان پر ایمان لا کر، ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو وہ تم جیسے ہی بشر ہیں۔ جب یہ تمہاری طرح بشر ہیں تو ان میں کوئی خصوصیت نہیں۔ ان

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا عقل و دانش سے بعید ہے۔ کفار اور مشرکین نے ہر دور میں یہی ہتھ کنڈا آزمایا اور ہر دور کے نبی اور رسول کو اپنے جیسا بشر کہنے کی گستاخی کی۔

اور اسی سابقہ میں انبیاء سابقین کو ان کے دور کے منکروں نے اپنے جیسا بشر کہنے کی جو رذیل حرکتیں کیں تھیں اس کا تفصیلی بیان آیات قرآنی کی روشنی میں گوش گزار کیا گیا۔

قرن بعد قرن جب سید الانبیاء والمرسلین، محبوب رب العالمین، رحمۃ للعالمین اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس آیا اور آفتاب رسالت و ماہتاب نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ”نور حق“ کی ضیاءاری سے عالم کائنات درخشاں اور تاباں ہو رہا تھا اور نئی آدم گمراہی اور ضلالت کی تاریکی سے نکل کر ہدایت و نور کی روشنی سے فیض یاب ہو رہے تھے اور اسلام کا پرچم آب و تاب سے لہرانے لگا تو کفار، مشرکین، یہود اور نصاریٰ کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگے اور لوگوں کو گروہ در گروہ اور جوق در جوق داخل اسلام ہوتے دیکھ کر ان کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگیں۔ اسلام کے اُمنڈتے اور بڑھتے ہوئے سیلاب کی روک تھام کے لیے انہوں نے کئی حربے آزمائے اور ان میں کا ایک حربہ وہی گھسا گھسایا اور پرانا حربہ، جو ان کے آباء و اجداد بلکہ ماضی کے کفار و مشرکین سے وراثت میں ملا تھا اور وہ حربہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ماضی کے انبیائے کرام کی طرح ”اپنے جیسا بشر“ کہہ کر ان کی شوکت کے پھریرے کو نچا دکھانے کی کوشش کی جائے۔ بشری تقاضوں کے تحت ان سے جو افعال صادر ہوتے ہیں مثلاً کھانا پینا، چلنا پھرنا، وغیرہ کو پیش کر کے ان کو اپنے جیسا بشر کہہ کر لوگوں کو ان پر ایمان لانے سے روکا جائے۔ اس منصوبہ کے تحت کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ نے متحدہ و منظم سازش شروع کی اور حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمت و رفعت گھٹانے کے قاسد ارادہ سے ”بشر“ ہونے کا شور اور واویلا مچانا شروع کیا اور لوگوں کو بہکانے کے لیے کہنے لگے کہ ان کی بات مت مانو، ان پر ایمان مت لاؤ، ان کو اللہ نے رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ تمہاری مثل ایک ”بشر“ ہی ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

منکرین رسالت کی ”بشر والی بولی“ کا قرآن مجید میں متعدد مقام پر تذکرہ ہے چند

آیت مقدسین تلاوت کا شرف حاصل کریں۔

© قرآن مجید میں ہے کہ۔

وَقَالُوا مَلِئَ هَذَا الرَّسُولُ يَلْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشِئُ فِي
الْأَسْوَاقِ ۗ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا

(پارہ: ۱۸، سورہ انفرتان، آیت ۷)

ترجمہ:- ”اور بولے اس رسول کو کیا ہوا کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں
چرتا ہے۔ کیوں نہ اتارا گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ ان کے ساتھ
ڈرنا داتا۔“ (کنز الایمان)

اس آیت میں مشرکین رسالت کا متقولہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکنے کے لیے حضور اقدس کو بشر ثابت کرنے
کے لیے لوگوں سے کہا کہ وہ کھود کھو، تم جس کو اللہ کا رسول سمجھ کر ان کے لائے ہوئے دین میں
داخل ہو رہے ہو۔ وہ رسول تو ہماری تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے اور چرتا پھرتا ہے۔ اگر واقعی یہ
اللہ کے رسول ہوتے تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو ہم کو اللہ کا حکم سنا کر ڈراتا لیکن ان کے
ساتھ نہ تو کوئی فرشتہ ہے علاوہ ازیں وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہیں
لہذا وہ ہماری طرح بشر ہیں۔ ثابت ہوا کہ کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
شان و عظمت گھٹانے کے لیے ہی ”بشر وانی بولی“ کا استعمال کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ
نضر بن حارث نام کے سردار کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ یہ رسول کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہیں۔
(بحوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۶۴۸)

© ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا
إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

(پارہ: ۷، سورہ الانبیاء، آیت: ۳)

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ترجمہ:- "ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں اور ظالموں نے آپس میں

خفیہ مشورت کی کہ یہ کون ہیں؟ ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں۔"

(کنز الایمان)

تفسیر:- "یہ کفر کا ایک اصول تھا کہ جب یہ بات لوگوں کو ذہن نشین کر

دی جائے گی کہ وہ تم جیسے بشر ہیں تو پھر کوئی ان پر ایمان نہیں لائے گا۔

حضور کے زمانے کے کفار نے یہ بات کہی اور اس کو چھپایا لیکن آج کل

کے بعض بیاک یہ کلمہ اعلان کے ساتھ کہتے ہیں اور نہیں شرماتے۔"

(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۵۷۹)

اس آیت کے ترجمہ اور تفسیر سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوگئی کہ زمانہ اقدس کے کفار

اور مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے تمہارے جیسے بشر کہنے کی جو مہم

چلائی تھی اس کا غشا اور مقصد صرف یہی تھا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان گھٹانا

چاہتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں سے آپ کی عظمت و محبت کم ہو جائے اور لوگ آپ پر ایمان

لانے سے باز رہیں۔ علاوہ ازیں مذکورہ آیت کے مقدس الفاظ "وَأَسْرُوا النَّجْوَى" یعنی

آپس میں خفیہ مشورت کی" سے اس حقیقت کا بھی پتا چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے کی پالیسی کفار اور مشرکین کی "خفیہ مشورت" (Concealed

Policy) تھی اور اس خفیہ مشورت کا مقصد اصلی یہی تھا کہ لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کرادی

جائے کہ جس رسول کی محبت کا تم دم بھرتے ہو وہ رسول تمہاری طرح بشر ہیں۔

زمانہ ماضی کے کفار و مشرکین کے نقش قدم پر چل کر اور ان کے طرز عمل کو مشعل راہ بنا کر

دور حاضر کے منافقین بھی انبیائے کرام اور خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو

اپنے جیسا بشر کہہ کر عوام المسلمین کے دلوں سے آپ کی عظمت و محبت کم کرنے کی سازش کرتے

ہیں اور اس سازش کو ایک منظم جماعتی حیثیت سے رائج کرتے ہیں اور علی الاعلان کرتے ہیں

کیونکہ اپنے اس فاسد اعتقاد کو زیور طباعت سے آراستہ کر کے شائع کرتے ہیں۔ ماضی کے

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کفار اور دور حاضر کے منافقین کا نبی کو بشر کہنے کا نظریہ یکساں ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ ماضی کے کفار اپنا یہ فاسد نظریہ خفیہ طور پر پھیلاتے تھے لیکن دور حاضر کے منافقین زمانہ ماضی کے کفار و مشرکین سے دو نہیں بلکہ چار قدم آگے ہیں۔ کیونکہ جو بات علی الاعلان کہتے ہوئے ماضی کے کفار و مشرکین جھجکتے تھے اور چھپ چھپ کر خفیہ طور پر جو بات کہتے تھے، وہی بات دور حاضر کے منافقین علانیہ طور پر کہہ کر اپنی بیباکی، بے حیائی، بے شرمی، شقاوت قلبی اور سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

المختصر! حضور اقدس، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمت و رفعت کو گھٹانے کی غرض سے زمانہ اقدس کے کفار و مشرکین نے ”بشر“ ہونے کے معاملہ کو غلو کی حد تک اچھالا اور ابھارا اور ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ جہاں دیکھو وہاں ”بشر“ والا معاملہ زیر بحث تھا۔ انکار نبوت کے لیے ان کفار کے پاس صرف ”بشر“ کا معاملہ ہی سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ اس معاملہ کے ضمن میں انہوں نے شور و غل اور واویلا مچا رکھا تھا۔ کفار و مشرکین کے اس ہنگامہ کا ردِ بلیغ اور مسکت جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرمائی کہ:-

”قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝“

(پارہ: ۱۵، سورہ بنی اسرائیل، آیت: ۹۳ و ۹۴)

ترجمہ:- ”تم فرماؤ، پاکی ہے میرے رب کو، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا، جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر اسی نے کہہ بولے کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا۔“
(کنز الایمان)

تفسیر:- ”رسول کو بشر ہی جانتے رہے اور ان کے منصب نبوت اور اللہ تعالیٰ کے عطا فرمانے ہوئے کمالات کے مقہور اور معترف نہ ہوئے۔ یہی ان کے کفر کی

اصل تھی اور اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا۔“
(تفسیر خزائن، العرفان، ص: ۵۲۶)

اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جب کفار و مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ”بشر“ بولنے کا غوغا مچایا اور ”بشر“ ہونے کا بہانہ پیش کر کے لوگوں کو ایمان لانے سے روکنے کی تحریک کو فروغ دیا اور معاملہ حد سے بڑھ گیا، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ”قُلْ“ یعنی ”اے محبوب! تم فرما دو“ کیا فرما دو؟ ”سُبْحَانَ رَبِّي“ یعنی ”پاکی ہے میرے رب کو۔“ قارئین کرام خاص توجہ دیں اور اس آیت کریمہ کے انداز بیان کی خوبیوں سے لطف اندوز ہوں اور بارگاہ رب العزت جل جلالہ میں اپنے رؤف و رحیم آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجاہت اور قدور و منزلت کا اندازہ لگائیں کہ کفار و مشرکین نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہا تھا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے اس کا انداز بیان ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ ”قُلْ“ یعنی ”اے محبوب! تم فرماؤ“۔ آیت میں سب سے پہلا لفظ ”قُلْ“ وارد ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے وہ ہم اگلے صفحات میں آیت کریمہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ“ (الفتح) کے ضمن میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہاں صرف اتنی بات ذہن نشین کریں کہ اللہ تعالیٰ منکرین بارگاہ رسالت کو جو جواب مرحمت فرما رہا ہے وہ اپنے محبوب کی زبانی مرحمت فرما رہا ہے لیکن وہ جواب مرحمت فرمانے سے پہلے اپنے محبوب کو حکم فرماتا ہے کہ کافروں نے تم کو اپنے جیسا بشر کہا ہے۔ ان کا جواب دینے سے پہلے تم ہماری پاکی بیان کرو اور فرماؤ کہ ”سُبْحَانَ رَبِّي“ یعنی ”پاکی ہے میرے رب کو۔“ کافروں کو جواب دینے سے قبل اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے میں کیا حکمت ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔

”پاکی ہے میرے رب کو“ جملہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اس کی قدرت و حکمت غیر متناہی اور ہر چیز کو محیط ہے۔ اس کی قدرت و حکمت کے اسرار و رموز ہر عیب و نقص سے پاک ہیں۔ میرا رب ایسا قادر مطلق ہے کہ اس کی تمام صفات

میں عیب و نقصان کا وہم و گمان و امکان ہی نہیں ہو سکتا بلکہ مکمل ”سبحان اور سبحان“ یعنی پاکی اور پاکی کے جلوے ہی ہیں۔ اس رب سبحان عظیم نے اپنے پیدا کیے ہوئے بے شمار انسانوں میں سے چند مخصوص اور چنے ہوئے انسانوں کو نبوت و رسالت کے منصب عالی سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس پاک رب قدیر نے انسانوں ہی میں سے اپنے مخصوص بندوں کو جب نبی اور رسول کی حیثیت سے چنا ہے تو رب قدیر کا یہ چنا اور پسند فرمانا بھی عیب و نقص سے پاک ہے۔ ان انبیاء و مرسلین کا انسان ہونا کوئی عیب یا آفتس نہیں بلکہ رب سبحان عظیم کی حکمت کاملہ کے اسرار و رموز کا مخزن ہے۔ لہذا اے مافہمو! اے بے عقلو! اگر تمہارے زعم و خیال میں نبی و رسول کا انسان ہونا عیب ہے تو تم رب کی قدرت اور اس کی شان سبحان عظیم میں عیب جوئی کرتے ہو۔ ان نبی اور رسول کا انسان ہونا عیب یا نقص ہونا تو وہ پاک رب اپنے مخصوص بندوں کو یعنی نبوت و رسالت کے عالی منصب پر فائز ہونے والے مقدس حضرات انبیاء کو بشریت کے عیب و نقص سے منقصت نہ کرتا۔

اب وہ جواب ملاحظہ فرمائیں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے بتانے کے مطابق کفار و مشرکین کو سنایا ”هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُؤْلًا“ یعنی ”میں کون ہوں، مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا۔“ کفار و مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”بشر“ کہا تھا۔ آپ کو بشر کہنا ان کی عقل کا فتور و فساد تھا۔ ان کی نا فہمی اور بے عقلی کا ہی نتیجہ تھا کہ اپنے پر قیاس کر کے یہ نازیبا بات کہی تھی۔ لہذا ان کی عقلوں کے معیار کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ جواب دیا گیا کہ تم میرے متعلق بشر ہونے کی بات پھیلاتے ہو، اور میرے بشر ہونے کے معاملہ کو اہمیت دیتے ہو، تو اب مجھ سے سنو، ہاں! ہاں! میں بشر (آدمی) ہی ہوں لیکن صرف بشر ہی نہیں بلکہ ”بَشَرًا مَّرْسُؤْلًا“ یعنی ”اللہ کا بھیجا ہوا آدمی (بشر) ہوں۔ میں تمہاری طرح عام سطح کا انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ کا مخصوص، چنا ہوا اور منصب رسالت سے سرفراز رسول ہوں۔ مجھے صرف بشر مت سمجھو۔ اپنی بشریت پر میری بشریت کو قیاس مت کرو، کیونکہ میں ”بَشَرًا مَّرْسُؤْلًا“ ہوں۔ تمہارا مجھے بشر کہنا تمہاری گمراہی و ضلالت کا سبب ہے۔ جو تمہیں ایمان لانے سے روکتا

بَشَرًا رَّسُولًا یعنی "اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا، جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر یہ کہ بولے اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا؟" یعنی میں تمہارے پاس رُشد و ہدایت کا پیغام توحید لے کر آیا ہوں۔ تاکہ تمہیں کفر و شرک کی ضلالت و گمراہی کی تاریکی سے نکال کر نور ایمان کی دولت سے مالا مال کروں لیکن تم میرے بشر ہونے کے معاملہ کو اٹھاتے ہو اور دولت ایمان سے محروم رہتے ہو اور میرے رسول ہونے میں شک کرتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تم میرا بشر ہونا ہی دیکھتے ہو لیکن میرے منصب نبوت اور اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ کمالات نہیں دیکھتے۔ ہاں! ہاں! سن لو! میں بشر ہوں تو کیا ہوا؟ میرا بشر ہونا تمہاری طرح نہیں۔ میں "بَشَرًا رَّسُولًا" ہوں۔ مجھے عام بشر کی مانند گمان کر کے ایمان سے کیوں محروم رہتے ہو؟۔

اس بحث کو مزید طول نہ دیتے ہوئے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کفار و مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منصب نبوت و رسالت، تصرفات و کمالات، خصوصیات و صفات، فضائل و کمالات اور دیگر محاسن طیبہ عالیہ کا اقرار و اعتراف نہ کیا اور آپ کو صرف بشر ہی جانتے رہے اور یہی بات ان کے کفر کی اصل تھی۔ نبی کو اپنے جیسا بشر کہہ کر کافر کے کافر ہی رہے۔

ایک اہم نکتہ کی طرف بھی قارئین کرام کی توجہات ملتفت کرنا ضروری ہے کہ اس آیت میں "بَشَرًا رَّسُولًا" کا جو جملہ ہے وہ جملہ حضور اقدس کی زبانی ادا کیا گیا ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان فیض ترجمان سے کفار و مشرکین کو مخاطب کر کے فرمایا۔ "هَلْ كُنْتُمْ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا" یعنی "میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا۔" حضور اقدس نے خود اپنی زبان مقدس سے اپنے لیے "بَشَرًا رَّسُولًا" کا جملہ استعمال فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے نہیں کہا کہ میرا محبوب "بَشَرًا رَّسُولًا" ہے بلکہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب! "قُلْ" تم کہہ دو! اس میں کیا حکمت و راز ہے اس کی تفصیلی وضاحت بھی آئندہ صفحات میں "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الرُّوحُ" آیت کے ضمن میں کی گئی مفصل **marfat**

”سب سے پہلے ابلیس نے نبی کو بشر کہا ہے“

یہاں تک کی تمہیدی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول کے زمانے کے کافروں اور مشرکوں نے ان کو ”بشر“ اور ”اپنے جیسا بشر“ کہا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ ہے لیکن ہم نے یہاں صرف اکتیس (۳۱) آیات تلاوت کیں ہیں۔ ان ۳۱ آیات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل انبیائے کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کو ان کے زمانے کے کفار و مشرکین نے اپنے جیسا بشر کہا تھا۔

- حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام = حوالہ:- پارہ: ۱۸، سورۃ المؤمنون، آیت: ۲۴
- حضرت ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام = حوالہ:- پارہ: ۱۸، سورۃ المؤمنون، آیت: ۳۳ و ۳۴
- حضرت صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام = حوالہ:- پارہ: ۱۹، سورۃ الشعراء، آیت: ۱۳۱ و ۱۳۵
- حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام = حوالہ:- پارہ: ۱۹، سورۃ الشعراء، آیت: ۱۸۵ و ۱۸۶
- حضرت نوح، حضرت ہود وغیرہ علیہم الصلوٰۃ والسلام = حوالہ: پارہ: ۱۳، سورۃ ابراہیم،

آیت ۱۰ و ۹

- حضرت موسیٰ و ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام = حوالہ:- پارہ: ۱۸، سورۃ المؤمنون، آیت: ۲۵ و ۲۸
- حضرت عیسیٰ کے دو حواری صادق و مصدق = حوالہ:- پارہ: ۲۲، سورۃ نساء، آیت: ۱۵
- حضرت اسحاق، ابراہیم، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ و ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ الیاس، اسمعیل، نوح، یونس، اور لوط علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام = حوالہ:- پارہ: ۷، سورۃ الانعام، آیت: ۸۴ و ۹۱
- عظیم المرتبت انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام = حوالہ:- پارہ: ۲۸، سورۃ التغابن،

آیت: ۶ و ۵

- حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم = حوالہ:- پارہ: ۱۸، سورۃ الفرقان، آیت: ۷

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

- ◎ حضور اقدس سید المرسلین ﷺ = حوالہ:- پارہ: ۱، سورۃ الانبیاء آیت: ۳
 - ◎ حضور اقدس سید المرسلین ﷺ = حوالہ:- پارہ: ۱۵، سورۃ بنی اسرائیل آیت: ۹۳، ۹۴
- المختصر! ہر نبی کے دور کے کفار و مشرکین نے اپنے زمانے کے نبی پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنے نبی کو "اپنے جیسا بشر" کہا۔ اور اپنے اس کہنے سے نبی کی شان میں توہین و تنقیص ہی مراد لی تھی۔

اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مندرجہ بالا مذکور انبیائے کرام کے زمانہ میں طویل فاصلہ تھا۔ بہت کم انبیائے کرام ایسے ہوئے ہیں کہ جن کا زمانہ کسی دوسرے نبی کے زمانے سے ملحق ہو۔ بلکہ اکثریت بھی پائی جاتی ہے کہ ایک نبی کا زمانہ دوسرے نبی کے زمانے سے بہت بعد میں تھا۔ مثلاً:

- ◎ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان تقریباً اٹھارہ سو (۱۸۰۰) سال کا فاصلہ ہے۔
- ◎ حضرت ابراہیم کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے دو ہزار، تین سو (۲۳۰۰) سال پہلے ہے۔
- ◎ حضرت سیدنا نوح اور حضرت عیسیٰ کے درمیان چار ہزار ایک سو (۴۱۰۰) سال کا فاصلہ ہے۔
- ◎ حضرت زکریا کا زمانہ حضرت یعقوب کے زمانہ سے دو ہزار (۲۰۰۰) سال بعد میں ہے۔
- ◎ حضرت ہوئی اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ایک ہزار نو سو (۱۹۰۰) سال کا فاصلہ ہے۔
- ◎ حضرت یعقوب اور حضرت داؤد کے درمیان تقریباً بارہ سو (۱۲۰۰) سال کا فاصلہ ہے۔
- ◎ حضرت ہارون اور حضرت الیاس کے درمیان تقریباً چھ سو (۶۰۰) سال کا فاصلہ ہے۔

marfat.com

○ حضرت عیسیٰ اور حضور اقدس کے درمیان تقریباً پانچ سو (۵۰۰) سال کا فاصلہ ہے۔ (علی نبینا وعلیہم والصلوٰۃ والسلام)

لیکن تمام انبیائے کرام کے زمانہ کے کفار و مشرکین نے صرف ایک ہی نعرہ لگایا تھا کہ "بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمِثْلُكُمْ" یعنی "ہمارے اور تمہارے جیسے بشر" زمانہ بدلتا گیا، انبیائے کرام کی بدلیاں ہوتی رہیں، انبیائے کرام کے دشمن بھی تبدیل ہوتے رہے لیکن تمام انبیائے کرام کے خلاف ہر زمانہ میں صرف ایک ہی نعرہ بلند کیا گیا کہ یہ تو ہمارے اور تمہارے جیسے بشر ہیں۔ کسی بھی نبی کے خلاف اس کی عمر، تجارت، صنعت، پیشہ، خاندان، حسب و نسب، منصب، قومیت، وغیرہ وجوہات کی بناء پر علم بغاوت بلند نہیں کیا گیا۔ بلکہ ہر نبی کے خلاف ہر دور میں "بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمِثْلُكُمْ" یعنی "ہمارے اور تمہارے جیسے بشر" کا نعرہ ہی بلند کیا گیا۔ کفار و مشرکین کو "بشر" ہونے کے علاوہ اور کوئی بہانہ ہی نہ ملتا تھا حالانکہ وہ بہت سے معاملات کو وجہ و سبب بنا کر مخالفت کر سکتے تھے۔ مثلاً:-

○ عمر کا معاملہ:- انبیائے کرام کی ظاہری حیات کی عمریں متفرق ہوئی ہیں:-

- حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف ساڑھے نو سو (۹۵۰) سال ہوئی ہے۔
- حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف ایک سو پچھتر (۱۷۵) سال ہوئی ہے۔
- حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف ایک سو اسی (۱۸۰) سال ہوئی ہے۔
- حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر شریف ایک سو ستائیس (۱۳۷) سال ہوئی ہے۔
- حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف ایک سو بیس (۱۲۰) سال ہوئی ہے۔
- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف صرف تینتیس (۳۳) سال ہوئی ہے۔
- حضرت اقدس علیہ السلام کی عمر شریف صرف ترسٹھ (۶۳) سال ہوئی ہے۔

حالانکہ کفار و مشرکین عمر کے فرق پر اعتراض کر سکتے تھے لیکن انہوں نے عمر کے فرق پر

کوئی اعتراض نہ کیا اور صرف "بشر" ہونے کا ہی اعتراض کیا۔

○ پیشہ و تجارت کا معاملہ:- انبیائے کرام نے مختلف پیشے اختیار کیے تھے۔ مثلاً:-

○ حضرت آدم علیہ السلام کا پیشہ کاری (کھیتی) کرتے تھے۔

- حضرت ادریس علیہ الصلوٰۃ والسلام کپڑے سیتے تھے۔
- حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام لوہے کی زرہیں اور ہتھیار بناتے تھے۔
- حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بکریاں چراتے تھے اور ایک عرصہ دراز تک ملازمت بھی کی ہے۔
- حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا کی عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے۔
- حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ملازمت اور مصر کی بادشاہت بھی فرمائی ہے۔
- حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے، ملک شام کا تجارتی سفر بھی فرمایا ہے۔

المختصر! ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں ضرورت کے پیش نظر جائز کاروبار کر کے ذریعہ معاش و کسب حلال کے لیے محنت و مشقت فرمائی ہے۔ ملازمت کی ہے۔ تجارت کی ہے، مزدوری کی ہے، درزی اور لوہار کا کام کیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ علاوہ ازیں تمام انبیائے کرام صرف ایک ہی قوم، ایک ہی خاندان یا ایک ہی ملک کے نہ تھے۔ حاصل کلام یہ کہ کسی نبی کے حسب، نسب، خاندان، شہر، ملک، زبان، قومیت، تجارت، پیشہ، حکومت، عمر شریف وغیرہ کسی بھی معاملہ پر کفار و مشرکین نے کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن ہر نبی پر صرف "بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمِثْلَكُمْ" یعنی "ہمارے اور تمہارے بشر" کا اعتراض ہر زمانہ میں ہوا ہے۔

حضرت سیدنا آدم سے حضور اقدس رحمت عالم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) تک تقریباً دس ہزار (۱۰,۰۰۰) برس کا زمانہ گزرا ہے۔ دس ہزار برس کا فاصلہ کوئی قلیل فاصلہ نہیں بلکہ بہت ہی طویل فاصلہ ہے۔ اور اس دس ہزار سال کے فاصلہ کے درمیان بہت سی تبدیلیاں ہوئیں، جدید ایجادیں ہوئیں، پرانے طرز عمل کے بجائے نئے نئے طور و طریقے آئے۔ لیکن انبیائے کرام کی شان و عظمت گھٹانے کا کفار و مشرکین کا جو طریقہ تھا اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی بلکہ ہر دور میں ایک ہی مساوی نعرہ تھا۔ اور وہ ہے یعنی "ہمارے تمہارے جیسے بشر" کا نعرہ۔ اس نعرہ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی و ترمیم نہیں ہوئی بلکہ ہر دور میں یہ نعرہ اپنے اصلی حال پر رہا۔ زمانہ ماضی کے کفار و مشرکین، زمانہ حاضر کے کفار و مشرکین، اور آئندہ کے کفار و مشرکین۔

ہوں، تمام اسلام دشمن عناصر انبیائے کرام کی شان و عظمت گھٹانے کے لیے ہمیشہ ہمارے اور تمہارے جیسے بشر والا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ تو کیا ہر دور کے منافقین، مشرکین، کفار، یہود و نصاریٰ کی ایک ہی پالیسی (Policy) دروش کسی مخصوص سربراہ ولیڈر کی ذہنیت کا ہی نتیجہ تھا؟ زمانہ قدیم میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک خبریں آسانی سے نہیں پہنچتی تھیں کیونکہ اس زمانہ میں اخبار و اطلاعات کی نشر و اشاعت کے کوئی وسائل و ذرائع مہیا نہ تھے۔ لہذا ایک مقام کی خبریں زمانہ دراز تک دوسرے مقام تک ارسال نہ ہوتی تھیں لیکن نبی کو ”ہمارے تمہارے جیسے بشر“ کا ”نعرہ“ ایک مقام سے دوسرے مقام تک فوراً پہنچ جاتا تھا بلکہ وہ نعرہ ہر مقام اور ہر زمانہ میں ”مساوی نعرہ“ (Equal Clamour) کی حیثیت سے کفار و مشرکین کے مابین عام و رائج تھا۔ ہر زمانہ اور ہر مقام کے کفار و مشرکین اپنے اپنے نبی کو ”اپنے جیسا بشر“ کہہ کر ان کی ہدایت و نصیحت قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر زمانے اور ہر مقام کے کفار و مشرکین کو نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے کی ذہنیت کس نے سکھائی؟ جو اب صاف ہے کہ وہی ہو سکتا ہے جس نے نبی کو بشر کہا ہو۔ اب یہ جانچ کریں کہ نبی کو سب سے پہلے بشر کس نے کہا؟ اس سوال کا جواب ہم اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام یعنی قرآن مجید سے حاصل کریں۔

① شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کس وجہ سے سجدہ نہ کیا؟

قرآن مجید میں کئی مقام پر مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول انسان، ابوالبشر، حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو جب پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا لیکن ابلیس لعین نے سجدہ نہ کیا۔ اور سجدہ نہ کرنے کے جرم کی پاداش میں اس کی لاکھوں برس کی عبادت و ریاضت اکارت ویرباد ہو گئی اور وہ اللہ کے مقرب بندہ کے عہدہ سے معزول ہو کر مردود اور معلون بن گیا۔

ابلیس جس کو شیطان کہتے ہیں اس کا حکم ”عزازل“ تھا۔ عزازل بہت ہی بداعاد

اور عالم تھا۔ علم اور عبادت میں تمام فرشتوں سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ یہاں تک کہ وہ معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاذ تھا۔ عزازیل نے حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے بڑے بڑے کام بھی انجام دیئے تھے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش کے ساٹھ ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں اور جنات کو زمین میں بسائے اور آباد کیے تھے۔ زمین میں آباد ہونے کے سات ہزار سال کے بعد جنات میں آپسی اختلافات کی ابتداء ہوئی۔ یہ اختلافات رفتہ رفتہ بغض و حسد اور سخت عداوت کی حد تک پہنچ گئے اور نتیجتاً جنات میں آپس میں جنگ و جدال اور خونریزی تک لویت پہنچی۔ تب اللہ تعالیٰ نے عزازیل (ابلیس) کو حکم دیا کہ فرشتوں کی جماعت اپنے ساتھ لے کر زمین پر جاؤ اور جنات کو زمین سے نکال کر پہاڑوں اور جزیروں میں آباد کرو۔ حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے عزازیل نے یہ خدمت بخوبی انجام دی اور جنات کو پہاڑوں اور جزیروں میں بھگا دیئے۔ عزازیل نے اپنے ساتھ آئے ہوئے فرشتوں کو زمین میں آباد کر دیئے۔ تب سے فرشتوں کے دو حصے ہوئے۔ زمین والے فرشتے اور آسمان والے فرشتے۔ عزازیل کو جنات کی سرکوبی کی خدمت انجام دینے کے انعام میں زمین اور پہلے آسمان کی بادشاہت عطا فرمائی گئی اور تخت کے خزانے بھی عنایت کیے گئے۔ عزازیل (ابلیس) کبھی زمین میں، کبھی آسمان میں اور کبھی جنت میں مقبول بارگاہ رب العزت کی حیثیت سے آمد و رفت اور عبادت کرتا رہتا تھا۔ (بحوالہ: تفسیر نعیمی، جلد ۱، ص: ۲۳۸، ۲۳۹)

عزازیل (ابلیس) جو زبردست عالم و عابد تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کرتا تھا۔ جنات کو زمین سے نکالنے کی مہم میں اس نے نمایاں خدمت انجام دی تھی۔ اور حکم الہی کی بجا آوری میں قابل تحسین رول ادا کیا تھا۔ اس عزازیل کو کیا ہو گیا تھا کہ اللہ کے حکم سے ایک سجدہ کرنے سے باز رہا اور مردود ہو گیا۔ ایک ذرا سا معاملہ تھا کہ اللہ کے حکم کو سرا نکھوں پر لے کر حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے جھکنا تھا لیکن وہ نہ جھکا بلکہ اکڑا اور بارگاہ الہی سے مردود ہو کر نکلا۔

قرآن شریف میں ہے کہ:-

فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَبَخْتُ بِهِ النَّفْثَ فَنَبَخُوهُ فَانقَلَبَ عَلَاقًا حَامًا

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سَجِدِينَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝ إِلَّا إِبْلِيسَ ۝

أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝ (پارہ ۱۴، سورہ الحج، آیت ۲۹)

ترجمہ:- ”تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز

روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا ۝ تو جتنے فرشتے تھے

سب کے سب سجدہ میں گر پڑے ۝ سوا ابلیس، اس نے سجدہ والوں کا

ساتھ نہ مانا۔“ (کنز الایمان)

یعنی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس

کے سوا تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تعظیم کا سجدہ کیا لیکن شیطان اکڑا اور

اس نے سجدہ کرنے میں فرشتوں کا ساتھ نہ دیا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ جب کہ سجدہ کرنے کا حکم اللہ

تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ وہ ابلیس جس نے لاکھوں سال عبادت کر کے کروڑوں کھربوں سے

بھی زیادہ سجدے کیے تھے، اُسے صرف ایک سجدہ کرنے سے کیا اعتراض تھا؟ اور اعتراض

و انکار بھی اس سجدہ سے کیا، جس سجدہ کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ تفسیر کی

کتابوں میں ہے کہ جب فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کرنے گرے تو شیطان حضرت آدم علیہ

الصلوٰۃ والسلام کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ فوراً اس کی صورت مسخ ہو گئی۔ حالانکہ شیطان

شکل و صورت میں بہت ہی خوبصورت تھا لیکن سجدہ کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے اس کا

جسم خنزیر کا اور چہرہ بندر کا ہو گیا۔ (بحوالہ:- تفسیر نعیمی، جلد: ۱، ۲۷۴)

اب ہم ہماری گفتگو کے مقصد کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم

ماننے سے انکار کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تعظیم کا سجدہ نہ کیا۔ اس کی اس

حرکت پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تو اس نے کیا جواب دیا؟ وہ دیکھیں:-

قرآن مجید میں ہے کہ:-

”قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ لَمْ أَكُنْ

marfat.com

لَا تُسْجِدْ لِشَيْءٍ خَلَقْنَا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝ قَالَ
فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝ وَإِنْ عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ إِلَى يَوْمِ
الذِّينِ ۝

(پارہ: ۱۴، سورہ الحجر، آیت، ۳۲، ۳۳)

ترجمہ:- "فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ
رہا؟ ۝ بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے مجھتی مٹی سے بنایا جو
سوا پروردگار سے ہے؟ ۝ فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے ۝
اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔" (کنز الایمان)

قارئین کرام! اس آیت کو اور اس کے ترجمہ کو بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن مجید نے
صاف فیصلہ فرمایا کہ یہ بات ظاہر فرمادی کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو "بشر"
ہونے کی وجہ سے ہی سجدہ نہ کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو
اس نے بے ہاکی سے یہ جواب دیا کہ "كَمْ اَكُنْ لِبَشَرَتِي اِيْتِيًّا فَسَفَّهْتُهَا" یعنی "مجھے زیبا نہیں کہ بشر
کو سجدہ کروں۔" ابلیس نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بشر کہا اور بشر ہونے کی وجہ سے
عی تعظیم کرنے یعنی تعظیم کا سجدہ کرنے سے صاف انکار کیا۔ ثابت ہوا کہ بہ نیت توہین نبی کو بشر
کہنے والا سب سے پہلا فرد شیخ نجدی یعنی ابلیس تھا۔ بشر ہونے کی وجہ سے نبی کی تعظیم نہیں
کرنی چاہئے۔ نظریہ سب سے پہلے ابلیس نے قائم کیا ہے اور ابلیس کے نقش قدم پر چل کر ہر
زماہ کے کفار و مشرکین نے اور دور حاضر کے منافقین نے انبیائے کرام کی شان و عظمت
مکھانے کے لیے ابلیس کی بولی بولنا اختیار کیا اور نبی و رسول کو بشر کہا۔ بلکہ ابلیس سے بھی دو قدم
آگے سبقت لے گئے کیونکہ ابلیس نے تو حضرت آدم علیہ السلام و الصلوٰۃ کو صرف "بشر" ہی کہا
تھا لیکن کفار و مشرکین اور منافقین نے انبیائے کرام کو "بَشَرًا مِثْلًا لَكُمْ" یعنی "ہمارے
تہارے جیسے بشر" کہہ کر توہین و تنقیص انبیاء میں ابلیس سے بھی بڑھ گئے۔

اب اس آیت کے اہم نکات کی طرف توجہ دیں۔

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

① شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سجدہ نہ کیا، تو سجدہ نہ کرنے پر فوراً نہیں نکالا گیا بلکہ اس سے سجدہ نہ کرنے کا سبب دریافت کیا گیا اور اس نے جو سبب بتایا اس سبب کی وجہ سے ہی اسے مردود بنا کر نکالا گیا اور وہ سبب تھا حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حقیر جان کر انہیں ”بشر“ کہنا۔ اللہ کے مقدس نبی کو ”بشر“ کہنا اتنا بڑا جرم ثابت ہوا کہ اس کی لاکھوں برس کی عبادت اکارت ہو گئی اور اس کے تمام مناصب و درجات سلب کر لیے گئے۔ ثابت ہوا کہ سجدہ نہ کرنے کا جو سبب تھا یعنی حضرت آدم کو بشر کہنا وہ سبب ہی اس کے لیے مہلک ثابت ہوا اور جب اس نے سجدہ نہ کرنے کا سبب ظاہر کر دیا تو فوراً اس پر عتاب نازل ہوا کہ **قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ** یعنی ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے۔“ اللہ کے مقدس نبی کو بشر کہنے کے جرم کی سزا میں ابلیس کو مردود بنا کر جنت سے نکال دیا گیا۔ جنت کا باشندہ نبی کو بشر کہنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو کر جنت سے باہر نکال دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے مردود اور لعنت کا حقدار ہو گیا۔ تو جنہوں نے دنیا میں رہ کر نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ جنت کا داخلہ حاصل کیا ہے بلکہ جنت کی ہوا تک بھی انہیں نہیں لگی۔ وہ دورِ حاضر کے منافقین شیخ نجدی ابلیس لعین کے نقش قدم پر چل کر انبیائے کرام کو صرف بشر نہیں بلکہ اپنے جیسا بشر کہہ کر کس منہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں۔ ابلیس لعین کہ جو جنت میں تھا وہ نبی کو بشر کہنے کی بے وقوفی کی وجہ سے جنت سے باہر پھینک دیا گیا اور ابلیس کے چیلے نبی کو اپنے جیسا بشر کہہ کر جنت میں جانے کی تمنا کر کے کتنی بڑی بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔

② شیطان نے جب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا کہ **قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونُ مَعَ السَّاجِدِينَ** ترجمہ: فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا۔“ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ دریافت فرمائی۔ اس سوال کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ معلوم نہ تھی؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ

معلوم تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے۔ دلوں کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے کہ:-

وَلِيَتَمَيَّزَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

(پارہ: ۴، سورہ آل عمران، آیت: ۱۵۳)

ترجمہ:- ”اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اُسے کھول دے اور اللہ تعالیٰ دلوں کی بات جانتا ہے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے بلکہ دل میں جو خیال پیدا ہونے والا ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ شیطان نے حضرت آدم کو کیوں اور کس وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے علم میں شیطان کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ تھی تو پھر شیطان کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ شیطان سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ دریافت نہ فرماتا اور اپنے علم میں اس کی وجہ ہونے کی وجہ سے اسے مردود و لعین بنا کر نکال دیتا تو اس وقت سے لے کر قیامت تک کے وقت تک ہونے والوں کو صرف اتنا ہی معلوم ہو سکتا کہ شیطان نے اللہ کا حکم نہ مان کر سجدہ نہ کیا، اس لیے وہ مردود ہو گیا اور یہ راز کسی پر نہ کھلتا کہ شیطان نے اللہ کے برتر زیدہ نبی کی تعظیم سے انکار کرتے ہوئے اور انہیں حقیر جانتے ہوئے انہیں ”بشر“ کہنے کی وجہ سے راندہ درگاہ الہی ہوا ہے۔

شیطان سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ دریافت کرنے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ قیامت تک ہونے والے انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی کو ”بشر“ کہہ کر اور جان کر سجدہ سے انکار کرنے کی وجہ سے شیطان ”کافر“ ہوا ہے۔ شیطان کے کافر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کو ”بشر“ کہا۔ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی کو ”بشر“ کہنے کی ابتداء شیطان نے کی ہے اور اللہ کے نبی کو بشر کہنا شیطان کا طریقہ ہے۔

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

”انبیائے کرام کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں کو شیطان نے ہی ذمہ داری دی ہے“

جب شیطان تعظیم نبی کا منکر ہو کر مردود ہوا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے جو کہا اس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح سے کہ

”قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنِ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ لَأَخْتَنَّكَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا“

(پارہ: ۱۵، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۶۴)

ترجمہ: ”بولادیکھتو جو یہ تو نے مجھ سے معزز رکھا اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو بیس ڈالوں گا مگر تھوڑا۔“
(کنز الایمان)

یعنی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ تو نے حضرت آدم کو مجھ سے معزز یعنی زیادہ عزت والا بنایا اور اس کو سجدہ کرا کر مجھ پر فضیلت دی اور معزز کیا لیکن اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دی تو میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور پیس کر رکھ دوں گا۔ شیطان کو معلوم ہو چکا تھا کہ میری لاکھوں لاکھوں سال کی عبادت رائیگاں گئی ہے اور جنت گنہگاروں نے زمین اور پہلے آسمان کی بادشاہت مجھ سے چھین لے گئے ہیں میرا اندامانا اور مردود بنا، قیامت تک کے لیے میری گردن میں لعنت کا طوق پڑنا یہ سب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے میری ان تمام سزاؤں کا سبب

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حضرت آدم ہیں۔ لہذا میں بھی انتقام لے کر رہوں گا۔ حضرت آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے، ان کے ایمان چھین کر ان کو گمراہیت کی چکی میں پیس کر رکھ دوں گا۔ حضرت آدم کو تعظیم کا سجدہ نہ کر کے میں روزِ آخر اور عذاب کا مستحق ہوا ہوں، لہذا اس سزا کا بدلہ لیتے ہوئے حضرت آدم کی اولاد کے بے شمار لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔

تمام انسان کے باپ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور تمام انسان حضرت آدم کی ذریت یعنی اولاد ہیں۔ شیطان کے دل میں حضرت آدم سے انتقام لینے کی آگ شعلہ زن ہے لہذا وہ نبی آدم (انسان) کو اپنے جھکنڈوں سے گمراہ کرتا رہتا ہے۔ شیطان یہ بات کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا کہ میری تباہی اور بربادی کا سبب حضرت آدم کی تعظیم سے انکار کرنا اور ان کو بشر کہنا ہے۔ میں نے صرف ایک مرتبہ ہی حضرت آدم کو بشارت کہا تو میری لاکھوں برس کی عبادت اور ساتھ میں میرا ایمان بھی ضائع و برباد ہو گیا۔ تو اگر میں اولاد آدم یعنی انسانوں کو بھی نبی کو بشارت کہنے کی ذہنیت دے دوں، تو ان کی عبادت کی بساط کتنی ہے؟ یہی سو، پچاس یا پانچ سو برس کی عبادت ہوگی۔ میں نے تو اللہ کے نبی کو صرف ایک مرتبہ صرف ”بشر“ کہا ہے۔ آدم کی اولاد کو نبی کو بشارت کہنے کی تسبیح پڑھا دوں۔ بلکہ ”اپنے جیسا بشر“ کہلوادوں۔ صرف کہلو کر ہی دم نہ لوں بلکہ ان سے کتابیں لکھوادوں تاکہ پل بھر میں ان کے ایمان تباہ و برباد ہو جائیں۔ ہر زمانے اور ہر مقام کے لوگوں کو نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے کی ذہنیت دے دوں اور ان کے ایمان چھین کر ان کو جہنم میں دھکیل کر اپنا بدلہ لے لوں۔

چنانچہ ہر زمانہ اور ہر مقام کے لوگوں کو شیطان نے انبیائے کرام کو ﴿بشر﴾ اپنے جیسا بشر ﴿تمہارے جیسا بشر﴾ عاجز بندے ﴿ہمارے بڑے بھائی وغیرہ کہنے کی ذہنیت دی اور ان کو گمراہ کیا، ان کے ایمان چھینے، ان کے عمل برباد کیے، ان کو جنت سے محروم کیا اور جہنم کے حقدار بنا دیے۔

”انبیائے کرام کے خلاف کی جانے والی ہر سازش میں شیطان شریک ہوتا ہے“

اوراق سابقہ میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر ۳ لایٰہِیۃً قُلُوْبِہُمْ ۛ وَاسْرُوْا النَّجْوٰی
الَّذِیۡنَ ظَلَمُوْا هٰۤلَکَۡا اِلَّا بِبَشَرٍ مِّثْلُکُمْ ۚ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے۔ اس
کا ترجمہ یہ ہے ”ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں۔ اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت کی
کہ یہ کون ہیں ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں۔“ (کنز الایمان)

اس آیت شریف میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ کفار اور مشرکین خفیہ مشورت کرتے
ہیں یعنی Secret Meeting کرتے ہیں اور اس میٹنگ میں نبی کو اپنے جیسا بشر کہہ کر ان
کی عظمت و شان گھٹانے کی سازش کرتے ہیں۔ اس میٹنگ میں شیطان بھی شامل ہوتا ہے
اور میٹنگ میں شریک ہونے والے نمائندوں کو نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے کی ترغیب اور ذہنیت
دیتا ہے۔

شیطان لعین کے ہتھکنڈے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اچھے اچھے اس کے دام فریب
میں پھنس کر اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً انبیائے کرام کی عظمت گھٹانے اور ان کی توہین
و تنقیص کے معاملہ میں شیطان ہمیشہ پیش پیش رہتا ہے اور اپنے مشورے دیتا ہے۔ جیسا کہ:-

○ دارالندوہ کی میٹنگ میں شیطان بصورت شیخ نجدی حاضر تھا:-

حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی سازش کو عملی
جامہ پہنانے کی غرض سے کفار مکہ نے ”دارالندوہ“ نام کے کمیٹی گھر میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا

marfat.com

اور کفار قریش کے ہر قبیلہ کے سردار اور دانشمند برائے مشورہ جمع ہوئے تھے۔ جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہے کہ:-

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُغَيِّبُواكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۗ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ

(پارہ: ۹، سورۃ الانفال، آیت: ۳۰)

ترجمہ:- ”اور اے محبوب! یاد کرو، جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے۔ اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔“
(کنز الایمان)

اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ:-

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفار قریش دارالندوہ (کیمٹی گھر) میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے اور ابلیس لعین ایک بڑھے کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں شیخ نجد ہوں۔ مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی تو میں آیا ہوں۔ مجھ سے کچھ نہ چھپانا۔ میں تمہارا رفیق ہوں اور اس معاملہ میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا۔ انہوں نے اس کو شامل کر لیا اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق رائے زنی شروع ہوئی۔

ابوالبختری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو اور مضبوط بندشوں سے باندھ دو اور دروازہ بند کر دو۔ صرف ایک سوراخ چھوڑ دو جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دیا جائے اور وہیں وہ ہلاک ہو کر رہ جائیں۔ اس پر شیطان لعین جو شیخ نجدی بنا ہوا تھا۔ بہت ناخوش ہوا اور کہا کہ نہایت ناقص رائے ہے۔ یہ خبر مشہور ہوگی اور ان کے اصحاب آئیں گے اور تمہارے ساتھ آئیں گے۔

گے۔ لوگوں نے کہا شیخ نجدی ٹھیک کہتا ہے۔

پھر ہشام بن عمرو کھڑا ہوا۔ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو (یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو) اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو۔ پھر وہ جو کچھ بھی کریں اس سے تمہیں کوئی ضرر نہیں۔ ابلیس نے اس رائے کو بھی ناپسند کیا اور کہا کہ جس شخص نے تمہارے ہوش اُڑا دیے ہیں اور تمہارے دانشمندوں کو حیران بنا دیا ہے اس کو تم دوسروں کی طرف بھیجتے ہو؟ تم نے اس کی شیریں زبانی اور سیف کلامی اور دلکشی نہیں دیکھی ہے؟ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ دوسری قوم کے قلوب کو تسخیر کر کے ان لوگوں کو ساتھ لے کر تم پر چڑھائی کر دیں گے۔ اس پر اہل مجمع نے کہا کہ شیخ نجدی کی رائے ٹھیک ہے۔

اس پر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے اپنی رائے دی کہ قریش کے ہر خاندان سے ایک ایک عالی نسب جوان منتخب کیا جائے اور ان کو تیز تلواریں دیں جائیں۔ وہ سب یکبارگی حضرت پر حملہ آور ہو کر قتل کر دیں تو بنی ہاشم قریش کے تمام قبائل سے نہ لڑ سکیں گے۔ عاقبت یہ ہے کہ خون کا معاوضہ دینا پڑے گا وہ دے دیا جائے گا۔ ابلیس نے اس تجویز کو پسند کیا اور ابو جہل کی بہت تعریف کی اور اسی رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا۔

حضرت جبرئیل علیہ السلام نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ گزارش کیا اور عرض کیا کہ حضور اپنی خواب گاہ میں شب کو نہ رہیں اور اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے کہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمائیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ (حوالہ تفسیر خزائن العرفان: ۳۲۵)

اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ انبیائے کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے خلاف کی جانے والی سازش میں ابلیس لعین ضرور شریک ہوتا ہے اور اپنے مشورے پیش کرتا ہے اور لوگوں کے ایمان برباد کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کسی قوم کو اخلاق سے گرے ہوئے افعال قبیح میں ملوث کر دیتا ہے۔ مثلاً:-

◎ قوم لوط کو لواطت کا فعل قبیح شیطان نے سکھایا ہے:-

لواطت (Sodomy) کی قباحت اور نحوست سے دنیا کے تمام انسان انجان و بے خبر تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ مرد اپنی شہوت کسی مرد کے ساتھ بد فعلی کر کے پوری کرے۔ دنیا میں لواطت کی ابتداء قوم لوط نے کی ہے۔ قوم لوط سے پہلے کسی نے بھی لواطت کی بد فعلی نہیں کی تھی۔

قرآن مجید میں ہے کہ:-

”وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِقُونَ“

(پارہ: ۸، سورۃ الاعراف، آیت: ۸۰ و ۸۱)

ترجمہ:- ”اور لوط کو بھیجا، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا وہ بے حیائی کرتے ہو، جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی ۝ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، جو مرد میں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔“
(کنز الایمان)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ لواطت کی بے حیائی قوم لوط سے پہلے کسی نے نہ کی تھی۔ لواطت کی ابتداء قوم لوط نے کی ہے۔ اور قوم لوط کو لواطت کرنا شیطان نے سکھایا ہے۔ شیطان نے حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کو لواطت کس طرح سکھائی؟ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:-

”حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام بن ہاران بن تاریخ رشتہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بھتیجے تھے۔ یہ حضرات ”عراق“ (Iraq) کے شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو لواطت سکھائی۔“

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام ملک شام (Syria) کے شہر ”اردن“ (Jorden) میں مقیم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر ”سدوم“ والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔

شہر سدوم نہایت ہی آباد، سرسبز و آباد تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ نیز وہاں کی آب و ہوا بھی فرحت بخش تھی۔ شہر سدوم کی خوشحالی اور زرخیزی کی وجہ سے قرب و جوار کے لوگ وہاں سیر و تفریح کے لیے گاہے گاہے آیا کرتے تھے اور اپنے پہچان کے لوگوں یا رشتہ داروں کے یہاں مہمان بن کر ٹھہرتے تھے۔ ہر گھر میں روزانہ کوئی نہ کوئی مہمان ضرور ہوتا تھا۔ شہر کے لوگوں کو بحیثیت میزبان مہمانوں کی خاطر تواضع اور مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا اور مہمانوں کی خدمت میں ان کا کافی مال اور وقت صرف ہوتا تھا۔ روز بروز مہمانوں کی آمد اور ان کی مہمان نوازی سے لوگ کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے لیکن مہمانوں کی بکثرت آمد کا غیر منقطع سلسلہ جاری تھا۔ لیکن اخلاقی طور و اطوار اور سماجی مراسم کا لحاظ کرتے ہوئے بادل ناخواستہ بھی وہ مہمانوں کو ”خوش آمدید“ کہہ کر حتی الامکان اور حسب استطاعت ان کی خاطر داری کرتے تھے۔

ایک عرصہ دراز تک مہمانوں کی خاطر داری کرتے کرتے شہر سدوم کے باشندے اکتا گئے تھے اور اب مہمانوں کو آنے سے روکنے کی کوئی تدبیر اور صورت تلاش کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں شیخ نجدی یعنی ابلیس لعین شہر سدوم میں ایک بوڑھے شخص کی صورت میں نمودار ہوا اور مہمانوں سے تنگ آئے ہوئے میزبان لوگوں کو جمع کر کے ان کو مشورہ دیا کہ اگر واقعی تم مہمانوں کی آمد سے پریشان ہو اور اس پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں تم کو ایک آسان تدبیر بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب بھی تمہارے یہاں کوئی مہمان آ کر ٹھہرے تو تم اس کے ساتھ زبردستی بد فعلی کرو۔ ایک مرتبہ تمہاری اس حرکت کا تجربہ کرنے والا پھر کبھی تمہارے یہاں آنے کی جرأت و ہمت نہیں کرے گا۔ اور رفتہ رفتہ یہ بات پھیل جائے گی کہ تمہاری بستی میں آنے والے مہمان کی جبرا ”عصمت دری“ ہوتی ہے۔ تو پھر لوگ تمہارے یہاں آتے ہوئے جھمک محسوس کریں گے بلکہ اپنی روانہ وقتوں میں جاننے کے خوف سے تمہاری بستی میں

پاؤں تک نہیں رکھیں گے۔

چنانچہ ابلیس لعین سب سے پہلے ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر شہر سدوم کی بستی میں آیا اور بستی والوں سے خوب خوب بد فعلی کرائی۔ خود مفعول بن کر بستی والوں کو لوامت کا فعل قبیح سکھایا اور رفتہ رفتہ بستی والے اس بے حیائی کے کام کے اس قدر عادی بن گئے کہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔

حوالہ:- (۱) تفسیر روح البیان، جلد: ۳، ص: ۱۹۷

(۲) تفسیر خزائن العرفان، ص: ۲۸۹

(۳) صاوی، جلد: ۲، ص: ۷۵ اور

(۴) عجائب القرآن، ص: ۱۲۷

شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد یعنی نوح انسانی کے ایمان اور اخلاق تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی بلکہ ان کو ذاتی اور مالی مفاد کی طمع اور لالچ میں لپیٹ کر گمراہیت اور ضلالت کی گہری ندی میں غرق کر دیا۔ المختصر! شیطان ناصح اور ہمدرد کی صورت اختیار کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے ایسے معضرا اور مہلک مشورے دے کر ان کو کفری ذہنیت سکھاتا ہے۔ اور نبی کو بشر کہنے کی ذہنیت بھی ابلیس کا اختراع ہے۔ کفار، مشرکین اور منافقین کو انبیائے کرام سے منحرف کرنے کے لیے اس نے ان کو یہ ذہنیت دی کہ یہ تو ”ہمارے تمہارے جیسے بشر“ ہیں۔ شیطان کے اس دام فریب کا شکار بن کر ہر دور کے کفار اور مشرکین نے اپنے اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا۔

لہذا ایک بات اچھی طرح ذہن نشیں کر لیں کہ:-

◎ شیطان کے بہکادے میں آ کر کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں

اور منافقوں نے ہی نبی کو ”بشر“ یا ”اپنے جیسا بشر“ کہا ہے۔

◎ کسی بھی نبی کے کسی بھی مومن امتی نے اپنے نبی کو اپنے جیسا ”بشر“ نہیں

کہا۔ صرف کفار امتی نے ہی اپنے نبی کو ”بشر“ یا ”اپنے جیسا بشر“ کہا

۔۔۔ marfat.com

◎ سب سے پہلے نبی کو بشر کہہ کر کافر ہونے والا ابلیس لعین تھا اور ابلیس لعین کے نقش قدم پر چل کر ہر زمانہ کے کافروں نے اپنے نبی کو "بشر" یا "اپنے جیسا بشر" کہا ہے۔

◎ جنہوں نے نبی کو بطور توہین "بشر" کہا ہے وہ ایمان و ہدایت سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔

اب ہم ہماری گفتگو کے اہم مقام پر آ پہنچے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی آیت کریمہ **قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** یعنی "تم فرماؤ، آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں۔" اس آیت کو دلیل بنا کر دورِ حاضر کے منافقین نے ایک عظیم فتنہ برپا کر رکھا ہے۔ لہذا اس آیت کے ضمن میں دورِ حاضر کے منافقین کے اقوال، نظریات، اعتقاد وغیرہ کا جائزہ لے کر ان کے عقائد باطلہ و نظریات فاسدہ کا ردِ بلیغ، اس آیت کریمہ کی صحیح ترجمانی و تفسیر، اس آیت کے ہر لفظ کی وضاحت، اس آیت میں پوشیدہ اسرار، رموز و حکمت کا انکشاف، عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نازل شدہ اس آیت کی صحیح تفہیم اور دورِ حاضر کے منافقین اس آیت سے غلط مفہوم استدلال کر کے من گھڑت معنی اخذ کر کے جو غلط فہمی پھیلاتے ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہوئے قرآن و احادیث کے دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ سے اگلے صفحات میں تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ قارئین کرام سے التماس ہے کہ یک سوئی سے ان اوراق کا یہ نظر عمیق مطالعہ فرمائیں۔

”قرآن شریف میں حضورِ اقدس ﷺ کے لیے ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کا ارشاد خداوندی کیوں نازل ہوا ہے؟“

زمانہ ماضی کے کفار و مشرکین کے نقش قدم پر چل کر دورِ حاضر کے منافقین بھی حضورِ اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”اپنے جیسا بشر“ کہتے اور لکھتے ہیں۔ شانِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں توہین و تنقیص کی فاسد غرض و ارادے سے ان کو ”بشر“ ہی نہیں بلکہ اپنے جیسا بشر کہہ کر ”بڑا بھائی“ اور ”عاجز بندہ“ کہنے تک کی جرأت و دلیری کرتے ہیں اور اپنے اس دعویٰ کو مناسب و راست ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت کریمہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”اپنے جیسا بشر“ کہتے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ قرآن کی اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضورِ اقدس کو حکم فرمایا ہے کہ تم کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ اور حضورِ اقدس نے خود اپنے کو ہمارے جیسا بشر کہا ہے۔ تو ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ قرآن کی روشنی و تعلیم سے کہتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کی آیت کے جملے نقل کرتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی توہین نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کا اظہار ہے۔

دورِ حاضر کے منافقین کی مندرجہ بالا وضاحت کے دوام فریب میں بھولے بھالے مؤمن

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

پھنس جاتے ہیں اور ان کی ”ہاں“ میں ”ہاں“ ملا کر ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے بے سمجھے ہو جھے ان کی بات تسلیم کر لیتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے ہم اس آیت کریمہ کی صحیح تفہیم حاصل کرنے کی سعی و کوشش کریں۔

○ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ“

(۱) پارہ: ۲۳، سورہ فتح مجدہ، آیت: ۶

(۲) پارہ: ۱۶، سورہ الکھف، آیت: ۱۱۰

ترجمہ:- ”تم فرماؤ، آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں۔ مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کریمہ کو دلیل بنا کر دورِ حاضر کے منافقین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گستاخی و بے ادبی کرتے ہیں اور حضورِ اقدس کو اپنے جیسا بشر کہہ کر:-
○ علم غیب نبی کا انکار کرتے ہیں۔

○ حضورِ اقدس کو اپنے جیسا بشر، عاجز بندہ، بڑے بھائی، وغیرہ کہتے ہیں۔

○ کہتے ہیں: ”مر کے مٹی میں مل گئے اور ہماری فریاد و پکار نہیں سن سکتے۔“

○ ان کو کسی قسم کا تصرف و اختیار نہیں۔ وغیرہ

الغرض! اس قسم کے نازیبا اور توہین آمیز کلمات کہنے کے لیے قرآن مجید کی مرقوم آیت

کریمہ کے غلط مفہم اخذ کرتے ہیں اور گمراہیت و بے دینی پھیلاتے ہیں۔

اب ہم اس آیت کریمہ کے ضمن میں اپنی بحث کا آغاز کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ:-

(۱) اس آیت میں حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر کیوں کہا گیا ہے؟

(۲) حضورِ اقدس کو بشر کہنے میں کیا راز اور حکمت ہے؟

(۳) اس آیت میں ”بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کا کیا مطلب ہے؟

(۳) اس آیت کے الفاظ، جملہ کی بندش، کلام کی فصاحت و بلاغت وغیرہ سے کیا مطلب اخذ کیا جاسکتا ہے؟

(۵) اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا عظمت ظاہر فرمائی گئی ہے؟

(۶) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر کہنے کے متعلق شریعت میں کیا حکم ہے؟

(۷) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بشر ہونے میں اور ہمارے بشر ہونے میں کیا فرق ہے؟

(۸) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے بشر تھے؟ اور آپ کی بشریت کیسی تھی؟

ان تمام سوالات کے مدلل اور اطمینان بخش جوابات ہم قرآن و حدیث سے اپنی استطاعت کے مطابق پیش کریں گے۔ امید ہے کہ قارئین کرام انشاء اللہ ضرور مطمئن ہوں گے۔

◎ انبیائے سابقین کو بشر کہنے والوں نے انبیائے کرام

سے معجزات طلب کیے تھے:

دور حاضر کے منافقین اور زمانہ ماضی کے کفار و مشرکین کے عقائد و نظریات میں یکسانیت اور یکجہتی ہے۔ اس حقیقت کے ثبوت میں قرآن کی روشن آیات شاہد و عادل ہیں۔ مضمون و عنوان کا ربط و تسلسل یہ قرار رکھنے کے لیے قارئین کرام اور اہل سابقہ میں تلاوت کردہ سورہ ابراہیم کی آیات نمبر ۱۰، ۱۱ اور ۱۲ کی طرف پھر ایک مرتبہ رجوع فرمائیں۔

سورہ ابراہیم میں ہے کہ:-

قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا مُرْسِلُونَ لَنْ نَصْنُوْنَا عَمَلًا كَلًّا يَعْبُدُ آبَاؤَنَا فَلْتُنَا بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ

(پارہ ۱۳، سورہ ابراہیم، آیت ۱۰)

ترجمہ:- ”بولے تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو۔ تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے باز رکھو جو

ہمارے باپ دادا پوجتے تھے۔ اب کوئی روشن سند ہمارے پاس ہے

marfat.com

آؤ۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کا ما حاصل یہ ہے کہ جب انبیاء سابقین نے اپنے زمانہ کے لوگوں کو توحید کا پیغام دیتے ہوئے کفر اور شرک کی باتوں سے روکا۔ تو قوم کے سرکشوں نے انبیائے کرام کی بات کو جھٹلانے کے ارادہ سے انہیں بشر کہا اور مزید یہ کہا کہ ”فَاتُونَا بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ“ یعنی ”اب کوئی روشن سند ہمارے پاس لے آؤ۔“ یعنی ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ کفار و مشرکین نے انبیائے کرام کو معجزہ دکھانے کا جو چیلنج (Challenge) دیا تھا وہ بغض و عناد کے جذبے کے تحت جھگڑا کرنے اور تماشا کھڑا کرنے کے انداز میں دیا تھا۔ انبیائے کرام نے ایسے اوباش لوگوں سے منہ لگنا مناسب نہ جانا اور ”وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا“ پر عمل کرتے ہوئے بات کو طول نہ دیا۔ اور ان کے سوال کے انداز کو ملحوظ رکھتے ہوئے جواب دیا کہ:-

”قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ

عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ“ (پارہ: ۱۳، سورہ ابراہیم آیت: ۱۱)

ترجمہ:- ”ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان مگر اللہ اپنے

بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔“ (کنز الایمان)

انبیائے کرام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا فرمایا تھا۔ یعنی علم و انائی عطا فرمایا تھا۔ علم و دانش میں وہ حضرات اپنی مثال آپ تھے۔ حالات کی سنگینی، وقت کا تقاضا، مخاطب کی صلاحیت، عوام کی عقلی بساط، لوگوں کی قوتِ تحمل، مخالفین کے تیور، موافقین کی تائید، وغیرہ امور میں وہ دُور رس نگاہ رکھتے تھے۔ مخالفین نے انبیائے کرام کو اپنے جیسا بشر کہہ کر ان سے معجزہ طلب کیا، تو انبیائے کرام نے ان کی فہمائش پر مشتعل ہوئے بغیر ضبط و تحمل سے کام لیا۔ جاہلانہ طرز عمل اختیار کر کے آستینیں نہ چڑھائیں کہ ارے! ہم سے کوئی سند یعنی معجزہ مانگتے ہو، ہم ابھی معجزہ دکھا دیتے ہیں۔ بلکہ حکمتِ عملی سے کام لیا۔ کفار و مشرکین کو ایسا جواب دیا کہ اگر ان میں ذرہ برابر بھی فہم و دانش ہوتی، تو سمجھ جاتے کہ ہم کو دندان شکن جواب دیا گیا ہے۔ کیونکہ ان سرکشوں نے انبیائے کرام سے یہ کہا تھا کہ تم ہمارے ”مرح بشر ہو۔“ انبیائے کرام نے ان کو ان کی

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

عقل کی بساط کے مطابق جواب مرحمت فرمایا کہ اے لوگو! تم ہم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں! ہاں! "إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" یعنی "ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان" لیکن ہماری ظاہری صورت کی مساوات سے دھوکہ کھا کر ہمیں حقیقت میں اپنے جیسا گمان مت کرو کیونکہ "وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ" یعنی "مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے" یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو نبوت کی فضیلت اور معجزات و تعمرقات کے اختیارات سے سرفراز فرمائے نہیں عام انسانوں سے ممتاز بناتا ہے۔

انبیائے کرام کا یہ جواب ایسا جامع و مانع تھا کہ مخالفین کے "بَشَرٌ مِّثْلُنَا" کے اعتراض کا رد و بلغ اور مسکت جواب تھا۔ اور اشارہ و کنایہ میں فرمادیا تھا کہ تم ہم سے معجزہ طلب کرتے ہو لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم معجزہ دکھا سکتے ہیں لیکن اس وقت تمہارے کہنے پر معجزہ دکھانا ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ البتہ جب ضرورت محسوس ہوگی تب ہم معجزات دکھائیں گے اور حسب وعدہ انبیائے کرام سے عظیم معجزات صادر ہوئے مثلاً:-

⑤ حضرت صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پہاڑ کی چٹان کی طرف اشارہ کر کے چٹان سے زندہ اونٹنی نمودار کر دی، جو نہایت خوبصورت، بلند قامت اور حسین تھی۔

(تفصیل کے لیے: پارہ: ۸، سورۃ الاعراف: آیت ۷۳، ۷۴)

⑥ حضرت حزقیل (ذوالکفل) علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا سے بنی اسرائیل کے ستر ہزار مردہ آدمی پھر زندہ ہو کر اپنی بستی میں آ کر آباد ہو گئے۔

(تفصیل کے لیے: پارہ: ۴، سورۃ البقرہ: آیت: ۲۴۳)

⑦ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چار پرندے ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر آپس میں ملا دیا پھر ان پرندوں کو پکارا تو وہ تمام پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ (تفصیل کے لیے: پارہ: ۳، سورۃ البقرہ: آیت: ۲۶۰)

⑧ حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن رہ کر پھر زندہ باہر

تشریف لائے۔ (تفصیل کے لیے: پارہ: ۴، سورۃ الصافات: آیت: ۱۳۹، ۱۴۰)

© حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ کی لکڑی (لاٹھی) اڑوہا بن جاتی تھی، نیز آپ کا ہاتھ (دست مبارک) سورج کی طرح روشن ہوتا تھا۔

(تفصیل کے لیے: پارہ: ۱۶، سورہ: طہ، آیت: ۱۸-۲۳)

© حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام سخت اوبے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ لوہا موسم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ علاوہ ازیں آپ تمام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔

(تفصیل کے لیے: پارہ: ۱۹، سورہ: النمل، آیت: ۱۵)

© حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تمام جانوروں اور پرندوں کی بولی کا علم تھا۔ علاوہ ازیں آپ کی حکومت انسانوں اور جانوروں پر تھی۔ نیز ہوا آپ کے ذریعہ صرف تھی۔

(تفصیل کے لیے: پارہ: ۱۹، سورہ: النمل، آیت: ۱۵-۱۷)

© حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی عصمت کی گواہی دینے کے لیے چار مہینے کے بچے کو بولتا کیا۔ (تفصیل کے لیے: پارہ: ۱۳، سورہ: یوسف، آیت: ۲۹)

مذکورہ ان معجزات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیائے کرام نے بے شمار معجزات کا انبیا فرمایا ہے۔ جن کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ہم نے چند معجزات کی طرف اشارہ کر دیا ہے لیکن ناظرین کی طبع خاطر کے لیے اللہ تعالیٰ کے دو برگزیدہ رسول کے معجزات و قدرے تفصیل سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

© حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزات :-

حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کثیر تعداد میں معجزات کا ظہور ہوا ہے۔ جن میں سے چند معجزات حسب ذیل ہیں :-

© حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عالم شیرخواری میں کلام کیا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ (تفصیل کے لیے: پارہ: ۱۶، سورہ: مریم، آیت: ۳۰)

© حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام مٹی سے پرند کی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ واقعی زندہ پرند ہو کر اڑنے لگتا تھا۔ علاوہ ازیں آپ ماورزا دانہ مے

اور سفید داغ والے مریضوں کو پل بھر میں جینا اور اچھا کر دیتے تھے۔ آپ کے صرف ہاتھ پھیر دینے سے روزانہ ہزاروں مریض شفا یاب ہوتے تھے۔

(تفصیل کے لیے: پارہ: ۷، سورہ: المائدہ، آیت: ۱۱۰)

آپ مردوں کو قَمِ بِيَانِ اللّٰهِ کہہ کر زندہ فرمادیتے تھے علاوہ ازیں لوگ اپنے گھروں میں جو کچھ کھاتے تھے اور جمع کرتے تھے وہ آپ بتا دیتے تھے۔

(تفصیل کے لیے: پارہ: ۳، سورہ: آل عمران، آیت: ۴۹)

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزات کا قرآن مجید میں اس طرح ذکر ہے کہ:-

”اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِّنَ الطَّیْرِ کَهَيْئَةِ الطَّیْرِ فَاَنْفِخُ فِیْهِ فَيَکُوْنُ طَیْرًا بَیْٰنَ اللّٰهِ وَ اُبْرِیْ الْاَکْمَةَ وَالْاَبْرَصَ وَ اُحْیِ الْمَوْتِیْ بَیْٰنَ اللّٰهِ وَ اَنْبِئُکُمْ بِمَا تَاْکُلُوْنَ وَ مَا تَلْخِضُوْنَ فِیْ بُیُوْتِکُمْ“

(پارہ: ۳، سورہ: آل عمران، آیت: ۴۹)

ترجمہ:- ”میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو اور میں مردے جلا تا ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔“ (کنز الایمان)

حضرت عزیر بن شریخا علیہ الصلوٰۃ والسلام:-

حضرت عزیر بن شریخا علیہ الصلوٰۃ والسلام بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ آپ کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ سے تقریباً چھ سو سال پہلے تھا۔ جب قوم بنی اسرائیل کی بد اعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ سخت نعر باطنی نام کے ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت

المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے ایک لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا۔ ایک لاکھ آدمیوں کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر دیا اور ایک لاکھ آدمیوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ حضرت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی انہیں قیدیوں میں تھے۔ بخت نصر بابل کی بادشاہ نے بیت المقدس شہر کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور پورے شہر کو ویرانہ بنا کر ایک لاکھ قیدیوں کو اپنے ہمراہ لے کر چلا گیا۔

حضرت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی طرح سے بخت نصر بادشاہ کی قید سے رہا ہو کر بھاگ نکلے اور اپنے دراز گوش (گدھے) پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے۔ شہر میں داخل ہو کر آپ نے اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھی تو آپ کا دل بھرا آیا اور آپ رونے لگے۔ اس وقت شہر کی حالت یہ تھی کہ عالی شان مکان ویران پڑے ہوئے ہیں، درختوں پر خوب کثرت سے پھل آئے ہوئے ہیں، جو پک چکے ہیں لیکن ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں۔ آپ نے پورے شہر کا گشت فرمایا لیکن آپ کو کسی انسان کی صورت نظر نہ آئی۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا کہ "آتسىٰ یخیسىٰ ہذہ اللہ بعد موتہا" یعنی اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد۔"

پھر آپ نے کچھ کھجوریں اور انگور تناول فرمائے اور انگور کا شیرہ نوش فرمایا اور اپنے توشہ دان میں انگور کا شیرہ بھر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گدھے کو مضبوط رسی سے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور آپ درخت کے نیچے سو گئے اور غیند کی حالت ہی میں آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے ستر (۷۰) سال کے بعد ملک فارس (Iran) کا ایک بادشاہ بیت المقدس آیا اور اس نے بیت المقدس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ بارونق اور آباد بنایا۔ جو بنی اسرائیل اطراف کے علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے انہیں بلا بلا کر بیت المقدس میں بسائے اور ان لوگوں نے نئی نئی عمارتیں اور باغات لگا کر شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ اس طرح تیس برس کا مزید عرصہ گزر گیا یعنی حضرت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات کو پورے ایک سو (۱۰۰) سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب آپ کی وفات کو پورے ایک سو سال ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ آپ کی آنکھوں میں سب سے پہلے جان آئی اور باقی جسم بڑھتا ہوا تھا۔ آپ کے کھمبے کہتے ہی آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں جان

پڑی اور آپ زندہ ہو گئے۔ اس وقت آفتاب فروب ہونے کے قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا کہ اے عزیر! تم یہاں کتنا ٹھہرے؟ آپ جب سوئے تھے تب صبح کا وقت تھا اور جب زندہ ہوئے تب شام کا وقت تھا لہذا آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ اتنی دن کی شام ہے جس دن میں سویا ہوں۔ لہذا آپ نے جواب دیا کہ میں ایک دن یا ایک دن سے کم ٹھہرا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تم ایک سو برس ٹھہرے ہو۔ پھر وحی ہوئی کہ اے عزیر! اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں بھی سڑ گئی ہیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا ہے۔

حضرت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے گدھے کو دیکھا تو گدھا مر گیا اور وہ اس کی سفید سفید ہڈیاں اور ادر کھری پڑی ہیں لیکن توشہ دان میں رکھا ہوا انگور کا شیر و بالکل تر جا زو ہے اور اس میں کسی قسم کی خرابی یا بگاڑ پیدا نہیں ہوئی۔ علاوہ ازیں حضرت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سر اور داڑھی مبارک کے بال بھی بالکل سیاہ تھے۔ اور آپ کی عمر شریف بھی وہی چالیس (۴۰) برس کی اب بھی تھی۔ جب آپ سوئے تھے تب آپ کی عمر شریف چالیس برس کی تھی۔ پھر آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اے عزیر! اب تم دیکھو کہ ہم کس طرف مردوں کو زندہ کرتے ہیں چنانچہ حضرت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ گدھے کی کھری ہوئی ہڈیوں میں اچانک حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم میں تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوتے میں گر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا اور لمبی عمر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر رہنے لگا۔ یہ منکر دیکھ کر حضرت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جلتاً وازت کہا کہ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ یعنی ”میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔“ قرآن مجید میں اس واقعہ کا بیان اس طرح ہے کہ:-

لَوْ كَا لَّذِيْ مَرَّ عَلٰی قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَلُوِيَةٌ عَلٰی غُرُوبِهَا قَالْ
لَنْسِيْ يُخْسِيْ هٰذَا اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا قَالَمَلَا اللّٰهُ بِمَلَاةٍ عَلِمَتْ

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بَعَثَهُ ۞ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ ۞ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۞ قَالَ
بَلْ لَبِثْتُ مِائَةً عَامٍ فَأَنْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ
وَأَنْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَىٰ
الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۞ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ
أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(پارہ: ۳، سورۃ البقرۃ، آیت: ۲۵۹)

ترجمہ:- ”یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھسی (مسار ہوئی) پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ بولا اسے کیوں کر چلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد۔ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا سو (۱۰۰) برس پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ فرمایا نہیں تجھے سو برس گزر گئے اور اپنے پانی اور کھانے کو دیکھ کہ اب تک بڑھ لایا اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔“

(کنز الایمان)

المختصر! حضرت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام بعدہ شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس محلے میں گئے جہاں پہلے آپ کا مکان تھا۔ آپ اپنے مکان پر گئے تو ایک اندھی اور اپنا بچ بوڑھی عورت مکان کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ وہی بوڑھی عورت تھی جس نے حضرت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت عزیر نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیا یہ مکان حضرت عزیر بن شریخا کا ہے؟ اس بوڑھی نے کہا کہ ہاں لیکن تم کو عزیر بن شریخا سے کیا واسطہ ہے؟ ان کا زمانہ تو ایک سو (۱۰۰) سال پہلے تھا۔ پھر وہ بڑھیا حضرت عزیر کو یاد کر کے رونے لگی۔ حضرت عزیر نے اس

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بڑھیا سے فرمایا کہ میں ہی عزیز بن شرخیا ہوں۔ آپ کی بات سن کر بڑھیا کو بہت تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان کو لاپتہ ہوئے ایک عرصہ دراز گزر چکا ہے۔ حضرت عزیر نے بڑھیا سے فرمایا کہ اے مائی! میری بات کا بھروسہ کرو۔ واقعی میں عزیز بن شرخیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سو (۱۰۰) برس مردہ رکھا۔ پھر زندہ فرمایا ہے اور اب میں اپنے گھر آیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ یہ بات ہے تو ٹھیک ہے لیکن حضرت عزیز بن شرخیا ایسے باکمال اور مستجاب الدعوات تھے کہ وہ جو بھی دعا کرتے تھے وہ فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیز بن شرخیا ہیں تو میرے حق میں دعا فرماؤ تاکہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے اور میرا فالج دُور ہو جائے۔ حضرت عزیز نے دعا فرمائی تو وہ بڑھیا فوراً اٹھ کھڑی ہو گئی اور اس کا فالج کا مرض دُور ہو گیا اور وہ بالکل سندرست ہو گئی۔ پھر اس بڑھیا نے حضرت عزیز کو بغور دیکھا تو پہچان لیا اور کہا کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیز ہی ہیں۔

پھر وہ بڑھیا حضرت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ ایک مجلس میں جمع تھے۔ اور اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ جس کی عمر ایک سو اٹھارہ (۱۱۸) سال کی تھی اور اسی مجلس میں آپ کے چند پوتے بھی تھے۔ جن میں سے ایک پوتے کی عمر نوے (۹۰) سال کی تھی۔ بڑھیا نے مجلس میں جا کر اعلان کیا کہ اس وقت میرے ساتھ جو صاحب ہیں وہ حضرت عزیز بن شرخیا ہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں لیکن کسی نے بھی بڑھیا کی بات پر اہتمام نہ کیا۔ اتنے میں حضرت عزیر کے صاحبزادے نے کہا کہ میرے والد محترم کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا منہ تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے کرتہ اُتار کر دکھایا تو منہ موجود تھا۔ پھر بھی کچھ لوگوں کو تردید ہو اور کہا کہ یہ اتفاقاً ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت عزیر کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ ان کو توریت شریف زبانی یاد تھی۔ اگر یہ واقعی عزیز بن شرخیا ہیں تو توریت شریف زبانی پڑھ کر سنادیں۔ لوگوں کی اس فرمائش و درخواست پر حضرت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بلا کسی تھک فوراً پوری توریت شریف زبانی پڑھ کر سنادی۔

۱۔ ایک سال ۱۱۸۰ھ میں

کر سنائی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ کیوں کہ بخت نصر بادشاہ نے ایک سو (۱۰۰) سال پہلے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تھا تب اس نے چالیس ہزار تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا۔ اور تورات شریف کی تمام جلدیں جلادی تھیں اور تورات کی ایک بھی جلد باقی نہ رکھی تھی۔ لہذا اب یہ سوال کھڑا ہوا کہ حضرت عزیر نے جو تورات شریف زبانی تلاوت فرمائی تھی اس کے صحیح ہونے کے ثبوت میں لکھی ہوئی تورات سے تقابل کرنا ممکن نہ تھا کیونکہ اس وقت تورات شریف کا ایک بھی نسخہ دستیاب نہ تھا۔

اس گفتگو کے دوران ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر بادشاہ نے گرفتار کیا تھا۔ اُس دن میرے فلاں ویرانہ میں انگور کی فلاں جگہ والی نیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی تھی۔ تم سب میرے ساتھ چلو، ہم اس جگہ کو کھود لیتے ہیں اور اگر تورات شریف کی جلد صحیح و سالم برآمد ہوئی تو ہم اس سے تقابل کر لیں گے اور حضرت عزیر کے پڑھے ہوئے کو مستند قرار دے دیں گے لہذا چند حضرات اس مقام پر گئے اور تورات شریف کھود کر نکالی اور اس نسخہ سے حضرت عزیر کے پڑھے ہوئے کو ملایا تو وہ حرف بہ حرف تورات شریف کے مطابق تھا۔

یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک یہی حضرت عزیر بن شریا علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور بعض لوگوں نے حضرت عزیر کی عقیدت و محبت میں غلو کرتے ہوئے یہاں تک کہنا شروع کیا کہ حضرت عزیر بن شریا یقیناً خدا کے بیٹے ہیں۔ (معاذ اللہ)

چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ اور آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدہ پر جمے ہوئے ہیں۔

حوالہ :- (۱) تفسیر جمل علی الجلالین، جلد: ۱، ص: ۲۱۲، ۲۱۵

(۲) تفسیر خزائن العرفان، ص: ۷۹

(۳) عجائب القرآن، ص: ۴۹

نوٹ :- حضرت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مدت نیند یعنی ایک سو (۱۰۰) سال تک

marfat.com

اللہ تعالیٰ نے درند، چرند، پرند، انسان اور جنات کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا تھا کہ اس مدت کے دوران آپ کو کوئی بھی دیکھ نہ سکا۔

اب ہم قرآن مجید کی آیت کریمہ **قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** کے ضمن میں ہماری بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیٰ نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام کے عظیم الشان معجزات کا تفصیلی تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ:-

”یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اور

عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کہا“

حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہما الصلوٰۃ والسلام کے مذکورہ بالا معجزات دیکھ کر لوگ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ وہ ایسا مانتے لگے کہ انہوں نے جو کام کر دکھائے ہیں وہ کام کر دکھانا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایسی طاقت، قدرت، قوت، تصرف اور اختیار کسی انسان کے لیے ممکن نہیں بلکہ کسی بھی انسان سے ایسے افعال و کمالات کا صادر ہونا محال و قطعاً ناممکن ہے۔ یہ کام خدائی طاقت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کے رشتہ دار ہوں اور خدا کے رشتہ دار یا ذریت ہونے کی وجہ سے ان میں ایسی طاقت و قدرت ہو۔ اس زعم باطل اور خیال فاسد کی بناء پر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کہتا اور ماننا شروع کر دیا۔ یہود و نصاریٰ کے اس باطل عقیدہ کا قرآن مجید میں رد و تبلیغ فرمایا گیا ہے:-

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ الْمَسِيحُ
ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

martat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

(پارہ: ۱۰، سورۃ التوبہ، آیت: ۳۰)

ترجمہ: ”اور یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی بولے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ باتیں وہ اپنے منہ سے جکتے ہیں۔ اگلے کافروں کی سی بات بتاتے ہیں۔ اللہ انہیں مارے، کہاں اوتدھے جاتے ہیں۔“

(کنز الایمان)

اس آیت میں حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہنے کی وجہ سے یہودی گمراہیت اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے کی وجہ سے نصاریٰ کی گمراہیت کا ذکر ہے۔ جب حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام کے معجزات دیکھ کر یہود و نصاریٰ ان کو خدا کا بیٹا کہنے لگے تو اللہ کے محبوب عظیم، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ سے بھی عظیم معجزات ظاہر ہونے والے تھے۔ تو جس طرح یہود و نصاریٰ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کے معجزات دیکھ کر ان کو خدا کا بیٹا کہنے لگے اور کھلم کھلا ارتکاب شرک کر کے اللہ کی توحید میں شرک کی آمیزش کرنے لگے۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم معجزات دیکھ کر ان کو بھی کوئی خدا کا بیٹا یا خدا کا شریک کہہ کر شرک کی قیامت سے طوٹ نہ ہو جائے اس لیے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ تاکہ لوگ متنبہ ہو جائیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنے ہی عظیم معجزات صادر ہوں پھر بھی وہ خدا کے بیٹے یا خدا کے شریک ہرگز نہیں بلکہ خدا کے بندے اور رسول ہی ہیں۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے محبوب! تم فرما دو کہ انسان ہونے میں یعنی بندہ ہونے میں اور اللہ کا شریک نہ ہونے میں تو میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ اس حکم میں کیا سراہہ رموز ہیں اور یہ حکم کیوں فرمایا گیا؟ اس کی بحث قارئین کرام کی خدمت میں بالتفصیل پیش کرنے کے قبل قرآن مجید میں مذکور ایک واقعہ گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور نمرود بادشاہ کے درمیان جو مناظرہ ہوا تھا اس کے تعلق سے ہے۔ یہ واقعہ بہت طویل ہے لیکن ہم اس

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

واقعے کو اختصاراً پیش خدمت کرتے ہیں:-

”حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نمرود کو لکارا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کر کے دکھا“

حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں نمرود بن کنعان نام کے بادشاہ کی حکومت تھی۔ نمرود بن کنعان کی بادشاہت وسیع پیمانہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ بلکہ تفسیر کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ”تمام زمین کی سلطنت اسے عطا ہوئی تھی۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۷۷)

نمرود کو اپنی عظیم سلطنت کے غرور کا ایسا نشہ چڑھا کہ اس نے ”خدائی کا دعویٰ“ کر دیا اور لوگوں سے اپنی پرستش کرانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نمرود کو نصیحت و ہدایت فرماتے ہوئے کہا کہ اے نمرود! خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار و اعتراف کر اور رب واحد کی عبادت کر۔ نمرود نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ”رَبِّی الَّذِیْ یُحِیْ وَیُمِیْتُ“ یعنی ”میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اورارتا ہے“ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کے اس جواب کی اہمیت گھٹانے اور اپنی کمال جہالت و سفاہت کا اظہار کرتے ہوئے نمرود نے دو شخصوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان دونوں میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا یا قتل کر کے مار ڈالنا میرے اختیار و قدرت میں ہے۔“ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا رب مردہ میں جان ڈال کر جلاتا ہے اور اس کو قدرتی طور پر موت دیتا ہے لیکن نمرود نے اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے چلانے سے مراد گرفتار کر کے چھوڑ دینا اور موت دینے سے مراد گرفتار شخص کو قتل کرنا لیا۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نمرود کی اس جاہلانہ اور وحشیانہ حرکت پر مناظرانہ طرز اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ ”فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسُّنْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ“ یعنی ”اللہ سورج کو مشرق (پورب) سے لاتا ہے۔ تو اس کو مغرب (پچھتم) سے لے آ“ حضرت ابراہیم کی اس چیلنج کو سن کر نمرود کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر اس طرح ہے کہ:-

”أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَيْبِهِ أَنْ أَنَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ
إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي
وَأُمِيتُ ط قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسُّنْسِ مِنَ
الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ“

(پارہ: ۳، سورۃ البقرہ، آیت: ۲۵۸)

ترجمہ:- ”اے محبوب! کیا تم نے نہ دیکھا تھا اُسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی جب کہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ تو سورج کو لاتا ہے پورب (مشرق) سے تو اس کو پچھتم (مغرب) سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے“

marfat.com

(کنز الایمان)

اس آیت کا ما حاصل یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نمرود کو لٹکارتے ہوئے چیلنج دیا کہ اگر تو خدائی کے دعویٰ میں سچا ہے تو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اس پر نمرود کی حالت خراب ہو گئی اور اس کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ اس فکر میں غرق ہو گیا کہ میرے سامنے سورج کو مغرب سے طلوع کر دکھانے کی چنوتی پیش کی گئی ہے اور مجھ سے ایسا کام کر دکھانے کا کہا گیا ہے کہ جس کام کے کر دکھانے کی مجھ میں طاقت و قوت نہیں بلکہ کسی انسان میں یہ قدرت نہیں کیونکہ سورج کو طلوع و غروب کرنے کی قدرت صرف اللہ رب العزت کی ہی قدرت میں ہے۔ لہذا نمرود ساقط و مبہوت ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پایا۔

ایک اہم نکتہ کی جانب قارئین کرام کی توجہ ملتفت کرنا ضروری ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نمرود سے جو فرمایا کہ اگر تو اپنے خدائی کے دعویٰ میں سچا ہے تو آفتاب کو مغرب سے طلوع کر دکھا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر نمرود نے بالفرض آفتاب کو مغرب سے طلوع کر دکھایا ہوتا تو آپ اس کو خدا تسلیم کر لیتے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یقین کے درجہ میں علم تھا کہ نمرود بن کنعان اپنے خدائی کے دعویٰ میں جھوٹا ہے اور نمرود کا جھوٹ ظاہر کرنے اور اسے ذلیل و خوار کرنے کے لیے ہی آپ نے نمرود کے سامنے یہ چیلنج پیش کیا تھا تا کہ نمرود کو بھی اس حقیقت کا احساس ہو جائے کہ سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کرانے کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ میں ہے۔ میرے جیسے جھوٹے دعوے دار میں یہ طاقت ہرگز نہیں ہے۔

سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کر دکھانے کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت مبارزت میں نمرود کو شکست ناس ہوئی اور اس کے خدائی کے جھوٹے دعویٰ کی قلعی کھل گئی اور اس مناظرے کی رواد کی اطلاع دور دراز تک پھیلی بلکہ ہر زمانہ میں حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان ہوئے مناظرہ کی رواد عوام و خواص میں عنوان سخن کی حیثیت سے

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

خسرو تیسرا۔ بلکہ نہایت قدس حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک لوگوں میں اس منہ غروب کا
ذکر ہی نہ رہتا تھا۔ تب چونکہ وہ اس منہ غروب سے لوگوں نے کئی نتیجہ لکھا ہے کہ آفتاب کو
بچانے کے لئے مغرب سے طلوع کر دینا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ کام
صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اور یہ قدرت ہے۔ اور اس کے ذہن میں یہ بات تھوڑی تھوڑی غریب
تھی۔ بیچلی تھی۔ کہ آفتاب کو صرف اللہ تعالیٰ ہی بچانے کے لئے شرق کے مغرب سے طلوع کر سکتا
ہے۔ اور لوگوں نے آفتاب کو بچانے کے لئے شرق کے مغرب سے طلوع کر دینا کئی طاقت کو خود
بوجہ کی بات نہ سمجھا تھا۔

پس ہاں لوگوں نے خود کو بچانے کی بات یہ تو وہ کام اللہ تعالیٰ ہی کے محبوب
مظہر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر دیا۔

انجیل نبیہ سے واضح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
عصر کی نماز پڑھ کر فرمائی اور نماز پڑھنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم نے صبح کی مشنگی شروع فرمائی اللہ تعالیٰ عنہ کے کذا تو پڑھا سر مبارک رکھ کر
پہلوں پر دست فرما دیئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز
نہیں پڑھی تھی لیکن جان ایمان و جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام میں
تغافل نہ پہنچے اس نیک ارادے سے اسی حالت میں بیٹھے رہے اور ان کو نماز
پڑھنے کا موقع میسر نہ ہوا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ آفتاب غروب
ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے اور
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی
ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے ابھی تک
نماز عصر نہیں پڑھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے
سورج کی سمت اپنی انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا اور ڈوبا ہوا سورج مغرب
سے طلوع ہو کر بلند ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا فرمائی اور
پھر سورج دوبارہ غروب ہو گیا۔ (حوالہ مدارج النبوة، از: شیخ مصلح شاہ
marfat.com

عبداللہ محدث دہلوی قدس سرہ اُردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۳۳۰)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ دیکھ کر مسلمان بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہود و نصاریٰ کی طرح اللہ کا بیٹا یا اللہ کا شریک نہ مان لیں اور حضرت عزیر اور حضرت یحییٰ کو خدا کا بیٹا یا خدا کا شریک کہہ کر جس طرح یہود و نصاریٰ گمراہ ہوئے ہیں اس طرح قوم مسلم بھی گمراہ نہ ہو جائے اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی یہ فرمایا کہ "أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" اور اس فرمانِ عالی کا مقصد یہی تھا کہ اے لوگو! میرے عظیم معجزات دیکھ کر یہود و نصاریٰ کی طرح گمراہ ہو کر مجھے خدا کا شریک مت مان لینا۔ بلکہ توحید کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا کیونکہ "إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ" یعنی "تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔" یعنی پرستش اور عبادت کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی لائق ہے۔ مجھ سے چاہے عظیم معجزات صادر ہوں لیکن میں "إِلَهٌ" یعنی "معبود" نہیں بلکہ "عَبْدٌ" یعنی "بندہ" ہوں۔

قرآن مجید کی سورۃ الکہف اور سورۃ حم السجدہ کی آیت "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ" الخ کی تفصیلی وضاحت رقم کرنے کے قبل مناسب ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے کچھ عظیم معجزات اور وہ معجزات کن حالات میں وقوع پذیر ہوئے اس پر بہت ہی اختصار کے ساتھ گفتگو کریں۔

”حضورِ اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند عظیم الشان معجزات“

حضورِ اقدس، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نورِ نبوت و رسالت نے پورے عالم کو منور فرما دیا۔ آفتابِ نبوت و ماہتابِ رسالت کی ضیاء باریاں اپنی تاب و توانائی کے ساتھ درخشاں تھیں۔ نورِ ہدایت ہر سمت پھیل رہا تھا۔ کفر و شرک، جہالت و ظلمت، ظلم و ستم کی سیاہ اور بھیا تک بدلیاں آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھیں اور ان کے بکھرنے سے تاریک اندھیرا اب چمکدار اُجالے میں متبدل ہو رہا تھا۔ مکہ معظمہ کے صاحبِ اقتدار لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اسلام کا پیغام تو حید لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو رہا تھا۔ لوگ گمراہیت کی راہ ترک کر کے رُشد و ہدایت کی ”صراطِ مستقیم“ پر گامزن ہو رہے تھے۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی سرعت کے ساتھ ہو رہی نشر و اشاعت سے کفار اور مشرکین بغض و حسد کی آگ میں جل اُٹھے۔ مخالفت و عداوت کرنے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ اسلام کے ”نور حق“ کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کے لیے وہ ہر وقت متحرک و مستعد تھے لیکن ”وَاللّٰهُ مٰتِمْ نُوْرِهِ وَّلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ“ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے محبوبِ اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے بے مثل و مثال خصائصِ کبریٰ اور معجزاتِ عظیمہ کے سامنے اسلام و دشمن عناصر کی ہر تحریک و کوشش ناکامیاب و نامراد ہو کر رو جاتی تھی۔ اور دشمنانِ دین کا ہر حربہ ہاتھ گھسانا ثابت ہوتا تھا۔ نتیجتاً وہ ہاتھ کی پیٹھ دانٹوں سے کانٹا کرتے تھے۔ مثلاً:-

”ایک مرتبہ دشمنِ یمن ابو جہل اپنی مٹھی میں چند کنکریاں لیے ہوئے حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میری مٹھی میں کیا ہے؟ ہر تلمحہ غیباً ہی وہ اس کی مٹھی میں لپٹا کر لے گیا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا کہ "تیری منگی میں کیا ہے؟ وہ میں بتا دوں یا تیری منگی میں جو ہے وہ بتا دوں کہ میں کون ہوں؟ ابو جہل نے کہا یہ تو زیادہ بہتر ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ابو جہل کے ہاتھ میں بند کنکریوں کی جانب ملتفت ہوئیں اور ایک عظیم معجزہ ظہور پذیر ہوا۔ ابو جہل کے ہاتھ کی منگی میں جو کنکریاں تھیں ان کنکریوں سے "کلمہ شہادت" کی دلکش صدا میں بلند ہونی شروع ہوئیں۔ پہلے تو ابو جہل کی سمجھ میں کچھ نہ آیا لیکن تھوڑی دیر میں اسے محسوس ہوا کہ کلمہ شہادت کی آواز تو میری منگی سے آرہی ہے۔ تحقیق کرنے کی غرض سے اس نے اپنی منگی اپنے کان کے قریب دھری تو حیران رہ گیا کیونکہ اس کی منگی سے کلمہ شہادت کی تسبیح کا غیر منقطع سلسلہ جاری تھا۔ بے جان و روح پتھر کی کنکریوں سے کلمہ شہادت کی صدا بلند ہوتی دیکھ کر بوکھلا گیا اور غصے سے بھرت ہو کر کنکریاں پھینک کر بھاگ نکلا۔"

ایسے تو کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ کفار و مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر بہ کر اور ان نرقتی مرتبہ اسکی مازیا کرتے تھے۔ پورے عرب ان کی اسکی غیر مہذبانہ چالوں، احمقانہ مشکیہ انہ جرتوں کا منہ توڑ جواب یہ شکل معجزہ جوت سے فرمایا گیا۔ یہاں اپنی منجاش نہیں کہ ان تمام معجزات کا تفسیر و تخریر کیا جائے لہذا چند معجزات کا اختصار بیان کیا جاتا ہے۔

○ مرد و بڑکی کو قیر میں زخم دیا فرمایا۔

میں نے "تذکرہ منیر" میں پورے جہاں کا ذکر حضرت محمد خلیفہ مہذبانہ نے کیا ہے۔ یہ کتاب کلموہب اللندیہ علی الشامل المحمدیہ میں روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سونے کی بوتلی سے لٹکائیں سے لگا کر جب تک آپ صوفی اطفال شہر تھے وہ وہاں ہی رہے۔ فرمایا کہ وہاں تک میں جاتا تھا کہ وہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے یہ معجزہ کیا ہے؟

نے آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کو پکارا اس مرد بٹرنی نے جواب دیا "لَتَيْتِكَ وَمَسْفُتِكَ" یعنی "میں حاضر ہوں اور آپ کی فرمانبرداریوں۔" بعد از حضور اقدس نے اس بٹرنی سے دریافت فرمایا کہ کیا تو دوبارہ دنیا میں واپس آنا چاہتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ "نہیں، یا رسول اللہ! میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا ہے۔"

(حوالہ: "مدارج النبوة"، از: شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۳۵۹)

◎ پکائی ہوئی بکری پھر زندہ ہو گئی:-

حضرت ابو نعیم بن عبد اللہ اصفہانی (المتوفی ۳۳۰ھ) اپنی کتاب "دلائل النبوة" میں روایت فرماتے ہیں:-

"حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک بکری ذبح کر کے اسے سالم دم پخت طریقہ سے پکائی اور اسے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ اس وقت خدمت اقدس میں جو حضرات حاضر تھے ان تمام نے اسے کھایا۔ کھانے والوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا شروع کرنے سے پہلے حکم ارشاد فرمایا کہ تم سب اسے کھاؤ لیکن اس کی ہڈیاں مت توڑنا۔ چنانچہ حاضرین نے اسی طریقہ سے کھایا۔ اس کے بعد حضور اقدس نے تمام ہڈیاں جمع کرنے کا حکم فرمایا اور جمع شدہ ہڈیوں پر اپنا دست مبارک رکھ کر کچھ پڑھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بکری زندہ ہو کر کھڑی ہوئی اور اپنے کان ہلانے لگی۔" (حوالہ: "مدارج النبوة"، از: شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اردو

ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۳۶۱)

◎ حضرت جابر بن عبد اللہ کے دو مردہ بیٹوں کو زندہ فرمایا:-

ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کی دعوت کی اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا۔ بکری کا بچہ ذبح کرنے کے اسے صاف کر کے اسے پکانے کے لیے گھر میں دے دیا۔ حضرت جابر کی بیوی بکری کے بچے کا گوشت پکانے میں مصروف ہو گئیں۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلا لائے اور باہر والے کمرے میں بٹھایا۔ باہر والے کمرے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے علم و عرفان کی باتیں سماعت کرنے میں حضرت جابر ہر تن گوش مشغول ہو گئے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بکری کا بچہ ذبح کیا تھا تب حضرت جابر کے دونوں بیٹے بھی وہاں موجود تھے۔ اور انہوں نے اپنے والد کو بکری کا بچہ ذبح کرتے دیکھا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جابر کے مکان پر تشریف لے آئے اور حضرت جابر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ہم کلامی کی سعادت میں اور حضرت جابر کی بیوی باورچی خانہ میں گوشت پکانے میں مصروف تھیں۔ تب حضرت جابر کے بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارے والد نے بکری کا بچہ کس طرح ذبح کیا۔ اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو زمین پر لٹا کر گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کر ڈالا۔ اچانک حضرت جابر کی بیوی کی نظر اپنے بڑے بیٹے کی حرکت پر پڑی تو وہ دوڑ کر اس کی طرف آئیں۔ بڑے بیٹے نے اپنی والدہ کو اپنی طرف دوڑتی ہوئی آتی دیکھا تو وہ خوف کے مارے مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ حضرت جابر کی بیوی اس کے تعاقب میں مکان کی چھت پر گئیں لیکن اس نے اس خوف سے کہ والدہ ماہر پیٹ کریں گی، چھت پر سے زمین پر چھلانگ لگا دی اور چھت سے زمین پر گرتے ہی وہ بھی واصل جنت ہو گیا۔

ایک ساتھ دو دو بیٹوں کی موت کے حادثہ نے حضرت جابر کی بیوی کا کلیجہ شق کر دیا لیکن اس صابرہ عورت نے صرف اس خیال سے کہ حضور اقدس، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت پر شاق نہ گزرے قطعاً رونا اور چیخا نہ کیا بلکہ صبر سے کام لیتے ہوئے دونوں جنازوں کی لاشوں پر کپڑا ڈال دیا اور کسی کو بھی اس حادثے کی اطلاع نہ دی یہاں تک کہ حضرت جابر کو بھی مطلع نہیں کیا۔ وہ عزت و شرف کا تقاضا کرتے رہے کہ حضور

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اقدس کی مہمان نوازی میں مصروف ہو گئیں۔ جب دسترخوان پر کھانا آیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو حکم دیا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی شریک طعام کریں۔ حضرت جابر گھر میں گئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے بات نالنے کے لیے بہانہ بنا دیا کہ ادھر ادھر کہیں ہوں گے۔ لیکن حضرت جابر نے جب اپنی بیوی کو بتایا کہ حضور اقدس کا حکم ہے کہ ان کو بھی ساتھ میں کھانا کھلانے کے لیے لے آؤ، تب ان کی بیوی نے روتے ہوئے پورا ماجرہ بیان کیا۔ اور قریب والے کمرہ میں لے جا کر بچوں کی لاشوں سے کپڑا ہٹا دیا۔

دونوں میاں بیوی روتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر گر پڑے اور روتے ہوئے سارا واقعہ عرض خدمت کیا۔ حضرت جابر کے گھر میں کبرام مچ گیا۔ عین اُس وقت حضرت جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ”یا رسول اللہ! آپ ان بچوں کے پاس کھڑے ہو کر دُعا فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضور اقدس مکان کے اندر تشریف لے گئے اور بچوں کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر دُعا فرمائی۔ فوراً وہ دونوں بچے زندہ ہو گئے۔“ (حوالہ: ”شواہد النبوة، مصنف: علامہ نور الدین عبدالرحمن جامی بن احمد بن محمد ایرانی، المتون ۸۹، اردو ترجمہ، ص: ۱۵۶)

◎ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے :-

حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف اور دوسرا ٹکڑا اُس طرف تھا۔ اس روایت کو صحابہ کرام کی جماعت کثیرہ نے نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کفار قریش نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کرتے

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہوئے کہنے لگے کہ اگر آپ سچے ہو تو چاند کے دو ٹکڑے کر دو۔ حضور اقدس نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ لوگوں نے چاند کو اس حالت میں دیکھا کہ کو حرا (حزائم کا پہاڑ) چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان آ گیا ہے۔ یعنی چاند کا ایک ٹکڑا کو حرا کی دائیں طرف اور دوسرا ٹکڑا بائیں طرف نظر آتا تھا۔“

(حوالہ: "مدارج النبوة"، از: شیخ تفتیش شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۳۳۸)

◎ حضور اقدس کو پتھر، درخت، چٹان وغیرہ سلام کرتے تھے:-

کتب احادیث میں بڑھ راویوں سے ایسی بہت سی صحیح روایات منقول ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حمدات و ثنانات بھی پہنچاتے تھے اور آپ کی خدمت عالی میں بدینہ سلام پیش کرتے تھے۔ یہاں ان تمام روایات کا ذکر ممکن نہیں۔ تاہم کرام کی خیریت طبع کی خاطر ذیل میں چند واقعات پر اکتفاء کیا ہے۔

(۱) طبرانی، ابو نعیم اور بیہقی نے حضرت سیدنا مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت کی، انہوں نے فرمایا:-

”بم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ میں تھے۔ ایک روز آپ نے مکہ معظمہ کے نواحی (اردگرد) غلاتے میں تشریف لے گئے۔ راویوں جو بھی چٹان، پتھر اور درخت ہم کو قریب راہ ملتا تو آپ سے ”السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ کہتا۔“ (خصائص کبریٰ، از: علامہ جلال الدین عبدالرحمن بن عمال بن ابی بکر شیخ علی، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۲۳۱)

(۲) طبرانی، ترمذی اور بیہقی نے حضرت جابر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ:-

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے۔ جس رات میں مبعوث ہوا۔ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو پتھر مجھ کو سلام کرتا تھا اور بے شک

(حوالہ خصائص کبریٰ جلد: ۱، ص: ۲۳۰)

(۳) بزاز اور ابو نعیم نے أم المؤمنین، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ:-

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی تو میں جس پتھر یا درخت کے قریب سے گزرتا اس سے آواز آتی کہ
”السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ (حوالہ: ایضاً ص: ۲۳۱)

(۴) بیہقی نے ابن اسحاق کی سند سے روایت کی کہ:-

”جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرامت و نبوت سے سرفراز فرمایا، تو آپ جس شجر و حجر کے پاس سے گزرتے وہ سلام کرتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اعلیٰ کلمات سلامتی سماعت فرما کر ہر طرف دیکھتے مگر وہاں کوئی بھی نہ ہوتا۔ وہ پتھر اور درخت منصب نبوت کو خطاب کے ساتھ اس طرح تجت پیش کرتے کہ ”السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ (حوالہ:- ایضاً ص: ۲۴۰)

جانوروں نے رسالت کی گواہی دی اور سجدہ تعظیم کیا:-

(۱) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصار کے سبھی خاندان اونٹوں کو پالتے تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہمارا ایک اونٹ ہے جس پر ہم پانی لا کر لاتے ہیں لیکن اب وہ اونٹ سرکشی اور سختی کرنے لگا ہے اور اپنی پیٹھ پر بوجھ لادنے نہیں دیتا۔ لہذا اس وجہ سے ہمارے نخلستان اور باغات سب پیاسے ہیں۔ انصار کی اس گزارش پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اٹھے اور اونٹ کی جانب تشریف لے چلے۔ جب باغ میں پہنچے تو اونٹ باغ کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ انصار عرض کرنے لگے یا رسول اللہ! یہ وہی اونٹ ہے جو کتوں کی

طرح کاٹتا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ اگر حضور اس کے نزدیک گئے تو کہیں وہ حضور کو ایذا نہ پہنچائے۔ حضور اقدس نے فرمایا میرا کوئی خوف نہ کرو۔ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے سامنے آئے تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور آپ کو دیکھتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا۔ پھر حضور نے اونٹ کی پیشانی کے بال پکڑ کر اُسے کام میں لگا دیا۔

(حوالہ:- (۱) مدارج النبوة، اردو ترجمہ: جلد: ۱، ص: ۳۳۲)

(۲) شواہد النبوة، اردو ترجمہ، ص: ۲۲۰

(۲) امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی نے احادیث کثیرہ میں اور قاضی ابوالفضل، عیاض بن عمرو اندلسی (المتوفی ۵۴۳ھ) نے اپنی کتاب ”الشفا بتعريف حقوق المصطفى“ میں امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ:-

”ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ محفل اقدس میں تشریف فرماتے کہ اچانک قوم بنی سلیم کا ایک بدوی شخص سوسار (گوہ) کا شکار کر کے محفل اقدس میں آیا۔ اس بدوی نے گوہ کو اپنی آستین میں چھپا رکھا تھا اور گھر جا کر اسے بھون کر کھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب اس نے ایک جماعت کو بیٹھے دیکھا تو کہنے لگا کہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے یہ شخص کون ہیں؟ صحابہ کرام نے بدوی کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اس بدوی نے گوہ کو اپنی آستین سے نکالا اور کہنے لگا کہ قسم ہے لات اور عزلی کی! میں اُس وقت تک ہرگز ایمان نہ لاؤں گا۔ جب تک یہ گوہ آپ کی نیت کی شہادت نہ دے۔ یہ کہہ کر اس نے گوہ کو حضور کے سامنے ڈال دیا۔ حضور اقدس، رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گوہ کو آواز دی کہ اے گوہ! گوہ نے سنجیدہ زبان میں جواب دیا کہ تَبَيَّنَكَ وَسَفَدَيْكَ“ یعنی حاضر ہوں اور فرمانبردار ہوں۔“ گوہ کا یہ کلام تمام حاضرین

جماعت نے سنا۔
marfat.com

پھر حضور اقدس نے فرمایا اے گوہ! قیامت میں کون آئے گا؟ گوہ نے جواب دیا کہ ساری مخلوق آئے گی۔ پھر فرمایا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ جواب دیا کہ اس خدائے پاک کی جس کا عرش آسمان میں ہے اور جس کی سلطنت زمین میں ہے۔ اور جس کا دریاؤں پر غلبہ ہے۔ اور جنت میں اس کی رحمت اور جہنم میں اس کا عذاب ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ گوہ نے جواب دیا آپ رسول اللہ، رسول رب العالمین اور خاتم النبیین ہیں۔ ”قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ وَخَابَ مَنْ كَذَّبَكَ“ یعنی یقیناً وہ کامیاب ہے جس نے آپ کی تصدیق کی اور ناکام ہے وہ جس نے آپ کی تکذیب کی۔“ گوہ کی زبان سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت و صداقت کی گواہی سن کر قوم بنی سلیم کا وہ بدوی شخص فوراً اسلام لے آیا۔“

(حوالہ:- مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۳۳۶)

(۳) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے

ہیں کہ:-

”ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ اس باغ میں ایک بکری تھی۔ اس بکری نے حضور کو سجدہ کیا۔“

(حوالہ:- (۱) شواہد النبوة، اردو ترجمہ، ص: ۲۲۲)

(۲) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۳۳۳)

◎ مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے:-

احادیث کریمہ کی معتبر و مستند کتب میں ایسے کئی واقعات درج ہیں کہ لشکر اسلام میں پانی ختم ہو گیا یا کوئی قافلہ سفر میں ہے اور اثنائے راہ پانی ختم ہو گیا اور کہیں بھی پانی نہیں یا پانی کے دستیاب ہونے کے آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ پانی کے فقدان کی وجہ سے لوگ حیران و پریشان

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہیں۔ ایسے وقت میں حضور اقدس، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس کی مقدس انگشتان مبارک سے دریا کی طرف پانی کے چشمے رواں ہو کر بہہ نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان چشموں سے پانی پیا، وضو اور غسل کیا اور اپنے مشکیزوں و برتنوں میں ذخیرہ کر لیا۔ یہاں اتنی گنجائش نہیں کہ بالاستیعاب تمام واقعات رقم کیے جائیں۔ صرف دو واقعات قارئین کرام کے گوش گزار کیے جاتے ہیں:-

(۱) حضرت ابو نعیم نے قاسم بن عبد اللہ ابورافع سے اور انہوں نے اپنے والد ماجد سے اور انہوں نے ابورافع کے جد امجد سے اس طرح روایت فرمایا ہے کہ:-

”وہ جناب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر اسلام میں تھے۔ رات کے وقت لشکر نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس وقت لشکر میں پانی کی سخت قلت تھی بلکہ پانی ختم ہو چکا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس کسی کے پاس بھی پانی ہو، وہ پانی لے کر حاضر ہو۔ لشکر میں تلاش کرنے سے معلوم ہوا کہ صرف ایک شخص کے پاس مشکیزے میں تھوڑا پانی ہے بقیہ تمام لوگوں کے مشکیزے خالی ہیں جس شخص کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا وہ خدمت اقدس میں لایا گیا حضور اکرم نے مشکیزے کا پانی ایک کھلے منہ والے برتن میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔ پھر حضور اقدس نے پانی سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا مبارک ہاتھ ڈبویا تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ کی مقدس انگلیوں کے درمیان سے پانی جوش مارتا ہوا نکلنے لگا اور انگشتان اقدس سے پانی اہل اہل کریمہ برتن میں جمع ہونے لگا۔ تو لشکر نے اس برتن سے میرا پانی پیا۔ پھر آپ نے برتن سے ہاتھ مبارک نکال لیا۔ تو برتن میں اتنا ہی پانی باقی تھا جتنا کہ مشکیزے سے اس میں ڈالا گیا تھا۔“

(حوالہ:- خصائص کبریٰ اردو ترجمہ، جلد ۲، ص: ۱۰۸)

(۲) حضرت حارث بن اسلم نے اپنے منہ میں لایا اور پھر اسے اپنے منہ میں ڈالا۔

زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ:-

”ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ صبح فجر کی نماز کے وقت حضور اقدس نے مجھ سے فرمایا کہ اے سدا کے بھائی! کیا تمباے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے پاس بہت ہی تھوڑی مقدار میں پانی ہے جو آپ کے لیے کافی نہیں۔ حضور اقدس نے فرمایا کہ اس پانی کو ایک برتن میں ڈال کر میرے پاس لے آؤ، میں اس پانی کو ایک برتن میں ڈال کر خدمت اقدس میں حاضر آیا۔ حضور اقدس نے اس برتن میں اپنا دست اقدس ڈال دیا۔ دفعتاً میں نے دیکھا کہ آپ کی مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے اُبل رہے ہیں۔ پھر حضور اقدس نے مجھے حکم دیا کہ میرے صحابہ کو بلاؤ اور انہیں خبر دو کہ جس کو بھی پانی کی ضرورت ہو وہ یہاں آ کر لے جائے۔ چنانچہ پورے قافلہ کے لوگ وہاں اُمنڈ پڑے اور جس جس کو پانی کی ضرورت تھی ان سب نے حسب ضرورت پانی لے لیا۔“

(حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۱۰۶)

بقول امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی علیہ الرحمہ:-

انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر

ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ!

● درخت اپنی جڑیں اُکھاڑ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا:-

حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ:-

”ایک بدوی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا۔ حضور

اقدس نے اس بدوی سے فرمایا کہ سامنے جو درخت ہے اُسے جا کر کہو کہ تجھے

رسول اللہ بلا تے ہیں۔ بدوی نے جا کر درخت سے حسب ارشاد پیغام سنایا۔

marfat.com

دفعاً اس درخت نے ادھر ادھر اور آگے پیچھے جنبش کی اور زمین میں سے اپنی پھلی ہوئی جڑوں کو نکالا۔ پھر زمین کو چیرتا ہوا اور اپنی جڑوں کو اپنے ساتھ ہی گھسیتا ہوا آیا اور حضور اقدس کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا "السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ" تھوڑی دیر کے بعد حضور اقدس نے اس درخت کو اپنی جگہ واپس جانے کا حکم دیا تو وہ درخت جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس لوٹ کر اپنی جگہ چلا گیا اور اس کے رگ و ریش بھی زمین میں پیوست ہو گئے اور زمین بھی مثل سابق ہموار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس بدوی نے عرض کیا کہ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ مجھے وسب اقدس اور مبارک قدم شریف کو بوسہ دینے کی اجازت عطا فرمائیں۔ حضور اقدس نے اس کی اجازت عنایت فرمائی۔

(حوالہ:- مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۳۳۹)

”دلچسپ فکر یہ!!!“

مذکورہ بالا معجزات کے علاوہ ایسے بے شمار معجزات ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ وہ تمام معجزات ایسے عظیم المرتبت تھے کہ جن کو دیکھ کر لوگ یقین کے درجہ میں کہنے لگے کہ ایسے معجزات دکھانا کسی عام انسان سے ممکن ہی نہیں۔ یہ سب خدائی قدرت کے ہی کرشمے ہیں لہذا کچھ لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گزارش کرنے لگے کہ ہمیں اجازت عطا فرمائیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں لوگوں کے جذبات و اعتقاد کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتے۔ اور غلو کی حد میں داخل ہو کر آپ کو سجدہ کرنے کے متمنی اور آرزو مند ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو سجدہ کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ کے دُنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے جذبات اور عقیدت غلو کی اعلیٰ منزل اختیار کرنے کا اندیشہ تھا۔ اور محبت میں بہک کر شرک کے ارتکاب کا خطرہ تھا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ اور حضرت سیدنا عزیز علیہما الصلوٰۃ والسلام کے چند معجزات دیکھ کر ان کی قوم کے لوگوں نے اندھی محبت کے جوش اور ولولہ میں ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا اور اُلُوہیتِ الہی و توحیدِ خالص کی خلاف ورزی کر کے گمراہ ہوئے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو لوگوں نے ایک دو نہیں بلکہ کثیر تعداد میں خرق عادت عظیم معجزات دیکھے تھے۔ ان معجزات میں سے کچھ معجزات تو ایسے عظیم الشان تھے کہ ماضی قریب یا ماضی بعید میں کبھی بھی، کہیں بھی، کسی طرح بھی، کسی نبی و رسول سے ایسے معجزات کا ظہور و صدور نہیں ہوا تھا۔ مثلاً ① چاند کے دو ٹکڑے ہونا ② غروب ہو چکنے والے آفتاب کا دوبارہ مغرب سے طلوع ہونا ③ جمادات اور نباتات کا کلام کرنا اور آپ کی رسالت کی گواہی دینا، وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ مغرب سے آفتاب کو طلوع کر دکھانے کو لوگ خدا ہونے کی دلیل کے طور پر مانتے تھے۔ جیسا

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نرود بن کنعان کو اپنی خدائی کے دعوے کی صداقت کے ثبوت کے طور پر سورج کو پختہ سے طلوع کر دکھانے کا چیلنج (Challenge) دیا تھا اور نرود اپنے خدائی دعویٰ میں سراسر جھوٹا ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی چیلنج کے لٹکار کے سامنے خائب و خاسر ہو کر رہ گیا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصرفات، قدرت اور اختیارات پر مشتمل معجزات کا یہ عالم تھا کہ پانچ سو سورج اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستِ اقدس کی انگشتان مبارک کے ایک اشارہ پر مطیع و فرمانبردار ہو کر نوری کھلونے کی حیثیت سے حکم کی تعمیل و بجا آوری کرتے تھے۔ انگشت مبارک کا اشارہ پاتے ہی چاند و ٹکڑے ہو گیا اور ڈوبا ہوا سورج مغرب سے پھر طلوع ہوا۔

لہذا! حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان عظیم معجزات کی بناء پر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کہیں لوگ آپ کو ”رسول خدا“ کے بجائے ”شریک خدا“ نہ بنادیں اور لوگ شرک کی قباحت و گندگی میں مبتلا نہ ہو جائیں اس لیے قیامت تک کے ہونے والے انسانوں کو اس حقیقت سے واقف کیا جا رہا ہے کہ حضرت سیدنا و نبینا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”خدا“ یا ”خدا کے بیٹے“ یا ”شریک خدا“ نہیں بلکہ ”انسان“ اور اللہ کے بندے ہیں۔ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ اس طرح لوگوں کو پیشگی تنبیہ اور مقدم تاکید کے ذریعہ خبردار اور متنبہ کیا جا رہا ہے۔ تاکہ لوگ محبت کے جذبات میں احتیاط و شعور سے کام لیتے ہوئے غلو و مبالغہ سے باز رہیں اور شرک کی بدی میں غرق ہونے سے محفوظ رہیں۔ قرآن مجید میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ”بشریت“ کا تذکرہ صرف اسی نقطہ نظر سے کیا گیا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے عظیم معجزات دیکھ کر غلط فہمی اور گمان فاسد کی وجہ سے آپ کو ”خدا“ یا ”خدا کا شریک“ نہ کہہ بیٹھے۔ الحاصل! قرآن مجید میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت کا تذکرہ فرما کر ہمیشہ کے لیے شرک کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔

”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیت قرآن کا

مطلب و معنی اور اس کی صحیح تفہیم

کچھ ناعاقبت اندیش اور سفاک لوگ اس غلط وہم و گمان میں ہیں، قرآن مجید کی سورہ کہف اور سورہ حم سجدہ میں ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیت دو مرتبہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس کو بشر کہا ہے اور ان کی شان و عظمت گھٹائی گئی ہے۔ اس خیالی خواب کے نشے میں بہک کر اس آیت کریمہ کا صحیح معنی و مطلب اور ان کا مقصد سمجھے بغیر جاہلانہ تاویل و تفسیر کرتے ہوئے یہاں تک کے نازیبا جملے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ایمان کی جان حب رسول و تعظیم رسول کی نگاہ سے اس آیت پر غور و فکر کیا جائے تو اس آیت کے ذریعہ حضور اقدس کی شان و عظمت ہرگز گھٹائی نہیں گئی بلکہ رفعت و بلندی شان زیادہ ارفع و اعلیٰ طور پر ظاہر کی گئی ہے۔ اس آیت شریف کے ہر ہر لفظ بلکہ ہر ہر حرف سے محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بلندی شان کا پرچم لہرا رہا ہے۔

محترم قارئین کرام سے مؤدبانہ التماس ہے کہ اب ہم قرآن مجید کی مندرجہ بالا آیت کریمہ کے ضمن میں بہت ہی اہم اور ضروری گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ لہذا اس مضمون کو بہ نظر عمیق اور یکسوئی سے مطالعہ فرمائیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ تمام شکوک و شبہات کا ازالہ اور تمام اعتراضات کا شافی، وافی اور کافی حل و جواب حاصل ہوگا۔ نیز اس آیت کریمہ کا من گھڑت ترجمہ اور من بھاتی تفسیر و تاویل کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گستاخانہ اور توہین آمیز کلمات بولنے والے دور حاضر کے منافقین کے جالی فریب میں پھنسنے سے بال بال بچ سکیں گے۔ بلکہ ان منافقین کے گستاخانہ کلمات کا دندان شکن جواب دینے کی استعداد

وملائیت ما مل کرئیں گے۔

آئیے! پھر ایک مرتبہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں:-

◎ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ

ترجمہ:- (۱) تو فرماؤ، ظاہری صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔ مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

(ترجمہ: از:- کنز الایمان، پارہ: ۱۶، سورۃ الکہف، آیت: ۱۱۰)

(۲) تم فرماؤ، آدمی ہونے میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ

تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

(ترجمہ: از:- کنز الایمان، پارہ: ۱۳، سورۃ تم سجده، آیت: ۶)

اس آیت کی ابتدا میں لفظ ”قُلْ“ وارد ہے۔ جس کا مطلب ہوتا ہے ”کہہ دو“ اس آیت کی ابتدا میں ”کہہ دو“ کا جو ارشاد ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ ”اے محبوب! تم کہہ دو“ کیا کہہ دو؟ یہی کہے لوگو! انسان ہونے کے ناطے یعنی ظاہری صورت بشری میں تو میں تم جیسا انسان ہوں۔ یعنی تمہارے جسمانی اعضاء اور میرے جسمانی اعضاء برابر نظر آتے ہیں۔ صرف اتنا کہنے پر ہی بات ختم نہیں ہوتی بلکہ اتنا کہہ لینے کے فوراً بعد ارشاد ہے کہ ”یُوحَىٰ إِلَيَّ“ یعنی ”میری طرف وحی آتی ہے۔“ قرآن مجید کے عالی شان انداز بیان و ملاحظہ فرمائیں۔ آیت کے پہلے حصہ میں بشری مساوات ہونے کا اقرار و اعتراف کرنے کے فوراً بعد ہی ”خیر البشر“ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عام بشر کے دمرے سے مستثنیٰ (Separate) کیا جا رہا ہے۔ یعنی دوسرے حصہ میں ”مجھے وحی آتی ہے“ کی خصوصیت کا اضافہ فرما کر مساوات مراتب کی نفی فرمائی گئی ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ:-

◎ میں ایسا بشر ہوں کہ جس کی طرف وحی آتی ہے۔

◎ تم ایسے بشر ہو کہ جن کی طرف وحی نہیں آتی۔

قارئین کرام! آیت شریفہ ”میں ایسا بشر ہوں کہ جس کی طرف وحی آتی ہے“ کی تفسیر

بندش و ترتیب و ربط کو بغور ملاحظہ فرمائیں کہ ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کے فوراً بعد علی الاطلاق ”يُوحَىٰ إِلَيَّ“ وارد ہے۔ جس کا صاف مطلب و مفہوم یہ ہے کہ تم ایسے بشر ہو جن پر وحی نہیں آتی یعنی تم اُمّتی ہو اور میں ایسا بشر ہوں جس پر وحی آتی ہے۔ یعنی میں نبی و رسول ہوں۔ نبی اور اُمّتی کے درمیان کا فرق واضح طور پر ظاہر فرما کر اس حقیقت کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ:-

⊙ ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ میں بیان شدہ مساوات و ہمسری صرف جسمانی ظاہری مساوات اور دکھاوے تک ہی محدود ہے۔

⊙ ”يُوحَىٰ إِلَيَّ“ کے ذریعہ درجات و مراتب کی ہمسری کی نفی فرمائی گئی ہے۔ یعنی میں نبی و رسول ہوں اور تم اُمّتی ہو اور نبی و اُمّتی کا درجہ و مرتبہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔

<http://t.me/Tehqiqat>

”آیت کے شروع میں وار و لفظ ”قل“ کے استعمال میں کیا حکمتِ خداوندی ہے؟“

آیت کی ابتداء میں لفظ ”قل“ کا استعمال فرما کر بارگاہ رسالت کے گستاخوں کی زبانوں میں قفل لگا دیا گیا ہے۔ عربی زبان کے علم صرف و نحو کے اعتبار سے لفظ ”قل“ صیغہ امر ہے۔ یعنی حکم کرنے کا کلمہ ہے۔ اس کا مصدر ”قَوْلٌ“ یعنی ”کہنا“ ہے۔ لہذا صیغہ امر ”قل“ کا معنی ہوا ”تم کہہ دو“ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ”اے محبوب! تم کہہ دو کہ میں ظاہر صورت بشری یا آدمی ہونے میں تم جیسا ہوں۔“ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ اے لوگو! میرا محبوب تمہارے جیسا بشر ہے بلکہ اپنے محبوب کو حکم فرماتا ہے کہ اے محبوب! لوگوں سے یہ بات تم اپنی زبان مبارک سے فرما دو۔

اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم کو عام لوگوں کی طرح بشر کہا ہوتا تو قرآن کی آیت اس طرح ہوتی کہ ”أَنْتَ بَشَرٌ مِّثْلَهُمْ“ یعنی ”تم ان لوگوں جیسے آدمی ہو۔“ یا آیت کریمہ اس طرح ہوتی کہ ”قُولُوا إِنَّمَا هُوَ بَشَرٌ مِّثْلُنَا“ یعنی ”اے لوگو! تم کہو کہ نبی ہماری طرح انسان ہیں۔“ یا آیت کریمہ اس طرح ہوتی کہ ”إِنَّمَا هُوَ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ یعنی ”بے شک! وہ نبی تمہاری طرح بشر ہیں۔“ لیکن قرآن مجید میں آیت کریمہ اس طرح ہے کہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ یعنی تم فرماؤ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ”يَا أَيُّهَا الْبَشَرُ“ یعنی ”اے بشر“ کہہ کر خطاب نہیں فرمایا البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معزز و معظم القاب سے کئی جگہ خطاب فرمایا ہے اور عزت اور عظمت بھرے القاب سے ملقب فرمایا ہے۔ مثلاً:-

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاللَّذَّةَ الْفَاسِقَةَ الَّذِينَ آمَنُوا حَتَّى تُخْرِجَهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ﴾

یعنی "اے رسول" ○ "يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ" یعنی "اے جبرمٹ مارنے والے" ○ "يَا أَيُّهَا
الْمُذَكَّرُونَ" یعنی "اے بالا پوش اوڑھنے والے" ○ "شَاهِدًا" یعنی "حاضر و ناظر (گواہ)"
○ "مُبَشِّرًا" یعنی "خوشخبری دینے والے" ○ "نَذِيرًا" یعنی "ڈرسانے والے"
○ "سِرَاجًا مُنِيرًا" یعنی "چمکاوے والا آفتاب" ○ "رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" یعنی "سارے
جہان کے لیے رحمت" ○ "خَاتَمَ النَّبِيِّينَ" یعنی "سب نبیوں کے پیچھے" ○ "بُرْهَانَ" یعنی
"دلیل" ○ "نُورٍ مِّنَ اللّٰهِ" یعنی "اللہ کی طرف سے نور"۔

الحاصل! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان
عظمت کا اظہار فرماتے ہوئے معزز و معظم القاب سے ہی خطاب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے مقدس کلام مجید میں کہیں بھی اپنے محبوب کو "يَا أَيُّهَا الْبَشَرُ" سے خطاب نہیں فرمایا۔
ہماری یہاں تک کی گفتگو سے کوئی صاحب یہ غلط استدلال نہ کریں کہ معاذ اللہ! ہم کو
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت سے انکار ہے اور ہم حضور اقدس کو "غیر بشر"
مانتے ہیں۔ بے شک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر یعنی انسان تھے۔ جنات یا فرشتوں
میں سے نہ تھے۔ لیکن آپ کے بشر ہونے میں اور ہمارے تمہارے بشر ہونے میں عظیم فرق
ہے۔ آپ کی بشریت نورانی ہے۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر ہونے کے
باوجود "صرف بشر" یا "ہمارے تمہارے جیسے بشر" کہنا گستاخی ہے۔ ہم اس حقیقت کو سمجھانا
چاہتے ہیں کہ "نبی کا بشر ہونا اور نبی کو بشر کہنا" اس نکتہ کو اچھی طرح ذہن میں مستحضر رکھتے
ہوئے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس حقیقت کی تفصیلی
وضاحت آئندہ اوراق میں قرآن و حدیث کی روشنی میں قارئین کی خدمت میں پیش کریں
گئے کہ:-

○ جو مؤمن ہوتا ہے وہ حضور اقدس سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو "نوری بشر"
مانتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ آپ جیسا کوئی بشر نہ پیدا ہوا ہے اور نہ کبھی پیدا ہوگا۔
بقول حضرت رضا:-

"ان سائیس انسان، وہ انسان ہیں یہ"

○ جو منافق ہوتا ہے وہ حضور اقدس خیر البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا عام،

قرآن میں "بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کہنے کی کیا وجہ ہے؟

اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حقیقت ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے جیسے بشر نہیں ہیں تو پھر قرآن مجید میں "بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کا جملہ کیوں ارشاد فرمایا گیا ہے؟ اس جملہ کا صحیح مطلب و مفہوم کیا ہے؟ جو اب عرض ہے کہ اس آیت میں "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" یعنی "تم فرماؤ، آدمی ہونے میں تو میں تم جیسا ہوں۔" کا جو جملہ ہے وہ علم ادب کی اصطلاح میں مبتدا ہے اور "يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا لِلْهُكْمِ إِلَهُ وَوَاحِدٌ" یعنی "مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے" یہ جملہ اس کی خبر ہے۔ یعنی دوسرے جملہ کی حقیقت روشناس اور پادور کرانے کے لیے پہلا جملہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس آیت کو سب ذیل چار حصوں میں تقسیم کریں:-

- (۱) "قُلْ" = تم فرماؤ
- (۲) "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" = آدمی ہونے میں تو میں تم جیسا ہوں
- (۳) "يُوحَىٰ إِلَيَّ" = مجھے وحی آتی ہے کہ
- (۴) "أَنَّمَا لِلْهُكْمِ إِلَهُ وَوَاحِدٌ" = تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

مندرجہ بالا چار حصوں میں آپس میں تطبیق و موافقت ہے۔ چاروں جملوں میں ایسا ربط اور میل ہے کہ ہر حصہ اپنے بعد والے حصے سے خود بخود مل جاتا ہے۔ یعنی پہلے حصے کا خلاصہ دوسرے حصے میں، دوسرے کا تیسرے میں اور تیسرے کا چوتھے میں ہے۔ اور جو چوتھا حصہ ہے وہی اپنے اگلے تینوں حصوں کا خلاصہ، نیچوڑ اور لپٹ لپاب ہے۔ یعنی اسے لوگو! میں تم کو انسان ہونے کے ناطے کہتا ہوں اور رسول ہونے کے ناطے مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یعنی:-

☆ ”خدا نہ ہونے کے معاملہ میں میں تم جیسا ہوں“

کیونکہ! اُس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزات دیکھ کر لوگ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ ایسے خرق عادت اور غیر ممکن کمالات جو انسان کے لیے محال ہیں، آپ انسان نہیں بلکہ خدا، یا خدا کے بیٹے یا خدا کے شریک ہیں۔ لوگوں کو اس وہم و گمان کے نتیجہ میں شرک کی مہلک بدی میں گرفتار ہونے سے بچانے کے لیے اس آیت کریمہ کے ذریعہ اس حقیقت کو باور کرایا جا رہا ہے کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عظیم معجزات ظہور پذیر ہونے کے باوجود بھی آپ انسان ہیں، بندے ہیں، مخلوق ہیں۔ آپ الٰہ نہیں، معبود نہیں اور خالق نہیں۔

اس آیت کریمہ کے مندرجہ بالا چار حصوں کی طرف پھر ایک مرتبہ التفات فرمائیں۔ آیت کریمہ کے دوسرے حصے کی ابتدا میں لفظ ”اِنَّمَا“ اور چوتھے حصے کے شروع میں ”اِنَّمَا“ لفظ وارد ہے۔ ”اِنَّمَا“ اور ”اِنَّمَا“ دونوں لفظ ایک ہی معنی کے حامل ہیں۔ دونوں لفظوں کی ترکیب (Composition) حسب ذیل ہے:-

☆ اِنْ + مَا = اِنَّمَا

☆ اَنَّ + مَا = اِنَّمَا

لفظ ”اِنْ“ اور ”اَنَّ“ دونوں کلمہ تاکید ہیں اور دونوں میں حرف ”ما“ کی اضافت کی گئی ہے لہذا ”اِنْ“ سے ”اِنَّمَا“ بنا اور ”اَنَّ“ سے ”اِنَّمَا“ بنا۔ علم نحو کی اصطلاح میں حرف ”ما“ کو ”حرف زیادت“ کہتے ہیں۔ یعنی کہ زیادتی یا اضافے کا حرف۔

علم نحو کی اصطلاح میں کل آٹھ حروف حرف زیادت ہیں (۱) اِنْ (۲) اَنَّ (۳) مَا (۴) لَّا (۵) مِنْ (۶) ك (۷) ب اور (۸) ل۔ (حوالہ:- علم النحو، ص: ۶۳)

علم نحو کی اصطلاح کے مطابق جب کسی جملے کی ابتدا میں ”اِنْ“ یا ”اَنَّ“ آتا ہے تو وہ جملہ ”مؤكد“ یعنی تاکید کیا ہوا ہو جاتا ہے۔ اور اس جملے میں کہی ہوئی بات کی اہمیت ظاہر کی جاتی ہے۔ اور ”اِنْ“ و ”اَنَّ“ میں ”ما“ کی اضافت علم عروض کی اصطلاح میں کلام کی فصاحت و بلاغت یا جملہ کی بندش میں الفاظ کے اوزان کے اعتبار کے لیے کیا جاتا ہے۔ الحاصل!

آیت کریمہ کے چار حصوں میں سے حصہ نمبر ۲، اور حصہ نمبر ۳، کے شروع میں "اِنَّہٗ" اور "اِنَّہٗ" کا وارد ہونا اس حقیقت کی نشاندہی ہے کہ یہ دونوں حصوں میں کہی ہوئی بات اہم اور ضروری ہے۔ اب ہم اس آیت کریمہ کے چار حصوں کو ترتیب وار رکھنے کے بجائے نمبر: ۱ کے ساتھ نمبر: ۳، اور نمبر: ۲، کے ساتھ نمبر: ۳، رکھتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ:-

(۱) تم فرماؤ (۳) میری طرف وحی آتی ہے۔ کیا وحی آتی ہے؟

(۲) ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں (۳) تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

مذکورہ چار حصوں میں سے حصہ نمبر ۲، اور ۳ کو اہمیت دیتے ہوئے دونوں کے شروع میں

"اِنَّ" اور "اِنَّ" کو "ما" کی اضافت کے ساتھ ارشاد فرمانے کا ما حاصل یہ ہے کہ:-

☆ "میں تمہارا معبود نہیں اس معنی میں میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔"

<http://t.me/Tehqiqat>

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“

آیت کا خلاصہ اور اس کی ضروری وضاحت

قرآن مجید میں جو آیات ہیں وہ تمام آیات ایک ہی قسم کی نہیں ہیں بلکہ قرآن مجید کی آیات کی بہت سی اقسام ہیں مثلاً ○ آیاتِ محکمات ○ آیاتِ تشابہات ○ آیاتِ مقطعات ○ آیاتِ مہمات ○ آیاتِ ناسخہ ○ آیاتِ منسوخہ ○ آیاتِ مقدمات ○ آیاتِ موخرات۔

قرآن مجید کی آیات کی تمام اقسام کی تفصیلی بحث یہاں ممکن نہیں۔ لہذا ہمارے عنوان کا جن سے تعلق ہے، وہ دو اقسام یعنی آیاتِ محکمات اور آیاتِ تشابہات کے متعلق ہم قرآن، حدیث اور تفسیر کی روشنی میں اختصاراً گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں ارشادِ رب تعالیٰ ہے کہ:

”هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ“

(پارہ: ۳، سورہ آل عمران، آیت: ۷)

ترجمہ: ”وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے معنی و مطلب واضح طور پر صاف ظاہر ہوں۔ اس قسم کی آیتوں کو ”آیاتِ محکمات“ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے معنی و مطلب اور مراد واضح طور پر صاف ظاہر نہ

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ہوں بلکہ اس کے معنی و مراد میں "اشتباہ" ہو۔

⊙ اشتباہ = مشابہ ہونا، دو چیزوں کا اس طرح ہم شکل ہونا کہ دھوکہ ہو جائے، گمان،

شبہ، شک، Ambiguity, doubt

(حوالہ: (۱) فیروز اللغات، ص: ۹۶)

(۲) دی نیورائل پریشین انگلش ڈکشنری از:۔ ایس، سی، پال، ص: ۲۳)

اب ہم آیاتِ محکمات اور آیاتِ متشابہات کو مندرجہ ذیل تقسیم سے سمجھیں:-

⊙ آیاتِ محکمات:-

(۱) جن کا معنی اور مراد واضح ہو۔ اور جن میں ایک ہی معنی کا احتمال ہو۔

(۲) جن کی معرفت و وضاحت بیان کرنے میں اہل علم کو کسی قسم کا توقف یا تاویل کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔

(۳) جن میں کسی قسم کا کوئی احتمال اور شک نہ ہو۔ یعنی اس کے معنی اور مراد میں کوئی تردد نہ ہو۔

(۴) احکام شریعت، عقائد، ایمان، وغیرہ میں ان کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ قرآن کی اصل ہیں۔

(۵) حلال و حرام کے معاملہ میں ان آیات پر عمل کیا جائے گا۔

متعدد کتب تفاسیر میں آیاتِ محکمات کے جو اصول و ضوابط متعین کیے گئے ہیں ان کا ماہصل ہم نے مندرجہ بالا پانچ اصولوں میں منحصر کر دیا ہے۔ ان اصولوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ذیل میں پیش کردہ چند مثالیں ذہن نشین کر لیں۔

⊙ مثال نمبر ۱:- "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ"

(پارہ: ۲، سورۃ البقرہ، آیت: ۲۳۸)

ترجمہ:- "نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نمازوں کی۔" (کنز الایمان)

⊙ مثال نمبر ۲:- "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ"

(پارہ: ۱، سورۃ البقرہ، آیت: ۲۳)

ترجمہ: - ”اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔“ (کنز الایمان)

ان دونوں آیتوں کے معنی اور مراد صاف ظاہر اور ان دونوں آیتوں سے نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت معلوم ہوتی ہے۔ آیت میں کوئی ایسا لفظ وارد نہیں کہ جس کی تاویل کرنا ضروری ہو۔
○ مثال نمبر ۳: - ”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ“

ترجمہ: - ”رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اُتر ا۔“ (کنز الایمان)

پھر ارشاد ہوتا ہے کہ:-

”فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ“

(پارہ: ۲، سورۃ البقرہ، آیت: ۱۸۵)

ترجمہ: - ”تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت میں رمضان المبارک کے مہینہ میں قرآن شریف نازل ہونے کا تذکرہ فرمانے کے بعد یہ حکم نافذ فرمایا جا رہا ہے کہ جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے وہ رمضان المبارک کے مہینہ بھر کے روزے رکھے۔ یعنی اس آیت کے ذریعہ رمضان کے مہینے کے روزوں کی فرضیت نافذ ہوئی۔

○ مثال نمبر ۴: - ”وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا“

(پارہ: ۳، سورۃ آل عمران، آیت: ۹۷)

ترجمہ: - ”اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت میں صاحب استطاعت پر حج فرض ہونے کا حکم صادر فرمایا گیا ہے۔

یہاں تک ہم نے کل چار مثالیں پیش کی ہیں۔ ان مثالوں میں پیش کردہ آیات قرآنیہ کے معنی اور مراد ایسے واضح طور پر صاف ہیں کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی فرضیت کے احکام ان آیات سے باسانی اخذ کیے جاسکتے ہیں اور ان آیات کو بطور دلیل پیش کر کے نماز کی، زکوٰۃ کی اور صاحب استطاعت کے لیے حج کی فرضیت ثابت کرنے والے کو آیت کے کسی بھی لفظ کی تاویل یا کسی قسم کے توقف کرنے کی مطلق ضرورت نہیں۔ کیونکہ آیات میں وارد تمام الفاظ کے

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

معنی اور مراد صاف و واضح ہیں۔ لہذا یہ تمام آیات محکمات میں سے ہونے کی وجہ سے احکام میں ان کی طرف بلا کسی تاویل یا توقف کے رجوع کیا جاسکتا ہے۔

○ مثال نمبر ۵:- "وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً"

(پارہ: ۱۵، سورہ: بنی اسرائیل، آیت: ۳۴)

ترجمہ:- "اور بدکاری (زنا) کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے۔" (کنز الایمان)

○ مثال نمبر ۶:- "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِيرِ" (الخ)

(پارہ: ۶، سورہ المائدہ، آیت: ۲)

ترجمہ:- "تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت" (کنز الایمان)

○ مثال نمبر ۷:- "يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ

وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ"

(پارہ: ۷، سورہ المائدہ، آیت: ۹۰)

ترجمہ:- "اے ایمان والو! شراب اور جو اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں شیطانی

کام۔ تو ان سے بچتے رہنا۔" (کنز الایمان)

○ مثال نمبر ۸:- "وَاحِلَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَدَمَ الرِّبَا"

(پارہ: ۳، سورہ البقرہ، آیت: ۲۷۵)

ترجمہ:- "اور حلال کیا اللہ نے بیع کو اور حرام کیا سود کو۔"

مثال نمبر ۸ تا ۱۱ میں پیش کردہ قرآن مجید کی آیات کے معنی اور مراد ایسے صاف اور واضح

ہیں کہ ○ زنا ○ مردار ○ خون ○ سور کا گوشت ○ شراب ○ جو ○ بت ○ پانسے اور ○

سود کے حرام ہونے کا حکم اور بیع یعنی تجارت کے حلال ہونے کا حکم ان آیات سے باسانی اخذ کیا

جاسکتا ہے۔ ان آیات کو بطور دلیل پیش کرنے کے لئے زنا، جو، شراب وغیرہ کے حرام ہونے اور تجارت

کے حلال ہونے کا ثبوت پیش کرنے والے کو آیت کی تاویل یا توقف کرنے کی قطعاً ضرورت

نہیں۔ کیونکہ ان آیات میں وارد تمام الفاظ کے معنی صاف اور مراد واضح ہیں۔ لہذا یہ تمام کی

تمام آیات محکمات ہونے کی وجہ حلال و حرام کے معاملات میں ان آیات پر عمل کیا جائے گا۔

◎ آیات متشابہات :-

- (۱) جن کے معنی صاف اور مراد واضح نہ ہو۔ اور جن میں چند معنوں کے احتمالات ہوں۔
- (۲) جن کی معرفت و وضاحت بیان کرنے میں اہل علم کو بھی توقف یا تاویل کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔
- (۳) جن کے معنی اور مراد میں اشتباہ ہو۔ جو تاویل کے بغیر دور نہ ہو۔
- (۴) جن کے معنی ظاہر نہ ہوں اور جو ظاہر ہوں وہ مراد نہ ہوں بلکہ معنی و مراد دونوں مشتبہ ہوں۔
- (۵) ایمان، عقائد اور احکام وغیرہ امور ضروریات دین میں ان آیات کے ظاہر معنی کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا بلکہ علماء راہنہ کی تاویل کردہ وضاحت کو مشعل راہ بنانا لازمی ہے۔
- (۶) حلال اور حرام کے معاملہ میں ان آیات کے ظاہری معنی پر عمل نہیں کیا جائے گا۔
- (۷) یہ آیات لوگوں کے ایمان و عمل کی آزمائش کے لیے ہیں۔
- (۸) ان آیات میں چند وجوہ کا احتمال ہوتا ہے۔ یعنی ان آیات کی صحیح مراد باسانی سمجھ میں نہیں آتی کہ ان آیات میں وارد الفاظ کا کس معنی و مراد میں استعمال ہوا ہے۔ ان کی صحیح مراد اللہ ہی جانتا ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ اس کا علم عطا فرمائے۔ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۹۰)

◎ آیات متشابہات کے متعلق مزید وضاحت :-

قرآن مجید کی کون کون سی آیات متشابہات میں سے ہیں یہ طے کرنا بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین، مفسرین کرام اور علمائے راہنہ نے اس معاملہ میں

عربی کی کئی حد تک کامیاب کوششیں فرمائی ہیں اور ان کی دور رس اور خوردبین نگاہ
میتق کے غور و غوض کے ثمرات نامہ کی حیثیت سے کچھ مفید و نفع بخش ضوابط و اصول متعین
ہئے ہیں۔ مثلاً:-

(الف) جن آیات کا کچھ بھی معنی معلوم نہیں یعنی چند سورتوں کی ابتدا میں کچھ حروف پوری
آیت کی صورت میں وارد ہیں۔ مثلاً المّ یا اللّٰہ وغیرہ۔ جنہیں حروف مقطعات کہا
جاتا ہے۔ جن کے معنی و مراد اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ وہ تمام آیات کہ جو حروف مقطعات پر مشتمل ہیں۔
ان تمام آیات کا شمار آیات تشابہات میں ہوگا۔ پورے قرآن مجید میں حروف
مقطعات پر مشتمل آیات تشابہات کی تعداد اسیس (۲۹) ہے اور اس کی تفصیل
سب ذیل ہے:-

- ⊙ المّ = سورۃ البقرہ، ال عمران، عنکبوت، روم، لقمان اور سجدہ میں کل:- ۶ مرتبہ
- ⊙ حمّ = سورۃ المؤمن، خم سجدہ، زخرف، دخان، جاثیہ، اور احقاف میں کل:- ۶ مرتبہ
- ⊙ الوا = سورۃ یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، اور حجر میں کل:- ۵ مرتبہ
- ⊙ طسمّ = سورۃ شعرا اور قصص میں کل:- ۲ مرتبہ
- ⊙ التّصّ = سورۃ اعراف میں ⊙ کفّیّص = سورۃ مریم میں کل:- ۲ مرتبہ
- ⊙ اللّو = سورۃ رعد میں ⊙ طس = سورۃ نمل میں کل:- ۲ مرتبہ
- ⊙ وّ = سورۃ قلم میں ⊙ خمّ عسّ = سورۃ الشوریٰ میں کل:- ۲ مرتبہ
- ⊙ صرّ ⊙ وّ ⊙ طہ ⊙ یسّ اپنے اپنے نام کی سورتوں میں کل:- ۳ مرتبہ

میزان ← کل:- ۲۹ مرتبہ

ان حروف مقطعات کے سنی اور مراد کا معنی اللہ و رسول کوئی ہے۔ سورۃ مریم کی تفسیر میں
مقام سے کہ جب آیت کریمہ **تصّ** نازل ہوئی اور ملائکہ سرور نشین، حضرت جبرئیل امین
علیہ الصلوٰۃ والسلام جی لے کر حاضر بارگاہ قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو کر عرض کی کہ تو
جنور احمدی نے قرطیلا میں کچھ کہا۔ پھر عرش کی آواز آئی کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرطیلا میں

جان لیا۔ پھر حضرت جبرئیل نے عرض کی ”کی“ واقف رموز و اسرار الہیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہو گیا۔ حضرت جبرئیل نے عرض کی ”ع“ اس پر عالم ماکان وما یکون نے فرمایا میں نے جان لیا۔ پھر حضرت جبرئیل نے عرض کی ”ص“ اس پر حضور اکرم نے فرمایا سمجھ گیا۔ الغرض آیت کریمہ کھینچنے کے ہر حرف پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معلوم کر لیا یا میں نے جان لیا۔ اس ارشاد پر حضرت جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ! لیکن میں تو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ تو جب وحی لانے کی عظیم خدمت انجام دینے والے حضرت جبرئیل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی حرف مقطعات کے معنی و مراد سے آگاہ نہیں ہو سکے تو لامحالہ یہی کہنا پڑے گا کہ ان کا مطلب و مراد ”اللہ و رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ“ ان کی نسبت قول راجح یہی ہے کہ ”وہ اسرار الہی اور مشابہات سے ہیں۔ ہم اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۱۰۹۲)

(ب) جن آیات کا لفظی ظاہر معنی تو معلوم ہو مگر اس معنی کا اطلاق کرنا اسلامی عقائد اور نظریات کی بنا پر غیر مناسب اور خلاف شان ابوہیت ہو، ان آیات کا شمار بھی مشابہات میں ہوگا۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے، اعضاء جسم سے، جہت و سمت سے، مکان و مقام سے، اور محدود و منتهی ہونے سے پاک و متزہ ہے۔ لیکن قرآن مجید کی کئی آیتوں میں وارد ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی نظر، اللہ کا رخ، اللہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وغیرہ ذیل میں بطور مثال چند آیات پیش خدمت ہیں:-

◎ مثال نمبر ۱:- ”يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ“

(پارہ: ۲۶، سورۃ الفتح، آیت: ۸)

ترجمہ:- ”ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔“ (کنز الایمان)

نوٹ:- یہاں ہاتھ سے مراد جسمانی عضو ہاتھ نہیں لیا جائے گا بلکہ یہاں ہاتھ سے مراد اللہ کی مدد، پشت پناہی، اللہ کا کرم، اللہ کی نصرت وغیرہ مراد لی جائے گی۔

◎ مثال نمبر ۲:- ”فَإِنَّمَا تُولَوْنَ وَجْهَ اللَّهِ“

(پارہ: ۲، سورۃ البقرہ، آیت: ۱۱۵)

marfat.com

ترجمہ:- ”تو تم جدھر منہ کرو اُدھر وجہ اللہ ہے۔“ (کنز الایمان)

نوٹ:- وَجْهَ کے معنی چہرہ، رخ، منہ وغیرہ ہیں۔ اس آیت میں وَجْهَ اللّٰهِ کا کلمہ وارد ہے۔ اس کے ظاہری معنی اللہ کا چہرہ، اللہ کا رخ ہرگز نہیں اخذ کیا جائے گا۔ بلکہ یہاں وَجْهَ اللّٰهِ سے مراد اللہ کی رحمت کا متوجہ ہونا مراد لیا جائے گا۔ اور آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ ”تو تم جدھر منہ کرو اُدھر اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔“ (کنز الایمان)

○ مثال نمبر ۳:- ”وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا“

(پارہ: ۲۷، سورۃ الطور، آیت: ۲۸)

ترجمہ:- اور اے محبوب! تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔“ (کنز الایمان)

نوٹ:- آیت میں ”أَعْيُنِنَا“ کا لفظ وارد ہے جس کے لفظی معنی ”ہماری آنکھیں“ ہوتا ہے لیکن یہاں اللہ کی آنکھیں ایسا ترجمہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی تاویل کر کے ہماری آنکھوں سے مراد ہماری نگہداشت لی جائے گی۔ جیسا کہ کنز الایمان کے ترجمہ میں ہے۔

○ مثال نمبر ۴:- ”الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى“

(پارہ: ۱۶، سورۃ طہ، آیت: ۵)

ترجمہ:- ”وہ بڑی مہر والا اس نے عرش پر استواء فرمایا۔ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔“ (کنز الایمان)

نوٹ:- اس آیت میں ”استوی“ کا لفظ ہے۔ اس لفظ کے ظاہری معنی میں اس آیت کا ترجمہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ ”استوی“ کے معنی ہیں ”بیٹھنا“ یا ”جلوس کرنا“ اگر صرف ظاہری معنی پر اکتفا کرتے ہوئے آیت کا ترجمہ کیا جائے گا تو ترجمہ یہ ہوگا۔ ”رحمن نے عرش پر جلوس فرمایا“ یا ”رحمن عرش پر بیٹھا“ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بیٹھنے سے اور مقام سے پاک ہے لہذا ظاہری معنی سے انحراف و روگردانی کرتے ہوئے،

marfat.com

اس لفظ کی مناسب تاویل کی جائے گی اور وہی ترجمہ صحیح ہے جو ہم نے کنز الایمان شریف سے نقل کیا ہے۔

○ مثال نمبر ۵:- ”وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ”

(پارہ ۳۶، سورہ ق، آیت: ۱۶)

ترجمہ:- ”اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔“

نوٹ:- اس آیت میں لفظ ”أَقْرَبُ“ وارد ہے۔ جس کا ظاہری اور لفظی ترجمہ

”زیادہ قریب“ یا ”زیادہ نزدیک“ ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے

لیے ان الفاظ کی نسبت و اضافت ناروا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک

و بے نیاز ہے لہذا ان الفاظ کی معنوی تاویل کرنی لازمی ہے۔ اس آیت

کی تفسیر میں لکھا ہے کہ:- ”یہ رگ گردن میں ہے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ

انسان کے اجزاء ایک دوسرے سے پردہ میں ہیں اور اللہ کے لیے کوئی

پردہ نہیں۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۹۳۳)

یہاں تک پیش کی گئی مثالوں اور دیگر آیات قرآنیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ○ يَدُ

یعنی ہاتھ ○ وَجْهٌ یعنی چہرہ ○ عَيْنٌ یعنی آنکھ ○ اسْتَوٰءَ یعنی بیٹھنا ○ فَوْقَ یعنی اوپر

○ أَقْرَبُ یعنی بہت قریب اور ○ جَلَّ یعنی آیا کے الفاظ وارد ہیں۔ ان الفاظ کے ظاہری اور

لفظی معنوں کا ترجمہ کر کے اس کی نسبت و اضافت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس کے لیے

نہیں کی جاسکتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے لہذا ان

الفاظ کی مناسب معنوی تاویل کرنی ہوگی اور جب آیت کے الفاظ کی معنوی تاویل کی ضرورت

پیش آئی تو اب وہ آیات محکمات سے نہ رہیں بلکہ آیات متشابہات میں شمار کی جائیں گی۔

(ت) وہ آیات جن کے الفاظ کے ظاہری اور لفظی معنی کو دلیل بنا کر کسی کو نبوت و رسالت

کے اعلیٰ منصب کی تعظیم و توقیر کے خلاف معنی اخذ کر کے تنقیص و توہین کرنے کی

جرات ہو بلکہ آیت کے الفاظ کے ظاہری لفظی معنی کسی بھی نبی و رسول کے علو مرتبت

کے منافی معلوم ہوتے ہوں، ان تمام آیتوں کا بھی آیات متشابہات میں شمار ہوگا۔

ان آیتوں کی ایسی مناسب تاویل کرنی ہوگی کہ تاویل کرنے پر آیت کا ترجمہ لغت کے خلاف نہ ہو اور اس ترجمہ سے عصمت انبیائے کرام پر حرف بھی نہ آئے۔ مثلاً:-

○ كَيْتَغْفِرَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (پارہ: ۲۶، سورۃ الفتح، آیت: ۲)

○ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي (پارہ: ۱۳، سورۃ یوسف، آیت: ۵۳)

○ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ (پارہ: ۱۶، سورۃ طہ، آیت: ۱۲۱)

○ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (پارہ: ۲۶، سورۃ محمد، آیت: ۱۹)

○ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ (پارہ: ۳۰، سورۃ الضحیٰ، آیت: ۷)

○ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (۱) پارہ: ۱۶، سورۃ الکہف، آیت: ۱۱۰

(۲) پارہ: ۲۳، سورۃ حم سجده، آیت: ۶

مندرجہ بالا تمام آیات کا شمار آیات متشابہات میں ہوتا ہے۔ کیونکہ ان آیات کے ظاہری اور لفظی معنی کو دلیل بنا کر مخالفین و منافقین کو تنقیص و توہین رسالت و نبوت کی جرات ہوتی ہے۔ مشاہدہ اور تجربہ شاہد ہے کہ دورِ حاضر کے منافقین ان آیات کو پیش کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں توہین و گستاخی کرتے ہیں۔

انشاء اللہ مندرجہ بالا آیات کی وضاحت اور اس کی صحیح تفہیم ہم اگلے صفحات میں زیور گوش سامعین اور تذات عیون ناظرین کرنے کی سعی بلیغ کریں گے۔

یہاں تک کی ہماری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات محکمات اور بعض آیات متشابہات ہیں۔ آیات محکمات کے الفاظ کے ظاہری اور لفظی معنوں سے آیت کے معنی اور مرادوں ظاہر ہوتے ہیں اور جن کے سمجھنے میں تاویلات کی قطعاً ضرورت محسوس نہیں ہوتی لہذا ان آیات سے ایمان و عقائد، عبادت و معاملات اور حلال و حرام وغیرہ کے احکام نکالے اور طے کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن آیات متشابہات کے الفاظ کے ظاہری اور لفظی معنوں سے آیت کے معنی اور مرادوں صاف اور واضح طور پر ظاہر نہیں ہوتے بلکہ اس میں اشتباہ ہوتا ہے اور جن کو سمجھنے کے لیے لغت کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے مناسب تاویلات کرنا ضروری ہوتا ہے۔

لہذا ان آیات سے ایمان و عقائد، عبادت و معاملات اور حلال و حرام وغیرہ کے احکام اس کے

لفظی معنوں سے اخذ نہیں کیے جاسکتے۔

آیاتِ محکّمات اور آیاتِ متشابہات دونوں پر ہمارا ایمان ہے۔ دونوں حق ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ آیاتِ محکّمات پر سر تسلیم خم کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور آیاتِ متشابہات میں اپنی رائے زنی سے باز رہتا ہے لیکن جو منافقین ہوتے ہیں، وہ آیاتِ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ قرآن مجید سے ایسی متشابہات آیات چُن چُن کر نکالیں گے۔ ان آیات کے ظاہر پر حکم کریں گے اور گمراہی پھیلانے کے فاسد ارادہ سے اس کی باطل و مفسد تاویلیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ:-

<http://t.me/Tehqiqat>

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

”منافقین آیاتِ متشابہات کے ظاہری معنی کو دلیل بنا کر گمراہیت پھیلاتے ہیں“

آیاتِ متشابہات کو دلیل بنا کر گمراہیت پھیلانے والوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ

ہے کہ:-

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رِيحٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

⊙ = پارہ: ۳، سورہٴ آل عمران، آیت: ۷ = ⊙

ترجمہ:- ”وہ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ اشتباہ والوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو۔“ (کنز الایمان)

تفسیر:- ”یعنی گمراہ اور بد مذہب لوگ ہوائے نفسانی کے پابند ہیں اور اس کے ظاہر پر حکم کرتے ہیں یا تاویل باطل کرتے ہیں اور یہ نیک نیتی سے نہیں بلکہ شک و شبہ میں ڈالنے اپنی خواہش کے مطابق، باوجودیکہ وہ تاویل کے اہل نہیں“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۹۱)

⊙ حل لغت:- کجی = ترچھا پن، ٹیڑھا پن (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۹۹۵)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی (Crookedness) یعنی

ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہی لوگ اشتباہ والے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑتے ہیں اور

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

گمراہی پھیلانے کے فاسد ارادے سے ان آیات کے اپنی خواہش کے مطابق من بجاتے تراجم کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں تفسیر میں وارد ہے کہ ایسا کرنے والے "ہوائے نفسانی کے پابند ہیں" یعنی نفس کی خواہش و لالچ کے پابند ہیں۔ ایسے لوگ تخیلات فاسدہ (Sinful thoughts) کے عادی ہوتے ہیں اور لوگوں کو شک و شبہ کے ذریعہ فتنہ میں مبتلا کرنے کی غرض سے آیات متشابہات کے غلط مفہوم بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے احادیث میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔

حدیث :- ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

"مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِدَايِهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" ترجمہ :- "جو شخص قرآن شریف میں اپنی رائے کے مطابق معنی بیان کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔" (حوالہ :- مشکوٰۃ شریف، ص: ۳۵)

حدیث :- ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

"مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" ترجمہ :- "جو شخص بے علم قرآن کی تفسیر بیان کرے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنالے۔" (بحوالہ :- فتاویٰ رضویہ، جلد: ۹، جز اول، ص: ۹۶)

حدیث :- بخاری شریف و مسلم شریف وغیرہما میں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور انور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے "فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ" (الح) پوری آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ :-

"فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ

سَنَسِ اللّٰهَ فَاخْذَرْهُمْ

ترجمہ:- ”جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو آیاتِ تشابہات کی پیروی کر رہے ہوں تو
بچھ لو کہ وہ وہی ہیں جن کے دلوں میں کجی اور گمراہی ہے۔ تم ان لوگوں
سے بچتے رہنا۔“

”ایک نہایت عبرت انگیز واقعہ“

علامہ امام عبداللہ بن عبدالرحمن بن فضل داری سمرقندی (المتوفی ۵۲۵ھ) اپنی ”مسند“
میں حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ:-
”امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں
”صیغ“ نامی ایک شخص مدینہ منورہ میں وارد ہوا اور جن جن صحابہ کرام رضی اللہ
تعالیٰ عنہم کے پاس قرآنی ذخائر یا قرآنی اجزاء موجود تھے ان کی خدمات میں آمد
ورفت شروع کی اور ان حضرات صحابہ کی مدد سے ان ذخائر اور اجزاء میں سے
آیاتِ تشابہات کو تاویلاتِ قاسدہ کی غرض سے طبعاً کرنا شروع کیا۔ امیر
المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ
نے ”صیغ“ کو دربارِ خلافت میں طلب فرمایا اور کجور کے درخت کی شاخیں
متوائیں۔ جب صیغ دربارِ خلافت میں حاضر ہوا تو حضرت فاروق اعظم نے
اس سے پوچھا ”تمہارا نام کیا ہے؟“ اس نے کہا میرا نام تو عبداللہ بن صیغ ہے
مگر میں صیغ کے نام سے مشہور ہوں۔“

حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے اسے اپنی جتنی جھڑپیں کرنے کا موقع نہیں دیا بعد میں
کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو حسبِ اطلاعات فراہم کیں تھیں اس پر اظہارِ ذمہ کرتے ہوئے صیغ و
کجور کی شاخوں سے مشابہت رکھنے والے لفظوں کو جھڑپوں کی شاخوں

ٹوٹ گئیں مگر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پیٹتے رہے یہاں تک کہ اس کے سر سے خون کے فوارے جاری ہو گئے اور اس کی تہبند بھی خراب ہو گئی۔ پھر آپ نے پیٹنا موقوف فرمایا اور اسے قید میں ڈال دیا۔ جب صبیح قید خانے میں چند دنوں رہنے پر صحت یاب ہو گیا تو امیر المؤمنین نے اسے دوبارہ دربار خلافت میں طلب فرمایا۔ مگر صبیح نے اپنی کروتوت سے باز آنے کا انکار کیا۔ چنانچہ امیر المؤمنین نے اسے دوبارہ پیٹنا شروع فرمایا اور جب صبیح پیٹتے پیٹتے خون سے تر ہوا تو امیر المؤمنین نے اس سے پوچھا ”اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟“ صبیح نے اڑیل اور سرکش ہوتے ہوئے کہا کہ ”اگر آپ کا ارادہ قتل کرنے کا ہے تو مجھے بے شک قتل کر دیجئے لیکن جب تک میں زندہ ہوں اپنے کام سے باز نہیں آنے والا“

امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ”اگر مجھے یقین ہوتا کہ تمہارے قتل کرنے سے یہ فتنہ ختم ہو جائے گا تو یقیناً میں تجھے قتل کر دیتا لیکن میں جانتا ہوں کہ جس دروازہ کو تم نے کھولا ہے وہ بند ہونے والا نہیں۔“ لہذا مدینہ منورہ کو اپنے وجود سے آج ہی پاک کر دو اور جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ۔“ عبداللہ بن صبیح نے اسی وقت ملک شام کا راستہ اختیار کیا اور ملک شام (Syria) چلا گیا۔

امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے گورنر حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ارسال فرمایا اور یہ حکم تحریر فرمایا کہ عبداللہ بن صبیح کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے اور کوئی بھی مسلمان اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرے۔“

(بحوالہ:- قرآنی علوم، ص: ۱۴)

اس واقعہ میں امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد گرامی کہ ”اگر مجھے یقین ہوتا کہ تمہارے قتل کرنے سے یہ فتنہ ختم ہو جائے گا تو یقیناً میں تجھے قتل کر دیتا۔“ قابل غور و توجہ ہے کہ یہ فتنہ صرف عبداللہ بن صبیح کی شخصیت تک ہی منحصر اور محدود نہ تھا بلکہ بقول حضرت فاروق اعظم ”میں جانتا ہوں کہ جس دروازہ کو تم نے کھولا ہے وہ بند ہونے والا نہیں۔“ ۱۹ھ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی یہ پیشین گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی ہے کیونکہ خلافت فاروقی کے زمانے سے لے کر آج تک یہ پیشین گوئی کے چودہ سو سال بعد تک

یہ فتنہ جاری ہے بلکہ دورِ حاضر میں یہ فتنہ اپنے شباب پر ہے کیونکہ دورِ حاضر کے منافقین بارگاہِ رسالت میں گستاخی اور توہین کرنے کی غرض سے ہمیشہ آیاتِ تشابہات ہی بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور قرآن کے نام پر اور قرآن ہی کے ذریعہ امت مسلمہ میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں۔

دورِ حاضر کے منافقین نے ماحول ایسا پر اگندہ بنا دیا ہے کہ جاہل ملاؤں کی تبلیغی ٹولی کے ساتھ دہلی یا مدراس کا ایک چلہ کر آنے والا ”اجہل مبلغ“ اپنے آپ کو مولانا، مولوی، مفتی، محدث یا مفسر سے کم نہیں سمجھتا، جن جہلاء کو استیجا، طہارت اور نماز کے مسائل کی بھی معلومات نہیں ہوتی ان کو چالیس دن کے چلے کے درمیان دو-چار آیاتِ تشابہات زنادی جاتی ہیں اور وہ جہلاء ان آیاتِ تشابہات کے لفظی معنوں کو بطور دلیل پیش کر کے بارگاہِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گستاخی و بے ادبی کرنے کی گھناونی حرکت و جرأت کرتے ہیں۔

تعجب کی بات تو یہ ہے کہ دورِ حاضر کے منافقین کی بے راہ روی اور علمی بے ماگی کا یہ عالم ہے کہ قرآن کی آیات کے ◉ محکم ◉ تشابہ ◉ مقدمہ ◉ مؤخرہ ◉ عامہ ◉ خاصہ ◉ مجملہ ◉ مبینہ ◉ ناسخہ ◉ منسوخہ ◉ مطلقہ ◉ منطوقہ ◉ مبہمہ ◉ مفہومہ کے احوال کا جنہیں ضروری اور لازمی علم نہیں اور جو قرآن مجید کے انداز بیان کے اہم شعبے مثلاً ◉ حقیقت ◉ مجاز ◉ تشبیہ ◉ استعارات ◉ مقننی ◉ ربط ◉ تعریف ◉ کنایات ◉ ایجاز ◉ اطناب ◉ حصر ◉ اختصار ◉ مبتدا ◉ خبر ◉ انشاء وغیرہ سے مکمل بے خبر اور جاہل بلکہ اجہل ہوتے ہیں وہ قرآنی تعلیم، قرآن فہمی اور تفہیم کے مبلغِ اعظم اور مفسرِ اجل بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ تبلیغِ دین کے نام پر وہ مضال و مضیل کی تحریک چلاتے ہیں۔

◉ سیدنا عمر فاروقِ اعظم کا ارشاد گرامی :-

عالم الغیب والشہادہ، رب تبارک و تعالیٰ کے غیب جاننے والے محبوبِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غیب داں جلیل القدر صحابی، سیدنا عمر فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے چودہ سو سال پہلے آج کے دور کے منافقین کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ :-

.....

نَاسٌ يُجَادِلُونَكُمْ بِمُتَشَابِهَاتِ الْقُرْآنِ. فَخَذُّوْلَهُمْ بِالسَّنَنِ
فَإِنَّ أَصْحَابَ السَّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ -

ترجمہ:- ”ایسے لوگوں کا ظہور ضرور ہوگا، جو قرآن کی آیاتِ متشابہات کے ذریعے مسلمانوں سے جھگڑا کریں گے۔ ان کو سنت (ارشاد نبوی) سے پکڑو۔ کیونکہ اہل سنت کے علماء اللہ کی کتاب (قرآن) کو زیادہ جانتے والے ہیں۔“

بارہا کا تجربہ ہے کہ آیاتِ متشابہات کے ظاہری لفظی معنوں کو بطور دلیل پیش کرنے والے دورِ حاضر کے منافقین کا جب کسی سنی عالم سے سابقہ پڑتا ہے، تو وہ مناقبِ مبلغِ اپنی بظلمت جھانکتا ہوا، نود و گیارہ ہو کر راہ فرار اختیار کرنے میں ہی اپنی خیر و عافیت محسوس کرتا ہے۔

◎ آیاتِ محکمات و متشابہات کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشادِ عالی:

جلیل القدر صحابی رسول، رئیس المفسرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام علوم تفسیر قرآن میں ایسا ارفع و اعلیٰ ہے کہ آپ زمانہ صحابہ کرام سے آج تک ”ترجمان القرآن“ کے معزز منصب پر فائز ہیں۔ جن کے متعلق حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ:-

”نِعْمَ تَرْجَمَانُ الْقُرْآنِ عِبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ“

ترجمہ:- ”عبداللہ بن عباس قرآن مجید کا بہترین ترجمان ہے۔“ اسی لیے آپ کا لقب ترجمان القرآن ہے۔

◎ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کے متعلق بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ شخص آپ کی امت کا ”خبر“ ہونے والا ہے۔ (اخرجہ ابو نعیم)

حضرت جبریل کی عرض کردہ اطلاع کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس کے کثرتِ علم اور

نقاہت کا یہ عالم ہوا کہ آپ کا لقب ”خبر الامۃ“ یعنی ”امت کا زبردست عالم دین“ مشہور ہوا۔

○ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے تھے کہ اپنی جوانی ہی میں پختہ عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو واضح البیان اور دل کو عظیم دانش کدہ بنایا ہے۔

○ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کم عمر تھے۔ نوجوانی کے عالم میں تھے۔ جوانی کے شباب کی بہاریں بھی ابھی نہیں آئی تھیں لیکن آپ کے تفقہ فی الدین اور علم تفسیر سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متاثر تھے کہ آپ کو اصحاب بدر صحابہ کے ساتھ بٹھاتے تھے۔

اجلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قرآن مجید کی آیتوں کی صحیح تفسیر اور تفہیم کے لیے ہمیشہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہی رجوع فرماتے تھے۔
وہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:-

”آیاتِ محکمات و آیاتِ تشابہات دونوں قسم کی آیتیں منجانب اللہ ہیں لہذا دونوں کے حق و صداقت پر ہمارا ایمان ہے مگر دینیات اور شرعی احکام کا دار و مدار آیاتِ محکمات پر ہے اس لیے آیاتِ تشابہات کو احکام شرع یا دینیات میں بطور استشہاد (سند) پیش نہیں کیا جاسکتا“
(اخرجہ ابن حاتم)

حدیث:- طبرانی میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:-
”میں اپنی امت پر تین چیزوں کا خوف کرتا ہوں۔ (۱) زیادتی مال جو باعث حسد ہو (۲) جنگ و جدال (۳) تشابہات کی تاویل“

حدیث:- ابن فرودیہ نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

”قرآن کی جن آیتوں کو سمجھ سکو (یعنی محکمات) ان پر عمل کرو اور تشابہات پر ایمان لے آؤ۔“ (دونوں احادیث بحوالہ:- تفسیر نعیمی، جلد: ۳، ص: ۳۱۳)

الحاصل! صحیح العقیدہ مؤمن تشابہات کی تاویل کے پیچھے نہیں پڑتے بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تشابہات پر ایمان لے آئے۔ ان کے جو معنی ہیں وہ حق ہیں۔ ان کی مراد اللہ اور رسول کو معلوم ہے۔ ان کے معنی اور مراد ہماری عقل و فہم میں آئیں یا نہ آئیں، مگر یہ آیات ہمارے رب کی طرف سے ہونے کی وجہ سے ہم ان کی حقانیت و صداقت پر ایمان رکھتے ہیں۔

لیکن...! فاسد العقیدہ منافقین تشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اور آیت کے ظاہری الفاظ کی جھوٹی اور باطل تاویلیں کرتے ہیں۔ تفسیر میں ہے کہ:-

① ”اصطلاح میں کسی لفظ کو ظاہری معنی سے پھیرنا تاویل کہلاتا ہے۔ یہاں

وہ باطل تاویلیں مراد ہیں جو عقاید اسلامیہ کے خلاف ہوں۔ اور مفسدین کی مرضی کے مطابق یعنی الفاظ کو توڑ مروڑ کر اپنا مطلب نکالنا یعنی ایسے بے دین لوگ محض گمراہی پھیلانے، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر کے کشت و خون کرانے اور لوگوں کو بہکانے کے لیے نیز اپنے مطلب کے موافق قرآن بنانے کے لیے آیات تشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ محکم آیتوں اور روشن احکام کی پرواہ نہیں کرتے۔“

(حوالہ:- تفسیر نعیمی، جلد: ۳، ص: ۳۰۸)

المختصر! دورِ حاضر کے منافقین انبیائے کرام اور اولیائے عظام کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرنے کے اپنے مطلب فاسد کی غرض سے ہمیشہ قرآن مجید کی آیات تشابہات کو بطور سند اور دلیل پیش کر کے فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں اور ملتِ اسلامیہ کو آپسی خانہ جنگی اور گمراہیت کے گہرے دلدل میں پھنسانے کی سعی مقبوحہ اور حرکتِ نازیبا کرتے ہیں۔

“أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ” آیاتِ تشابہات سے ہے

حضور اقدس رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمسری کا دعویٰ ثابت کرنے اور حضور اقدس کو اپنے جیسا بشر ثابت کرنے کے فاسد ارادے سے دورِ حاضر کے منافقین بڑے

عی طمطراق سے قرآن مجید کی آیت شریف "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" بطور دلیل اور سند پیش کرتے ہیں لیکن اصطلاح قرآن کے مطابق یہ آیت آیاتِ تشابہات میں شمار ہوتی ہے۔ ذیل میں ہم ملتِ اسلامیہ کے عظیم اماموں اور محققوں کی معتد اور معتبر کتابوں کے چند حوالے پیش کرتے ہیں جن سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت تشابہات میں سے ہے۔

حوالہ ۱:- شیخ محقق، شاہ محمد عبدالحق بن سیف الدین بن سعد اللہ ترک محدث دہلوی قدس سرہ العزیز (المتوفی ۱۰۵۲ھ) اپنی کتاب "مدارج النبویہ" میں فرماتے ہیں کہ:-

"وہ آیات جن میں انبیائے کرام کے لیے صفات عمومی ثابت کیے جائیں وہ تشابہات ہیں۔ جیسے "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" اور "فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ" اور "وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ"۔

حوالہ ۲:- تفسیر احمدی

"تمام وہ آیتیں جن سے انبیائے کرام کا گنہگار ہونا معلوم ہوتا ہو، ان سب کی تاویل واجب ہے۔ جیسے "وَهَمَّتْ بِهَا" "فَتَكُونْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ" "وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ" وغیرہ۔ گویا ان کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ آیتیں تشابہات ہیں۔"

(دونوں حوالے بحوالہ:- تفسیر نعیمی، جلد: ۳، ص: ۳۱۱)

"بارگاہ رسالت میں گستاخی کرنے کی غرض سے

منافقینِ زمانہ "أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کی طرح دیگر

آیاتِ تشابہات کو بھی دلیل بناتے ہیں۔"

دورِ حاضر کے منافقین بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گستاخی و بے ادبی کرنے

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کی غرض سے قرآن مجید کی ان آیاتِ متشابہات کو پیش کرتے ہیں جن آیات کے لفظوں کے ظاہری اور لغوی معنوں کی تاویل کرنا واجب ہے۔ ان آیات کے لفظی معنوں کو بطور دلیل و سند پیش کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ بلکہ لوگوں کو بارگاہ رسالت میں گستاخی کرنے کی جرات دلاتے ہیں۔ ان منافقین کے پیشواؤں کے دام فریب میں آکر ان کے جاہل مبلغین برسر عام دلیری سے توہین و تنقیص بارگاہ رسالت کرتے ہیں۔ راقم الحروف سے ایک مرتبہ تبلیغی جماعت کے ایک جاہل مبلغ نے یہاں تک کہا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گناہ سرزد ہوئے تھے اور اللہ نے انہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا حکم فرمایا۔ اور اپنے اس فاسد عقیدہ کے ثبوت میں قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت کریمہ بطور سند پیش کی:-

﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾

(پارہ: ۲۶، سورہ محمد، آیت: ۱۹)

ترجمہ از منافقین:- ”اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے۔“

ترجمہ از:- دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی محمود الحسن دیوبندی، استاد مولوی اشرف علی تھانوی۔

اس آیت کے علاوہ ایک اور آیت بطور دلیل پیش کی تھی:-

﴿ كَيْغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾

(پارہ: ۲۶، سورہ الفتح، آیت: ۲)

ترجمہ از منافقین:- ”تا کہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے“

معاذ اللہ !!!

ان آیات کے صحیح معنی کیا ہیں؟ اور آیت میں وارد لفظ ”ذنب“ سے استدلال کر کے منافقین کیسی کیسی دھوکہ دہی کرتے ہیں؟ اس کی وضاحت ہم انشاء اللہ آئندہ صفحات میں تفصیلاً کریں گے لیکن یہاں ہم قرآن مجید کی ایک اور متشابہ آیت پر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں جس آیت کو دلیل بنا کر منافقین نے آسمان سربراہان کا ہے۔ اور وہ آیت ہے:-

marfat.com

ہوئے یہاں تک لکھا ہے کہ:-

⑤ ”محاسن شریعہ کی اصل اصول یعنی ایمان باللہ کی حقیقت بھی آپ نہ جانتے تھے۔“
⑥ ”اخلاقی محاسن کے تین جز ہیں۔ تہذیب اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن۔ ان تینوں سے آپ قطعاً و اصلاً بے خبر تھے۔ جب آپ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ کتاب الہی کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے تو اور محاسن سے آپ کو کیا نگر آگئی ہو سکتی ہے۔“

⑦ ”کبھی کبھی ایسے کلمات آپ کی زبان سے صادر نہیں ہوئے جس سے یہ معلوم ہوتا کہ آپ اپنے لیے اس مرتبہ عظیمی کی امید رکھتے ہیں، جو چالیس برس کے بعد آپ کو عنایت ہوا۔“ (حوالہ:- مختصر سیرت نبویہ، از مولوی عبدالشکور، ص ۲۳)

ماظہرین کرام! غور فرمائیں کہ منافقین نہ ماتہ آیت شریف **وَوَجَّكَ ضَلَالًا قَهْدِي** کے ترجمہ کی آڑ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کسی سخت گستاخیاں کر رہے ہیں۔ مندرجہ بالا تراجم و تفسیر منافقین کا اقتباس یہ ہے کہ:-

معاذ اللہ! ثم حاز اللہ! تعوذ باللہ من ذالک!

⑧ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھٹکے یعنی گمراہ اور لو بھولے ہوئے تھے۔

⑨ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریعت سے بے خبر تھے۔

⑩ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راہ سے بے خبر تھے۔

⑪ چالیس سال کی عمر شریف تک ایمان باللہ کی حقیقت بھی نہ جانتے تھے۔

⑫ چالیس سال کی عمر شریف تک اخلاقی محاسن سے قطعاً و اصلاً بے خبر تھے۔

⑬ چالیس سال کی عمر شریف تک کتاب الہی اور ایمان کیا چیز ہے وہ بھی نہ جانتے تھے۔

⑭ چالیس سال کی عمر شریف تک آپ کو نبوت کے مرتبہ عظیمی کی بھی امید نہ تھی۔

آیت **وَوَجَّكَ ضَلَالًا قَهْدِي** کا صحیح ترجمہ و تفسیر اور اس کی تفصیلی مباحث

تیسرا خدمت کرنے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دو یہاں حاضر کے منافقین کے مندرجہ بالا

نقصیات و احقاوت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سخت گستاخیاں اور بے ادبی

ہونے کے ساتھ ساتھ اور شہادت اہل بیت کے بھی مضاد ہیں۔

marfat.com

حدیث:- امام احمدؒ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں امام حاکمؒ بیہقی اور ابو نعیم نے مسیرۃ الفجر سے، و نیز حضرت عرباض سے اور حضرت ابو ہریرہ سے بزاز اور طبرانی نے ”اوسط“ میں ابو نعیم نے بہ طریق شعبی حضرت عبداللہ بن عباس سے ابن سعد نے ابن ابی الجداء اور مطرف بن عبداللہ بن الشخیر اور عامر سے طبرانی و ابو نعیم نے ابی مریم غسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

كُنْتُ نَبِيًّا وَ اَدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَ الْجَسَدِ

ترجمہ:- ”میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ حضرت آدم روح و جسم خاکی کے درمیان تھے“

(حوالہ:- خصائص کبریٰ فی معجزات خیر الوری، از:- امام اجل علامہ جلال الدین

عبدالرحمن بن کمال بن ابی بکر سیوطی (المتوفی ۹۱۱ھ) اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۴)

حدیث:- حافظ ابوالفضل ابن حجر ”شرح بخاری“ میں فرماتے ہیں کہ سیر واقدی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوائل عمر میں پیدا ہوتے ہی کلام فرمایا اور ابن سبع نے ”الخصائص“ میں ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلا کلام جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا **اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا**۔ (حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۳۸)

اس قسم کی احادیث کثیر تعداد میں ہیں جن کا بیان کرنا یہاں ممکن نہیں۔ منجملہ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تب دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا اور اپنی امت کے لیے اپنے رب سے عرض کی **رَبِّ هَبْ لِيْ اُمَّتِيْ** یعنی ”اے رب! مجھے میری امت بہ فرما دے“۔

تو جو ذات گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش کے وقت سے ہی نبی کے منصب اعلیٰ پر جلوہ افروز ہو، اور جس ذات گرامی نے دنیا میں تشریف لاتے ہی اللہ کی تکبیر کی اور صحابہ فرمائی دنیا میں اللہ کی بھلائی کے لیے دعا فرمائی، اُس

ذات گرامی کو اپنی پیدائش کے وقت ہی اللہ کے رب ہونے کا، اپنے نبی ہونے کا اور اپنی امت کا خیال تھا۔ وہ ذات گرامی جو اپنی ولادت باسعادت کے وقت اللہ کی وحدانیت، اپنی نبوت اور اپنی امت سے واقف ہو، اُس ذات گرامی کے لیے معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ چالیس سال کی عمر شریف ہونے تک ایمان باللہ کی حقیقت بھی نہ جانتے تھے وغیرہ کبریا یقیناً بارگاہ رسالت میں سخت گستاخی ہے۔ اور احادیث کے ارشادات کی خلاف ورزی ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی مخالفت ہے کیونکہ قرآن میں ہے کہ:-

”مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ“

⊙ = پارہ: ۲۷، سورۃ النجم، آیت: ۲ = ⊙

ترجمہ:- ”تمہارے صاحب نہ بھٹکے، نہ بے راہ چلے“ (کنز الایمان)

تفسیر:- (۱) صاحبکم سے مراد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ حضور انور نے کبھی طریق حق و ہدایت سے عدول نہ کیا۔ ہمیشہ اپنے رب کی توحید و عبادت میں رہے۔ آپ کے دامن عصمت پر کبھی کسی امر مکروہ کی گرد نہ آئی۔ (۲) اور بے راہ نہ چلنے سے یہ مراد ہے کہ حضور ہمیشہ رشد و ہدایت کی اعلیٰ منزل پر متمسک رہے اور اعتقادِ فاسد کا شائبہ کبھی آپ کے حاشیہ بساط تک نہ پہنچ سکا۔

(حوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۹۳۶)

قرآن مجید کا صاف ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”مَا ضَلَّ“ یعنی ”کبھی نہیں بھٹکے“ لیکن دورِ حاضر کے منافقین قرآن کے اس ارشاد کے خلاف جا کر ”ضَلَّ“ کہتے ہیں یعنی ”بھٹکے ہیں“۔ اگر معاذ اللہ حضور اقدس ہادی الناس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ گمان کیا جائے کہ وہ ”بھٹکتا“ تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ”راہ دکھائی“ تو پھر قرآن مجید کی سورۃ النجم کی آیت کریمہ ”مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ“ کے کیا معنی رہیں گے؟ قرآن یہ فرما رہا

marfat.com

ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم "کبھی نہیں بھٹکتے" لیکن دورِ حاضر کے منافقین کہتے ہیں کہ "بھٹکتے ہیں" قارئین کرام فیصلہ فرمائیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟

”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ کا صحیح ترجمہ و تفسیر اور

آیت کی تفصیلی وضاحت و تفہیم

جیسا کہ اوراقِ سابقہ میں ہم نے تفسیر احمدی، تفسیر خزائن العرفان اور کتاب مستطاب ”مدارج النبوة“ کے حوالوں سے عرض کیا ہے کہ ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ آیاتِ تشابہات میں سے ہے۔ اس آیتِ مقدسہ کی ایسی مناسب تاویل کرنا واجب ہے کہ آیت کا ترجمہ لغت کے خلاف نہ ہو اور اس ترجمہ سے عصمتِ انبیاء اور تعظیم و توقیر رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حرف نہ آئے لیکن دورِ حاضر کے منافقین کو اس آیتِ تشابہ کے الفاظ کے ظاہری اور لغوی معنی اخذ کر کے، اس ظاہری معنی بیان کرنے میں نہ جانے کون سا لطف حاصل ہوتا ہے کہ ہر جگہ اس آیت سے غلط استدلال اور مفہوم اخذ کر کے حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ عالی میں بھٹکتا، راہ سے بے خبر، گمراہ وغیرہ توہین آمیز الفاظ و جملے بولتے ہیں بلکہ کتابوں میں طبع کرتے ہیں۔

جب ان سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ جناب! اس آیت کا آپ نے جو ترجمہ بیان کیا ہے وہ درست نہیں تو اپنے آپ کو علامہ دہرا اور مفسرِ اعظم سمجھتے ہوئے فوراً سورۃ الفسطح کی مذکورہ آیت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ ”ضال“ وارد ہے اور لفظ ”ضال“ کا ترجمہ گمراہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت ”غَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ میں بھی ”ضال“ کا لفظ وارد ہے۔ ”ضال“ کی جمع (Plural) ”ضالین“ ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کا ترجمہ ہے۔ ”نہ پلستہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ان کا جو

گمراہ ہوئے“ تو سورۃ فاتحہ میں ”ضال“ کے معنی گمراہ ہیں، وہی معنی اخذ کر کے ہم نے سورۃ لفظی کی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کیونکہ اس آیت میں بھی لفظ ”ضال“ وارد ہے۔

واد صاحب واہ! کیا بقرہ اٹلی اور بے ٹکی منطق چھانٹی ہے؟ ان کو ر مغز اور کو ر باطن بلکہ سیاہ باطن منافقوں کو کون سمجھائے کہ قرآن مجید رب تبارک و تعالیٰ کا ایسا جامع اور مانع کلام ہے کہ اس کے ہر ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن مجید کا کوئی ایک لفظ ہر جگہ صرف ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ موقع و محل کے اعتبار سے متفرق معنی، مطلب و مراد میں مستعمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ”ضال“ کو ہی لیجئے۔ لفظ ”ضال“ کے عربی لغت کے اعتبار سے چند معنی ہیں جیسے ① گمراہ ② بے خبر ③ آوارہ ④ انجان ⑤ بہکا ہوا ⑥ بے خود ⑦ وارفتہ ⑧ خورد رفتہ ⑨ نثار ⑩ فریفتہ وغیرہ۔ لفظ ”ضال“ کا صرف گمراہ یا بے خبر معنی ہی اخذ کرنا بددیانتی اور نا انصافی ہے۔ قرآن مجید کی اعلیٰ اور بے مثال فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے کہ ایک ہی لفظ الگ الگ موقعہ پر واقعہ کی متابعت کے اعتبار سے الگ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً لفظ ”ضال“ سورۃ فاتحہ میں بے شک گمراہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ سورۃ فاتحہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ سے استعانت و مدد طلب کرنے کا اقرار، سیدھے راستہ پر چلانے کی دُعا اور گمراہ و بے دین لوگوں کے راستہ پر چلنے سے بچنے کی دُعا ہے جو آخری آیت ”غَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ہر جگہ لفظ ”ضال“ گمراہ کے معنی میں وارد نہیں بلکہ موقع و محل کے اعتبار سے دیگر معنوں میں بھی وارد ہے۔ مثلاً

① سورۃ یوسف میں بھی لفظ ”ضال“ کا استعمال ہوا ہے لیکن سورۃ یوسف میں لفظ ”ضال“ کس معنی و مراد میں وارد ہوا ہے اسے باسانی سمجھنے کے لیے موقعہ و محل اور واقعہ کی صورتِ حال سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔

”حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے کل بارہ بیٹے تھے۔ ان بارہ بیٹوں میں سے آپ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت بن یامین کو زیادہ چاہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس چاہت پوری پر حضرت یوسف کے دیگر

بھائیوں کو رشک و حسد ہوتا تھا لہذا جب یہ آپس میں جمع ہوتے تو اکثر ان کا موضوع سخن یہی ہوتا تھا کہ ہمارے والد محترم ہمارے مقابلہ میں حضرت یوسف اور بن یامین کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان سے زیادہ محبت و چاہت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بھائیوں کی مذکورہ گفتگو کا ذکر فرمایا گیا ہے اور حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بھائیوں کا مقولہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ:-

إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
⊙ = پارہ: ۱۲، سورۃ یوسف، آیت: ۸ = ⊙
ترجمہ:- ”بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں“ (کنز الایمان)

اس آیت میں لفظ ”ضَلَالٌ“ وارد ہے جو ”ضَالٌ“ سے مشتق اور ہم معنی ہے لیکن اس آیت میں یہ لفظ گمراہی کے معنی میں ہرگز وارد نہیں ہوا بلکہ یہاں یہ لفظ محبت میں وارفتہ ہونے کے معنی میں ہے۔ اگر اس آیت میں اور لفظ ”ضلال“ کو گمراہی کے معنی میں اخذ کیا جائے گا تو واقعہ کی صحیح تذکیر و تفہیم ہی مفقود ہو جائے گی کیونکہ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بھائی اپنے والد کے ایمان و اعتقاد یا عمل و ارتکاب، عبادت و ریاضت، تبلیغ، رشد و ہدایت یا اور کسی معاملہ کے متعلق گفتگو نہیں کرتے تھے اور نہ ہی انہوں نے اپنے والد ماجد میں کوئی اعتقاد قاسدہ یا اعمال قبیحہ دیکھے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ”إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ“ بلکہ ان کی گفتگو حضرت یوسف اور حضرت بنیامین سے والد ماجد کا زیادہ محبت کرنا اس سلسلہ میں ہو رہی تھی اور والد صاحب کی ان دونوں کی طرف محبت کا رجحان اور شفقت کی کثرت کو موضوع سخن بنا کر اسی موضوع کے ضمن میں ہی انہوں نے اپنے والد کو ”ضال“ کہا تھا اور انہوں نے اپنے والد کو جس بناء پر ”ضال“ کہا تھا وہ صرف اور صرف ”محبت میں ڈوبنا“ کے معنی ہی میں کہا تھا۔ گمراہیت کے معنی میں ہرگز نہیں کہا تھا۔ یہاں لفظ ”ضال“ کا ترجمہ گمراہی کرنا

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

صراصر گمراہی اور ضلالت ہے۔ اسی طرح سورۃ لُحٰحٰی میں وارد لفظ ”ضَال“ کا مطلب بھی گمراہی نہیں بلکہ ”محبت میں ڈوبا ہوا“ ہے۔ ”وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ“ آیت میں وارد لفظ ”ضَال“ کا ترجمہ کرنے میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم و توقیر ملحوظ رکھنا اشد ضروری ہے اور یہاں ”ضَال“ کا ترجمہ گمراہی کرنے سے بارگاہ رسالت کی سخت توہین و بے ادبی ہے۔ یہاں لفظ ”ضَال“ کی مناسب تاویل کرتے ہوئے ”محبت میں ڈوبا ہونا“ کے معنی اور مراد میں ترجمہ کرنا ضروری ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حضور اقدس جانِ ایمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”فَنَافَى اللّٰهِ“ کی اعلیٰ منزل پر متمکن تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں ”ضَال“ یعنی خود رفته پایا تو ”فَهَدَىٰ“ یعنی اپنی طرف راہ دی یعنی معراج میں باعزت و تکریم بلا کر اپنے دیدار، حضوری اور قرب سے بہرہ مند فرمایا۔

اس حقیقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے امام عشق و محبت، امام اہلسنت اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، مجتہد دین و ملت، شیخ الاسلام و المسلمین، امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس آیت کا جو ایمان افروز ترجمہ فرمایا ہے وہ قابل صد تحسین و آفرین ہے۔ ذیل میں ہم اس آیت کا کنز الایمان سے ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

”وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ“

⊙ = پارہ: ۳۰، سورۃ لُحٰحٰی، آیت: ۷ = ⊙

ترجمہ:- ”اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفته پایا تو اپنی طرف راہ دی“
(کنز الایمان)

تفسیر:- ”اور غیب کے اسرار آپ پر کھول دیئے اور علوم مآکان و مابا
یکون عطا کیے۔ اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ
عنایت کیا۔ مفسرین نے ایک معنی اس آیت کے یہ بھی بیان کیے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا وارفتہ پایا کہ اپنے نفس اور مراتب کی بھی خبر نہیں
رکھتے تھے، تو آپ کو آپ کی ذات و صفات اور مراتب و درجات کی

معرفت عطا فرمائی۔

مصنف:- ”انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سب معصوم ہوتے ہیں۔ نبوت سے قبل بھی اور نبوت کے بعد بھی اور اللہ کی توحید اور اس کی صفات کے ہمیشہ عارف ہوتے ہیں۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۱۰۹۷)

ہو سکتا ہے کہ کسی مخالف معترض کو یہ اعتراض ہو کہ امام احمد رضا محدث بریلوی نے اس آیت کے لفظ ”ضال“ کا ترجمہ ”اپنی محبت میں خوردنہ“ اور ”فہدی“ کا ترجمہ ”تو اپنی طرف راہ دی“ کیسے اور کس حوالہ سے کر دیا؟ اس سوال کا مدلل اور مفصل جواب حاصل کر کے اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے اب جو عنوان ارقام ہونے والا ہے اسے یہ نظر عمیق مطالعہ فرمائیں۔

”جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ نے

آیت شریف ”وَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى“ کا کیا

ترجمہ، تفسیر اور وضاحت بیان فرمائی ہے؟“

امین الامت، حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ”لِكُلِّ أُمَّتٍ أَمِينٌ وَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عَبِيدَةَ“ یعنی ”ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں۔“ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ۱۹ سال کی عمر میں دعوت حق کو قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں حضرت ابو عبیدہ کا شمار ان مقدس حضرات میں ہوتا ہے جن کو ”عشرۃ مبشرہ“ کہا جاتا ہے یعنی وہ دس مقدس حضرات جن کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

دسویں صدی تھی اور ان کے جنتی ہونے پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔

ناظرین کرام کی معلومات کے لیے ذیل میں حضرات عشرہ مبشرہ کے نام پیش خدمت ہیں:

(۱) امیر المؤمنین (عبداللہ) ابو بکر بن عثمان (عقلمانی) ابو قحافہ بن عامر بن عمر یعنی حضرت صدیق اکبر

(۲) امیر المؤمنین عمر بن خطاب بن نفیل یعنی حضرت عمر فاروق اعظم

(۳) امیر المؤمنین عثمان بن عفان بن العاص بن ابوامیہ بن عبداللہ یعنی حضرت عثمان غنی

(۴) امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف یعنی حضرت مولیٰ علی مشکل کشا

(۵) حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح۔ لقب:۔ امین الامت

(۶) حضرت سعد بن ابی وقاص۔ لقب:۔ رجل صالح

(۷) حضرت عبدالرحمن بن عوف جن کو حضور اقدس کی نماز میں امامت کرنے کا شرف حاصل ہے۔

(۸) حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ لقب:۔ طلحہ الخیر۔ ایمان لانے والوں میں آٹھویں شخص ہیں۔

(۹) حضرت زبیر بن العوام۔ لقب:۔ حواری رسول۔ حضور اقدس کی پھوپھی حضرت صفیہ کے صاحبزادے

(۱۰) حضرت سعید بن زید۔ لقب:۔ سعید القطر۔ حضرت عمر فاروق کے بہنوئی اور چچا زاد بھائی (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وارضاهم عننا)

عشرہ مبشرہ کی مندرجہ بالا فہرست میں حضرت ابو عبیدہ کا اسم گرامی پانچواں ہے۔ آپ کا

نام "عامر بن جراح" ہے لیکن آپ کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد اقدس کی وجہ سے آپ اپنے نام کے بجائے "امین الامت ابو عبیدہ" کے نام سے ہی مشہور ہیں۔

خلفائے راشدین آپ کی حد درجہ تعظیم و توقیر کرتے تھے اور تمام صحابہ کرام آپ کی

جلالتِ علم اور تقویٰ فی الدین کے متفقہ طور پر قائل تھے۔

اسلامی لشکر کو ملک شام (Syria) فتح کرنے کے لیے امیر المؤمنین، اصدق الصادقین، امام المتقین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب روانہ فرمایا تو اس لشکر کے ”پہ سالار اعظم“ (Commander in chief) کی حیثیت سے امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین فرمایا تھا۔ اسلامی لشکر نے ملک شام میں عظیم فتوحات حاصل کیں اور ملک شام کے اہم مقامات ۵ اراکہ ۵ حنہ ۵ حوران ۵ بصری ۵ بیت لہیا ۵ اجنادین ۵ دمشق ۵ حصن ابی القدس ۵ جوسیہ ۵ حمص ۵ شیرز ۵ رستن ۵ حمات ۵ قسریں ۵ بعلبک ۵ یرموک اور ۵ بیت المقدس (Jerusalem) فتح کر لیے۔ ان تمام مقامات کی فتوحات میں ”جنگ یرموک“ کی فتح اسلامی تاریخ میں سنہری حروف سے مرقوم ہے کیونکہ جنگ یرموک میں عیسائیوں کے لشکر کی تعداد گیارہ لاکھ سے بھی زیادہ تھی جب کہ اسلامی لشکر کی تعداد صرف پچاس ہزار کے قریب تھی لیکن اسلامی لشکر کے جاں باز اور کفن بردوش مجاہدوں نے رومی لشکر کو دن میں تارے دکھا دیے۔ اسلامی لشکر سے کل پانچ ہزار پانچ سو (۵۵۰۰) مجاہدین شہید ہوئے اور رومی لشکر کے تقریباً پانچ لاکھ سے بھی زائد سپاہی قتل ہوئے تھے۔

جنگ یرموک کی فتح عظیم سے پورے ملک شام پر اسلامی لشکر کا رعب اور دبدبہ چھا گیا اور ملک شام کے ہر شہر اور ہر قلعہ کا حاکم یقین کے درجہ میں جانے لگا کہ اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنا بازیچہ اطفال نہیں۔ لیکن ملک شام کے شہر ”حلب“ کے حاکم نے اسلامی لشکر کا بڑی دلیری و شجاعت سے مقابلہ کر کے اسلامی لشکر کو مشقت میں ڈال دیا۔ جنگ یرموک کی فتح کے بعد اسلامی لشکر نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد اسلامی لشکر نے ”حلب“ کے قلعہ کا محاصرہ کیا۔

◎ قلعہ حلب کے حاکم کا تعارف اور اسلامی لشکر سے مقابلہ کی

کیفیت :-

قلعہ حلب کے حاکم کا نام یوقنا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی کا نام "یوحنا" تھا۔ حاکم یوقنا اپنے والد بطریق کے نقش قدم پر چل کر سیاسی اور جنگی امور میں مہارت تامہ کا حامل تھا۔ وہ بذات خود بھی ایک دلیر، شجاع اور جنگ جو شہسوار تھا۔ جب کہ اس کا چھوٹا بھائی یوحنا نہایت نرم طبیعت کا عبادت گزار شخص تھا۔ سیاسی اور جنگی امور سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی و دو دین نصرانیت کا زبردست عالم اور راہب تھا۔ تمام وقت وہ کنیہ میں حاضر رہ کر تورات، انجیل اور دیگر کتب سائنی کی تلاوت و مطالعہ اور عبادت میں بسر کرتا تھا۔ اور وہی اس کا محبوب مشغلہ تھا۔

جب اسلامی لشکر نے حلب کے قلعہ کا محاصرہ کیا، تو حاکم یوقنا نے اپنی فوج اور شہر کے تمام باشندوں کو ہتھیاروں سے لیس کر کے اسلامی لشکر کے مقابلہ کے لیے اکسایا لیکن راہب یوحنا نے اپنے بھائی حاکم یوقنا کو عربوں سے جنگ نہ کرنے کا اور ادائے جزیہ کی شرط پر صلح کرنے کا مشورہ دیا۔ اس وجہ سے دونوں میں شدید اختلاف پیدا ہوا۔ راہب یوحنا نے اسلام کی صداقت اور حتمیت کا اظہار کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا لہذا حاکم یوقنا خشم ناک ہوا اور اس نے اپنے حقیقی بھائی حضرت یوحنا علیہ الرحمہ کو شہید کر دیا۔ یہاں اتنی گتجائش نہیں کہ جنگ حلب کا واقعہ با تفصیل بیان کریں۔ ملک شام کی تمام جنگوں کے تفصیلی احوال کے لیے فقیر راقم بحروف و کتاب "سرکشتاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب" کا مطالعہ فرمائیں۔

حاکم یوقنا نے اپنے بھائی یوحنا کو شہید کرنے کے بعد اسلامی لشکر کا ایسا سخت مقابلہ کیا کہ پورے منب شام (Syria) میں کسی نے اسلامی لشکر سے ایسی ٹکر نہ لی تھی مثلاً :-

◎ کل ایک سو ہشت سو (۱۶۷) دن تک یوقنا نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کیا اور

سخت جوانی کا رروانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شدید حملے کیے۔

◎ رات کے وقت سوئے ہوئے اسلامی لشکر پر چھاپہ مار کر مجاہدوں کو

شہید و قید کرنا اور ان کا اسباب لوٹنا، وغیرہ قسم کی ترکیبیں کرتا تھا۔

marfat.com

○ رات کے وقت اسلامی لشکر کے کیمپ سے پچاس (۵۰) مجاہدوں کو قید کر کے لے گیا اور دوسرے دن قلعہ کی دیوار پر ان مجاہد قیدیوں کو چڑھایا اور اسلامی لشکر کے سامنے ان کو شہید کر دیا۔

○ اسلامی لشکر کے لیے غلہ لینے گئے ہوئے قافلہ پر حملہ کر کے قافلہ کے سردار حضرت منادش بن ضحاک کو معتمیں (۳۰) مجاہدوں کے شہید کر کے تمام غلہ لوٹ لیا۔

○ جنگ کے دوران حاکم یوقتا نے قلعہ کی دیوار سے سخت حملہ کر کے سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی لشکر کے مجاہدوں کو شہید کر دیا۔

المنصر! حاکم یوقتا نے اسلامی لشکر کو سخت مشقت میں ڈال رکھا تھا۔ لیکن بالآخر اسلامی لشکر قلعہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔

قارئین کرام سے التماس ہے کہ ہم ہمارے عنوان "وَوَجَدَكَ ضَالًّا لَهْدَى" آیت کے ترجمہ کے تعلق سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ترجمہ و تفسیر کے سلسلہ میں مضمون کے اہم موڈ کی طرف بہت ہی قریب آچکے ہیں لہذا اب تمام توجہات ملتفت فرما کر مطالعہ فرمائیں۔

حاکم یوقتا پیدائشی رومی تھا۔ اسے صرف رومی زبان ہی آتی تھی۔ عربی زبان سے وہ بالکل نا آشنا تھا۔ جنگ کے دوران حضرت ابو عبیدہ سے جنگ کے امور کے متعلق جب بھی گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی تب مترجم (Translator) کے توسط سے ہی گفتگو کی جاتی تھی۔ لیکن جب اسلامی لشکر حلب قلعہ میں داخل ہوا اور حلب کے باشندوں نے امان مانگی تو اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان کو امان دے دی، جب حاکم یوقتا حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ بجائے رومی زبان کے فصیح و بلیغ عربی زبان میں گفتگو کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تعجب ہوا اور آپ نے حاکم یوقتا سے دریافت فرمایا کہ میری معلومات کے مطابق تم عربی زبان نہیں جانتے ہو لیکن اچانک اس طرح عربی زبان میں گفتگو کرنا کہاں سے حاصل ہوا؟

◎ حاکم یوقنا کو حضورِ اقدس نے خواب میں ہی عربی زبان کا علم عطا فرما دیا:

امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے جواب میں حاکم یوقنا نے جو جواب دیا، اس جواب کو ہم امام ارباب سیر و تواریخ، ثقہ راوی، شیخ الاجل، امام العدل، علامہ محمد بن عمر واقدی المعروف بہ ”علامہ واقدی“ کے الفاظ میں دیکھیں:-

”پس کہا یوقنا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ - آیتِ تعجب کرتے ہو تم

اے سردار اس حال سے۔ ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا ہاں۔ یوقنا نے کہا کہ میں

شب گزشتہ کو فکر اور اندیشہ کرتا تھا تمہارے کام میں کہ کیونکر مدد اور غلبہ لے سکے تم

لوگ ہم پر حالانکہ کوئی گروہ تم سے زیادہ ضعیف ہمارے نزدیک نہ تھا۔ پس جب

دل میں ڈالا میں نے تمہارے معاملہ کو تو سو گیا میں۔ پس دیکھا میں نے ایک

شخص کو روشن تر چاند سے۔ پس پوچھا میں نے کیفیت اُن کی۔ پس کہا گیا مجھ

سے کہ یہ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ ہین۔ پس گویا میں سوال کرتا ہوں کہ

اگر یہ نبی صادق ہین تو درخواست کریں اپنے پروردگار سے آگاہ اور تعلیم

کردیوے مجھ کو پروردگار ساتھ زبان عربی کے۔ پس گویا اشارہ فرماتے ہین

میری طرف اور درخواست کی اپنے پروردگار سے اس امر کی۔ پس بیدار ہو گیا

میں اس حال میں کہ زبان عربی میں کلام کرتا تھا۔“

(حوالہ:- فتوح الشام، از:- علامہ واقدی علیہ الرحمہ

مطبوعہ:- نولکشور، لکھنؤ، اردو ترجمہ، ص: ۳۲۸)

ہم نے علامہ واقدی علیہ الرحمہ والرضوان کی کتاب ”فتوح الشام“ کے اردو ترجمہ سے

حرف بحرف حوالہ نقل کیا ہے۔ ایک سو (۱۰۰) سال پہلے کی اردو زبان کا طرزِ تحریر موجودہ جدید

اردو سے متفرق ہے۔

◎ پھر لیا ہوا؟ حاکم یوقنا نے کیا کیا؟

marfat.com

حاکم یوقنا نے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد میں اپنے مرحوم بھائی یوحنا کے گھر گیا اور یوحنا کی کتابوں کا خزانہ کھول کر آسمانی کتابوں، صحیفوں اور ملاحم کو پڑھا۔ تو ان میں میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ پائے اور ان کے وہ حالات مرقوم پائے جو رونما ہونے والے تھے۔ ان حالات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے زیادہ تر دشمن یہودی ہوں گے۔ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا: ہاں! واقعی قوم یہود کے لوگ ان کی عداوت میں غلو اور انتہا تک پہنچے تھے اور ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو دشمنوں پر فتح اور غلبہ عطا فرمایا۔

حاکم یوقنا نے مزید کہا: کہ میں نے ان کی ایک صفت یہ پائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے امتیوں کو وصیت فرمائے گا کہ یتیموں اور مسکینوں کی مدد و اعانت کرو۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا: کہ ہاں! اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں اس امر کا حکم فرمایا ہے:-

”وَ اَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ“

(پارہ: ۱۹، سورۃ الشعراء، آیت: ۲۱۵)

ترجمہ:- ”اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیرو مسلمانوں کے لیے۔“ (کنز الایمان)

پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ:-

”الْمُ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاْوَىٰ ۙ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۙ
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَىٰ ۙ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُقَهْرُ ۙ وَاَمَّا
السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۙ“

(پارہ: ۳۰، سورۃ الضحیٰ، آیت: ۶-۱۰)

ترجمہ:- ”کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی ۙ اور تمہیں اپنی محبت

میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی ۙ اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی

کر دیا ۵ تو تہم پر دباؤ نہ ڈالو ۶ اور منگنا کو نہ جھڑکو ۷ (کنز الایمان)

امین الامت، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مذکورہ آیات تلاوت فرمائیں تو ان آیات میں سے ایک آیت "وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ" ساعت کر کے حاکم یوقتا کو بہت تعجب ہوا۔ کیونکہ اس آیت میں لفظ "ضال" کی وجہ سے انہیں اشتباہ ہوا اور لفظ "ضال" کے ظاہری لفظی معنی "گمراہ" نے ان کو شک و شبہ میں ڈال دیا اور وہ حیرت زدہ ہو کر رو گئے۔ آیت میں وارد لفظ "ضال" کو اس کے ظاہری لفظی معنی پر محمول کرنے سے یہ آیت ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی لہذا انہوں نے اپنی حیرت اور شش و پنج کا اظہار کرتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے جو کہا وہ امام سیر و تواریخ حضرت علامہ واقدی نے اپنی کتاب میں اس طرح روایت فرمایا ہے کہ:-

"یوقتا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت صفت ضلالت کی کیوں بیان کی ہے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبہ والے ہیں۔"

(حوالہ:- فتوح الشام، از:- علامہ واقدی، ص: ۳۲۸)

لغت میں لفظ "ضال" کا ترجمہ گمراہ ہوتا ہے حالانکہ لفظ "ضال" دیگر بہت سے معنوں میں بھی مستعمل ہوتا ہے لیکن اکثر اس کا استعمال گمراہ کے معنی میں ہوتا ہے لہذا حاکم حلب حضرت یوقتا (عبداللہ) کے ذہن نے یہ بات قبول نہ کی۔ اس آیت کا ترجمہ ظاہری معنی سے دیکھیں:-

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

ظاہری لفظی ترجمہ:- "پایا آپ کو "ضال" پس ہدایت دی"

اس آیت کا آیات متشابہات میں سے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس آیت میں وارد لفظ "ضال" سے حضرت یوقتا جیسے نو مسلم کو بھی اشتباہ ہوا کہ نبی کریم، رؤف، رحیم، سرور عالم، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی، "ضال" یعنی "گمراہ" نہیں ہو سکتے، لہذا انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ

غیہ وسلم کی نسبت "خال" سے کیوں کی ہے؟ حالانکہ حضور اقدس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے لہذا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے لیکن چونکہ اللہ کے مقدس کلام میں ہی ان کی نسبت صفت "خال" سے کی گئی ہے لہذا اشتباہ پیدا ہوا ہے اور اس اشتباہ یعنی شک و شبہ کو دور کرنے اور آیت کی صحیح تفہیم حاصل کرنے کی غرض سے انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے سوال کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت میں لفظ "خال" کی نسبت کیوں فرمائی ہے؟

حضرت ابو عبیدہ نے حضرت یونقا کو جواب دیتے ہوئے اس آیت کا صحیح مفہوم اور جو تفسیر بیان فرمائی ہے وہ یقیناً ایمان افروز اور باطل سوز ہے، جس کو علامہ واقدی نے اس طرح روایت فرمایا ہے کہ:-

"پس کہا ابو عبیدہ بن الجراح نے معاذ اللہ یہ معنی اس کے نہیں ہیں بلکہ معنی یہ ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فِي تَيْبٍ مَحَبَّتِنَا قَهْدِنَاكَ إِلَى مُشَاهَدَتِنَا وَأَيْضًا سَهَلَ لَكَ الْوُضُوءُ إِلَى مَنَازِلِ الْمُكَاشِفَةِ وَوَقَفَكَ لِلرُّقُوفِ فِي مَقَامِ الْمُشَاهَدَةِ وَأَيْضًا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فِي بَحَارِ الطَّلَبِ عَلَى مَرَائِبِ الطَّلَبِ فَأَوَّكَ إِلَى سَوَاجِلِ الْحَقِّ وَقَرَّبَكَ إِلَى ظِلِّ حَقَائِقِ الصِّدْقِ"

◎ = حوالہ:- "فتوح الشام، از:- علامہ واقدی، اردو ترجمہ، ص: ۳۲۸ = ◎

ترجمہ:- "اور پایا ہم نے تم کو جھکنے والا اپنی محبت کے جنگل میں پس سیدھی راہ بتلا دی ہم نے تم کو بجانب اپنے دیدار اور حضور نبی کے اور نیز آسان کر دیا ہم نے تمہارے واسطے پہنچنے کو بجانب مقامات کھل جانے چھپے ہوئے بھیدوں کے اور باسامان کر دیا ہم نے تم کو واسطے ٹھہرنے حضور نبی میں اور پایا ہم نے تم کو جستجو کے دریاؤں میں تلاش کی کشتیوں پر پس پناہ

کے اور نزدیک کر دیا ہم نے تم کو بجانب سایہ اور پناہ حقیقتوں راستی کے۔“
(ترجمہ ماخوذ، از: حاشیہ، فتوح الشام، از: - علامہ واقدی، ص: ۳۲۸)

امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی **وَوَجَدَكَ ضَالًّا**
فہدیٰ کی مندرجہ بالا ایمان افروز تفسیر سماعت کر کے حاکم صاحب حضرت عبد اللہ یوقنا رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کے تمام شکوک کا ازالہ ہو گیا اور ان کو پورا اطمینان ہو گیا اور قلبی سکون و سرور حاصل ہوا۔
ان کا دل خوشی سے بھر گیا اور دل کی خوشی کے آثار چہرہ پر نمودار ہوئے اور ان کا چہرہ خوشی سے چمکنے
لگا کیونکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی جو تفسیر بیان کی تھی اس کا مضمون
توریت شریف کے حاشیہ کے مضمون کے عین مطابق تھا۔ جس کو حاکم یوقنا نے اپنے مرحوم بھائی
حضرت یوحنا علیہ الرحمۃ والرضوان کی کتاب میں پڑھا تھا۔ جس کا انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن
الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان الفاظ میں اعتراف کیا۔ (علامہ واقدی کی زبانی):-

”بس جب سنا یوقنا نے یہ کلام ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چمکنے لگا
چہرہ ان کا خوشی سے اور کہا کہ ایسا ہی پڑھا تھا میں نے شب گزشتہ کو اپنے بھائی
یوحنا کی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ پایا اس نے اس مضمون کو توریت کے حاشیہ
میں اور اب مضبوطی پکڑ لی تمہارے دین نے میرے دل میں اور جان لیا میں نے
کہ یہی دین حق ہے۔“

(حوالہ:- فتوح الشام، از:- علامہ واقدی، اردو ترجمہ، ۳۲۹)

ناظرین کرام! **وَوَجَدَكَ ضَالًّا** فہدیٰ کی جو تفسیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، اس تفسیر کو پھر ایک مرتبہ بغور مطالعہ فرمائیں بعدہ امام عشق
و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ والرضوان نے اس آیت کا جو ترجمہ فرمایا ہے اس
کو ملاحظہ فرمائیں۔ وہ ترجمہ اس طرح ہے:-

”اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔“ (کنز الایمان)

امام احمد رضا محدث بریلوی کا یہ ترجمہ گویا امین الامت، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ

martaf.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

حدیث کی بیان فرمودہ تفسیر کی ترجمانی کر رہا ہے۔ امام احمد رضا کا یہ ترجمہ حضرت ابو عبیدہ کی تفسیر اور تورات شریف کے حاشیہ کے عین مطابق ہے۔ یہ وہ ترجمہ ہے کہ جس کے ہر لفظ سے محبت و عظمت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نپک رہی ہے۔ امام احمد رضا کے اس ترجمہ پر اعتراض کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ امام احمد رضا محدث بریلوی کے اس ترجمہ کی امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر تائید فرما رہی ہے۔ امام احمد رضا بریلوی نے امین الامت حضرت ابو عبیدہ کے نقش قدم پر چل کر اور ان کے فیض سے مستفیض ہو کر ان کی بیان فرمودہ تفسیر کو ماخذ اور مشعل راوی بنا کر جو ترجمہ کیا ہے وہ سو فیصدی راست و درست اور خطا و غلطی سے محفوظ ہے۔ منافقین زمانہ نے شیاطین الانس کا طریقہ اپنا کر، بارگاہ رسالت میں گستاخی کرتے ہوئے اس آیت کا توہین آمیز ترجمہ کر کے گمراہ و بددین ہو کر راہ جہنم اختیار کی، جب کہ امام احمد رضا محدث بریلوی نے صحابہ کرام کے نقش قدم اختیار کر کے عظمت رسول کا اظہار کرتے ہوئے محبت آمیز ترجمہ کر کے راہ نجات و راہ خدا پائی ہے۔

بقول حضرت رضا بریلوی:-

تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا

وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے

تاریخ کے اوراق شاہد عادل ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ولادت شریف سے لے کر ظاہری نبوت ملنے تک یعنی چالیس (۴۰) سال کی عمر شریف تک مکہ معظمہ میں ہی تشریف فرما رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ معاشرے میں کفر، شرک، چوری، زنا، جوا، جادو، رسی، شراب نوشی، سود خوری، ذکیت، قتل و غارتگری، جھوٹ و کذب گوئی، بہتان تراشی، دھوکہ بازی، بددیانتی، مکر و فریب دہی، وغیرہ جیسے افعال قبیحہ و رذیلہ عام تھے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام برائیوں سے پاک و منزہ رہے۔ ان میں کی کسی بھی کوئی برائی کا کوئی بھی فعل، کبھی بھی اور کسی طرح بھی آپ سے صادر نہیں ہوا بلکہ ان میں سے کسی بھی مکروہ فعل کی گرو بھی آپ کے دامن عصمت تک نہ پہنچی۔ آپ پیدائش سے لے کر بعثت تک ہمیشہ

سے تشر اور بیزاری کا اظہار فرماتے رہے اور اپنے حلقہ کے لوگوں کو ان برے کاموں سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی تعلیم و تلقین فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کے سامنے کوئی شخص "لات اور عزہ" نام کے مشہور بتوں کی قسم کھا کر گفتگو کرتا تو آپ اس کی بات کا جواب نہیں دیتے تھے بلکہ اس شخص کو بت کی قسم کھانے سے منع فرماتے تھے اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم کھانے کا حکم اور نصیحت فرماتے تھے۔ آپ پیداؤی ہدایت یافتہ اور راہِ راست پر گامزن تھے۔ آپ نہ کبھی گمراہ تھے، نہ راہ اور شریعت سے بے خبر تھے اور نہ ہی کبھی پھٹتے ہوئے تھے۔ لیکن جن کے دلوں میں کبھی یعنی میڑھا پن اور بغض و عداوت رسول کا ترچھا پن ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیاتِ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور آیت کے ظاہری لفظی معنی سے غلط استدلال کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بختلگا، راہ اور شریعت سے بے خبر کہتے اور لکھتے ہیں۔

◎ "ضال" کا ترجمہ وارفتہ ہونے کی ایک مزید قرآنی شہادت:-

یہاں تک کا مطالعہ کرنے پر قارئین کرام کو یقین کے درجہ میں معلوم ہو چکا ہوگا کہ سورۃ الضحیٰ کی آیت شریف "وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ" میں وارو لفظ "ضال" کے معنی اور مراد برگز گمراہ کے نہیں بلکہ محبت میں خود رفته کے معنی میں ہے۔ حالانکہ اس ترجمہ کی تائید و توثیق میں قرآن و حدیث کے کثیر دلائل پیش کیے جاسکتے ہیں، لیکن طول تحریر کے خوف سے صرف ایک مزید قرآنی شہادت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

◎ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کے والد بے حد چاہتے تھے اس حسد کی بنا پر حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو ہلاک کروینے کی غرض سے کنوئیں میں ڈال دیا۔ پھر ایک قافلہ نے آپ کو کنوئیں سے نکالا، آپ کو مصر کے بازار میں فروخت کیا، مصر کے بادشاہ ریان بن ولید بن مزدان عملتقی نے آپ کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنی ہی مشک اور اتنی ہی حریر (ریشمی کپڑا) قیمت چکا کر آپ کو خرید لیا۔ پھر آپ کے دامن عصمت پر جھوٹے الزام کے وارغ لگانے کی کوشش کی گئی۔ جس کے نتیجے میں

بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر بتانے سے ملک کے تمام علماء و حکماء عاجز رہے۔ جب اس کی تعبیر یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیان فرمائی تو مصر کا بادشاہ آپ کا معتقد ہو گیا۔ آپ پر عائد کردہ جھوٹے الزامات سے آپ کی برأت ظاہر کی گئی۔ اور بادشاہ نے آپ کو اپنے اقارب و مصاحب میں عزت کا مقام دیا۔ رفتہ رفتہ آپ مصر کے بادشاہ ہو گئے اور اپنے بھائیوں سے آپ کا میل ملاپ بھی ہو گیا۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حال دریافت فرمایا تو آپ کے بھائیوں نے کہا کہ آپ کی جدائی اور فراق کے غم میں روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنا کرتہ اپنے بھائیوں کو عنایت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ کرتہ والد محترم کے چہرہ پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔

القصر! حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کرتہ لے کر ان کے بھائی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ ابھی سفر ہی میں تھے بلکہ کئی میل کی دوری پر تھے اور حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے ہی حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کرتے کی خوشبو محسوس کر لی اور آپ نے اپنے پوتوں اور پاس والوں سے فرمایا کہ:-

إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفْنَىٰ

(پارہ: ۱۳، سورہ یوسف، آیت: ۹۳)

ترجمہ:- "بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سٹھ (بہک) گیا ہے" (کنز الایمان)

حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یہ بات سن کر ان کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بہت تعجب ہوا کیونکہ یہ لوگ تو اس گمان میں تھے کہ اب حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کہاں ہیں؟ ان کا تو انتقال ہوئے عرصہ دراز گزر چکا ہے لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس وقت میں حضرت یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے ان کی حیات میں جو محبت اور وارفتگی تھی، وہ ابھی تک

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

برقرار ہے بلکہ ایسا ہی ہے اور اس وجہ سے وہ اپنی پرانی محبت اور وارثگی سے متاثر ہو کر ایسا کہہ رہے ہیں۔ ان کو اپنی پرانی محبت اور وارثگی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ لہذا انہوں نے حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا۔ کیا کہا؟ ان کا مقولہ قرآن مجید میں اس طرح منقول ہے کہ:-

”قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ“

⊙ = پارہ: ۱۳، سورۃ یوسف، آیت: ۹۵ = ⊙

ترجمہ:- ”بیٹے بولے، خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خودرنگی میں ہیں۔“
(کنز الایمان)

اس آیت میں بھی لفظ ”ضَلَّان“ وارد ہے لیکن یہاں یہ لفظ گمراہیت کے معنی میں نہیں ہے۔ ہم نے اس آیت شریف کے قبل بہت ہی اختصار کے ساتھ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ ناظرین کرام پورے واقعہ سے اچھی طرح باخبر ہو جائیں کہ اصل واقعہ کیا ہے؟ کس معاملہ میں گنجلو ہو رہی ہے؟ موضوع خن کیا ہے؟ اور کس امر کے ضمن میں یہ جملہ کہا گیا ہے؟ تاکہ آیت کریمہ کے سیاق و سباق سے آگہی ہو سکے اور آیت کا صحیح مفہوم سمجھ میں آسکے۔ حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ دنیوی محبت، قلبی لگاؤ اور محبت کی وارثگی کی وجہ سے ہی ”جسم پسز“ کی خوشبو محسوس کی تھی اور فرمایا تھا کہ ”میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں“۔ اور ان کے اس محبت بھرے جملے اور جذبہ وارثگی کو وجہ بنا کر حضرت یعقوب کے بیٹوں اور پوتوں نے کہا تھا کہ ”اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ“ یعنی ”آپ اپنی اسی پرانی خودرنگی میں ہیں“۔ یہاں ”ضَلَّان“ کا ترجمہ گمراہی کرنا ہرگز صحیح نہیں کیونکہ حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کے فرزندوں نے کسی اعتقاد فاسد یا ارتکابِ قبیحہ کی وجہ سے ”ضال“ نہیں کہا تھا۔ ایک شنیق و محبت باپ کی اپنے لخت جگر کے ساتھ بے انتہا محبت کی وجہ سے کہا تھا۔ لہذا یہاں ”ضال“ بمعنی ”وارثتہ“ اور ”ضلال“ بمعنی ”وارثگی“ ہی مستعمل ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل کی آیت کریمہ۔

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ - میں وارد لفظ "ضال" بھی برگز برگز "گمراہ" یا "بھٹکتا" یا "راہ سے بے خبر" کے معنی میں نہیں بلکہ "اپنی محبت میں خورد رفتہ" کے ہی معنی میں لازماً ماننا پڑے گا۔

”سورۃ الفتح اور سورۃ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

میں وارد لفظ ”ذنب“ بمعنی گناہ نہیں“

اوراق سابقہ میں آیات تشابہات کے عنوان کے ضمن میں ہم نے قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ۷ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ:-

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِينَةٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ
ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

ترجمہ:- ”وہ جن کے دلوں میں کچی ہے دو اشتیاد والی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو“

دور حاضر کے منافقین اس آیت کریمہ کے سو فیصدی بصد اق ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ ان کا ہمیشہ یہی وتیرہ اور شیوہ رہا ہے کہ آیات تشابہات کے پیچھے پڑنا یعنی آیات تشابہات کو بطور سند اور دلیل پیش کر کے گمراہی پھیلانے کا پہلو ڈھونڈھنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا۔ قرآن مجید کی تشابہات آیتیں نہیں مرغوب خاطر ہیں۔ گویا کہ وہ اس حقیقت کا بند لفظوں میں اعتراف و اظہار کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ۷ میں ”وہ جن کے دلوں میں کچی“ ہے کا جوڑ کر ہے، وہ اور کوئی نہیں بند ہم ہیں۔ کیونکہ وہ ہر جگہ آیات تشابہات و درجہ بن کر انبیائے کرام اور اولیائے عظام کی شان و وقار گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً سورۃ النجم کی آیت ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ جس کی تفصیل و تفسیر ابھی ابھی ہم نے پیش خدمت کی

ہوئے تھے کہ میں نے جو قرآن شریف کی تلاوت کی آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں
بے شک اس آیت کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ مجھے بخشے گا۔

آیت نمبر ۱۔ **وَأَسْتَغْفِرُ لِنَفْسِي وَاللَّيْمِينِ وَالْمُؤْمِنَاتِ**

(پارہ ۳۰ سورہ شوریٰ آیت ۱۷۷-۱۷۸)

میں نے اپنے لیے اور لایمینوں کے لیے اور ایمان والیوں کے لیے
استغفار کیا ہے۔

(حوالہ: ترجمہ قرآن، ترجمہ آیت، مبین محمود الحسن، ویمنش، صدر المدین
پبلیشرز، لاہور، ۱۹۸۲ء، صفحہ ۱۷۷)

آیت نمبر ۲۔ **لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ**

(پارہ ۳۰ سورہ فتح، آیت ۲)

تو غفران فرمائے۔

(۱) "اللہ تعالیٰ آپ کی ہر گنہگار کی معاف فرمائے"

(حوالہ: ترجمہ قرآن، ترجمہ آیت، مبین محمود الحسن، ویمنش، صدر المدین
پبلیشرز، لاہور، ۱۹۸۲ء، صفحہ ۱۷۷)

(۲) "اللہ تعالیٰ آپ کے گنہگاروں کو معاف فرمائے جو آپ سے پہلے گنہگار ہو چکے ہیں"

(حوالہ: ترجمہ قرآن، ترجمہ آیت، مبین محمود الحسن، ویمنش، صدر المدین
پبلیشرز، لاہور، ۱۹۸۲ء، صفحہ ۱۷۷)

میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ میرے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔
میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ میرے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔
میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ میرے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔
میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ میرے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔
میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ میرے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔
میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ میرے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔
میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ میرے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔
میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ میرے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔
میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ میرے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔
میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ میرے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔

بر اندام ہو جاتا ہے۔

ارادہ تو یہ تھا کہ آیت شریف "وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ" کی طرح ان دونوں آیات کی تفصیلی وضاحت قارئین کرام کی ضیافت طبع کی خاطر ارقام کریں لیکن سورہ وا لفظی کی آیت کی قدرے طویل وضاحت ہو جانے کی وجہ سے نیز ہمارے اس مقالہ کا جو عنوان یعنی "بشر" اس کے ضمن میں سورہ الکہف اور سورہ حم سجدہ کی آیت "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کے تعلق سے ابھی کچھ لکھنا باقی ہے۔ لہذا مندرجہ بالا دونوں آیتوں کے تعلق سے بہت ہی اختصاراً وضاحت پیش خدمت ہے۔ ہم اپنی اس کوتاہی پر محترم قارئین کرام سے معذرت خواہ ہیں۔

قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا جامع اور مانع کلام ہے کہ ہر کس و ناکس میں اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ بلکہ قرآن مجید کی آیتوں کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے وسیع پیمانے پر علم و حکمت درکار ہے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید خالص عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ عربی زبان دنیا کی تمام زبانوں سے افضل، ممتاز، فصیح، بلغ، اور کثیر المعنی الفاظ و لغت کی حامل ہے۔ عربی زبان کی بے مثال وسعت کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا کہ اس میں ایک چیز کے بہت سے نام اور بہت سی لغات پائی جاتی ہیں۔ ایک ہی مفہوم کو سینکڑوں عنوانات اور الفاظ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک ہی لفظ کے متعدد معنی اور مطلب ہوتے ہیں اور کون سا لفظ اس معنی و مراد میں استعمال ہوا ہے اسی پر جملہ کی صحیح تفہیم کا دارومدار ہے۔ مثلاً:-

○ جملہ کی بندش و ترکیب باعتبار اصطلاح نحو اور الفاظ کا ربط اور ان کا باہمی تعلق کیا ہے؟

○ جملہ کے الفاظ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اور ان دونوں معنوں میں کیا فرق ہے؟

○ جملہ کا پچھلے اور اگلے جملہ کے ساتھ کیا ربط ہے؟

○ جملہ کے کلموں کی نوعیت اور وجہ تکرار کیا ہے؟

○ جملہ استعمال میں ہے؟ خبریہ ہے؟ شرطیہ ہے؟ صغیریہ ہے؟ فعلیہ ہے؟

مترادف ہے؟ معطوف ہے؟ معلل ہے؟ مستأنف ہے یا انشائیہ؟

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

- ⊙ جملہ کا بطور محاورہ، مثل یا مثال استعمال ہوا ہے یا نہیں؟
- ⊙ جملہ میں وارد تمام الفاظ میں سے وہ اہم لفظ کہ جس لفظ کی صحیح تفہیم اور مراد پر پورے جملے کے مفہوم کا انحصار ہے، وہ لفظ حقیقتاً استعمال ہوا ہے یا مجازاً؟
- ⊙ جملہ میں کسی فرد یا شئی کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ بطور تشبیہ ہے؟ یا استعارہ ہے؟ اور اگر بطور استعارہ ہے تو استعارہ بالتشبیہ ہے یا استعارہ بالکنایہ ہے؟
- ⊙ جملہ سے تعظیم کی وجہ تنبیہ کرنا ہے؟ بشارت دینا ہے؟ وعید سنانا ہے؟ یا یہ جملہ بطور زجر یا توبیخ ہے؟ یا اظہار حقیقت کے لیے ہے؟ یا تسلیج ہے؟
- ⊙ جملہ بطور طنز کہا گیا ہے؟ امر و نہی کی بنا پر کہا گیا ہے؟ یا تادیب و تعلیم بنا کہا گیا ہے؟
- ⊙ اگر جملہ امر و نہی کی بناء پر کہا گیا ہے تو اس کا حکم مخصوص ہے یا عام؟
- ⊙ متکلم کا اب دلچسپ کیا ہے؟ تاکہ اس کی مراد کا اندازہ لگایا جاسکے کہ کیا کہنا چاہتا ہے؟
- ⊙ متکلم اور مخاطب کے درمیان کیا رشتہ یا تعلق ہے؟
- ⊙ متکلم کی علمی، ادبی، خاندانی، شہوتی، سیاسی، مذہبی، اقتداری، تسلی، اخلاقی حیثیت اور اس کا ہر پہلو سے کیا رویہ ہے؟
- ⊙ مخاطب کی بھی مذکورہ کیا حیثیت اور رویہ ہے؟
- ⊙ جملہ سے مخاطب کو رشد و ہدایت، پسند و نصیحت، مشورہ یا وصیت مراد ہے؟ یا اور کچھ؟
- ⊙ جملہ سے مخاطب کی تکریم مراد ہے یا تذلیل؟
- ⊙ اگر تکریم مراد ہے تو صرف اظہار اہمیت مراد ہے یا ارتقاع و درجات؟
- ⊙ اگر تذلیل مراد ہے تو تذلیل خفیف بارادہ اصلاح مراد ہے یا تذلیل شدید برائے انقطاع تعلق اور ذلیل و خوار کر کے مردود و پارگاہ کرنا مراد ہے؟
- مندرجہ بالا چند اصول و ضوابط انسانوں کے درمیان آپس میں بولی جانے والی لغت کو مدنظر رکھ کر متعین کیے گئے ہیں۔ جو اہل عرب میں عربی زبان کے ادب کے تحت رائج ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات کے کلمے اور الفاظ کو اس کے صحیح معنی،

مطلب اور مراد میں سمجھنے کی نوبت پیش آئے گی، تب چند قیود اور ضوابط کا افسانہ ہو جائے گا۔ مثلاً قرآن کی آیت محکمہ، متشابہ، مقدمہ، مؤخرہ، عامہ، خاصہ، مجملہ، مبینہ، ناسخہ، منسوخہ، مطابقہ، منطوقہ، مبہمہ، مشہورہ وغیرہ کا فرق کرنا۔ علاوہ ازیں ایجاز، اطناب، حصر، مبتدأ، خبر، کنایہ، تعریف، حقیقت، مجاز، انشاء، اختصار سے بھی آگہی رکھنا اشد ضروری ہے، ورنہ قرآن کا صحیح مفہوم معلوم نہ ہو سکے گا اور غلط ہوگا۔

مندرجہ بالا اصول جو ہم نے جملہ کے تعلق سے ارقام کیے ہیں، ان میں نحوی اصطلاح کے الفاظ جو قارئین کو قائل انقبہ محسوس ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ کس صاحب کی سمجھ میں نہ آئیں، لہذا ذیل میں "محل لغت" کے کالم میں ان دقیق و مشکک الفاظ کے معنی پیش

خدمت کرتے ہیں

<http://t.me/Tehqiqat>

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

”حل لغت“

نمبر	دقیق الفاظ	معنی اور وضاحت
۱	إِصْطِلَاحٌ	کسی لفظ کے عام معنوں کے علاوہ کوئی خاص مفہوم مقرر کر لینا، مرادی معنی = Term =
۲	إِسْتِعَارَةٌ	علم بیان کی اصطلاح میں مجاز کی ایک قسم جس میں کسی لفظ کے مجازی اور حقیقت معنی کے درمیان تشبیہ کا علاقہ ہوتا ہے اور بغیر حروف تشبیہ کے حقیقی معنی کو مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ = Trope, Metaphor =
۳	إِسْتِعَارَةٌ بِالتَّصْرِیحِ	اگر مشبہ بہ معنی جس کے لیے تشبیہ دی گئی ہے اس کا ذکر کریں اور مشبہ یعنی جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے اس کو چھوڑ دیں یا مضاف یعنی منسوب کا ذکر کریں اور مضاف الیہ یعنی جس کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس کا ذکر ترک کرنا۔
۴	إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ	مشبہ بہ کو چھوڑ کر صرف مشبہ کا ذکر کرنا۔
۵	إِطْنَابٌ	بات کو طول دینا۔ = Lengthen One's Discourses =
۶	أَمْرٌ وَنَهْيٌ	حکم کرنا اور ممانعت کرنا = Order and Prohibition =
۷	إِنْقِطَاعٌ تَعْلَقٌ	تعلق ختم کرنا، رشتہ کاٹنا، تعلق توڑنا۔ = Cut off Relationship =
۸	إِنْجَازٌ	بات کو مختصر کرنا، کم لفظوں میں زیادہ مضمون بیان کرنا = Abridging =
۹	تَأْدِيبًا	اوب سکھانا، علم زبان سکھانا۔ = Chastisement =

علم نحو کی اصطلاح میں جملے کے ہر لفظ کے متعلق بتانا کہ وہ اسم، صفت، فعل وغیرہ ہے اور ان کا باہمی تعلق	تَرْكِيْب	۱۰
=Composition=		
ذلیل و رسوا کرنا، خوار کرنا، بے عزت کرنا، ذلت	تَذْلِيْل	۱۱
=Abusement=		
چھیڑنا، کنائے سے بات کرنا، اعتراض	تَقْرِیْض	۱۲
=Opposition=		
بات کرنا، بولنا، کلام کرنا، گفتگو، بات چیت	تَكَلْم	۱۳
=Conversation=		
عزت کرنا، تعظیم کرنا، ادب کرنا،	تَكْرِیْم	۱۴
=Honouring=		
مشابہت دنیا، تمثیل، ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند ٹھہرانا	تَشْبِيْه	۱۵
=Simile=		
کلام میں کسی گزشتہ قصہ کی طرف اشارہ کرنا	تَلْمِيْح	۱۶
ملامت، جھڑکی، سرزنش، طنز	تَوْبِيْح	۱۷
=Reproach, Speaking Harshly=		
وہ جملہ جس میں سوال پایا جائے۔	جُمْلَهٗ اِسْتِفْهَامِيَّه	۱۸
=Interrogative Sentence=		
علم نحو کی اصطلاح میں وہ جملہ جس میں سچ جھوٹ کا احتمال نہ ہو	جُمْلَهٗ اِنْشَائِيَّه	۱۹
وہ جملہ جو شرط اور جزا سے مل کر پورا ہو۔	جُمْلَهٗ شَرْطِيَّه	۲۰
وہ جملہ جس میں کسی کی صفت بیان کی گئی ہو۔	جُمْلَهٗ صِفِّيَّه	۲۱
=Attributive sentence=		

۱۲	جُمْلَه مُسْتَانِفَہ	وہ مستقل جملہ جس کو سابقہ جملہ سے معنا تو ربط ہو مگر لفظاً کچھ بھی تعلق نہ ہو۔ =Obedient Sentence=
۲۳	جُمْلَه مُعْتَرِضَہ	وہ زائد فقرہ یا بات جسے ہٹا دینے سے مطلب میں کوئی فرق نہ آئے یعنی ابھی ایک بات پوری نہ ہوئی تھی کہ دوسرا جملہ درمیان میں بول دیا جائے اور وہ جملہ ایسا ہو کہ نہ بولیں تو بھی کلام میں خلل نہ پڑے۔
۲۴	جُمْلَه مُعْطُوفَہ	وہ جملہ جو حرف عطف کے بعد واقع ہو =Conjoined Sentence=
۲۵	حَضْر	گھیرنا، احاطہ کرنا، منحصر کرنا =Siege=
۲۶	رَبْط	بندش، احاطہ کرنا، منحصر کرنا =Connection=
۲۷	رَجْر	ڈانٹ ڈپٹ، دھمکی، تشبیہ، جھڑکی، روک، ملامت، =Threatening=
۲۸	مُتَكَلِّم	کلام کرنے والا، بات کرنے والا = a speaker, Declaimer=
۲۹	مُخَاطَب	جس سے خطاب کیا جائے، جس سے بات کی جائے۔ =Addressee=
۳۰	مُبْتَدَا	علم نحو کی اصطلاح جملہ اسمیہ کا پہلا جز، جس کے متعلق کوئی خبر دی جائے۔ =Subject=
۳۱	مَجَازاً	وہ جس کی حقیقت نہ ہو، کسی کلمہ کے غیر حقیقی معنی کو اصلی معنوں کے ساتھ نسبت کرنا، فرضی، فرض کیا ہوا، مرادفی =Hyperbolical=

۳۲	نَحْوُ	وہ علم جس سے کلمات کو جوڑنا توڑنا، اور ان کا باہمی تعلق معلوم ہو۔ جملوں کا علم =Syntax=
۳۳	وَعِيدٌ	سزا دینے کی دھمکی، سزا دینے کا وعدہ =Threatening, Predicting=
۳۴	كُنَّيَاہ	ایما، رمز، اشارہ، مبہم بات =being Ambiguous In Speech=
۳۵	آيَةُ مُقَدِّمَةٌ	وہ آیت جو پہلے نازل ہوئی یا جو مضمون کے شروع میں آئے =Preface=
۳۶	آيَةُ مُؤَخَّرَةٌ	جو بعد میں نازل ہو یا جس کا ذکر بعد میں آئے =Posterior, Delayed=
۳۷	آيَةُ مُجْمَلَةٌ	وہ آیت جس کے معنی تفصیل کے محتاج ہوں۔
۳۸	آيَةُ مُبَيِّنَةٌ	جو صاف اور کھول کر بیان کی گئی ہو۔ مطلب ظاہر ہو۔ =Evident Verse, Unequivocal Verse=
۳۹	آيَةُ مَنسُوخَةٍ	جس کا حکم واپس لے لیا گیا ہو، رد کر دیا گیا ہو، روک دیا گیا ہو، ناپود کر دیا گیا ہو، ترک کر دیا گیا ہو =Cancelled, Obliterated=
۴۰	آيَةُ نَاسِخَةٍ	وہ آیت جس کی وجہ سے کسی آیت یا آیتوں کا حکم رد کر دیا گیا ہو۔ منسوخ کرنے والی، رد کرنے والی =an amanuensis=
۴۱	آيَةُ مُطْلَقَةٍ	وہ آیت جو مقید نہ ہو جس کا حکم مطلق ہو =Liberated=

۴۲	آیۓ مَفْهُومَة	وہ آیۓ جو اچھی طرح سمجھ میں آسکے، جس کا معنی، مطلب، ارادہ مراد، اور مفہوم آسانی سے معلوم ہوسکتے۔ =Understood=
۴۳	آیۓ مُبْهَمَة	جس کا مطلب صاف نہ ہو، وضاحت ضروری ہو۔ =Ambiguous, Equivocal=

⊙ عربی زبان کی لغت کے متعلق :-

دنیا کی کسی بھی زبان کی لغت (Dictionary) عربی زبان کی طرح بے مثال وسعت کی حامل نہیں۔ عربی لغت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور ایک معنی کے کئی الفاظ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے عربی زبان کی لغت اتنے وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے کہ عقلیں حیران ہیں۔ قارئین کرام کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ صرف ایک معنی میں اتنی کثیر تعداد میں الفاظ وارد ہیں کہ صرف ایک معنی کے متفرق الفاظ سے ہی ایک مستقل کتاب طبع کی جاسکتی ہے اور اس قسم کی سینکڑوں کتابیں زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ چند اقتباسات پیش خدمت ہیں :-

- ⊙ امام اجل، خاتم الحفاظ، علامہ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی اپنی کتاب ”مزہر“ میں اور علامہ زبیدی ”مختصر کتاب التحلیل“ میں فرماتے ہیں :-
- ⊙ دو حرفی عربی لغت کی تعداد..... 750 (سات سو پچاس) ہے۔
- ⊙ تین حرفی عربی لغت کی تعداد 19,650 (انیس ہزار، چھ سو پچاس) ہے۔
- ⊙ چار حرفی عربی لغت کی تعداد..... 3,03,400 (تین لاکھ، تین ہزار، چار سو) ہے
- ⊙ پانچ حرفی عربی لغت کی تعداد..... 6,03,75,600 (چھ کروڑ، تین لاکھ، چھتر ہزار چھ سو) ہے۔

مندرجہ مذکورہ تعداد صرف دو تین، چار اور پانچ حرفی الفاظ کی ہے، پانچ حروف سے زیادہ

حرف والے الفاظ کی تعداد کا اس میں اضافہ کرنے سے یہ تعداد بہت ہی وسیع ہو جائے گی۔

تیر، کوار، نیزہ، شیر، اونٹ، بکری، سانپ، صبح و شام، آفت، مصیبت، وغیرہ الفاظ کہ جن کا ذکر کلام و گفتگو میں بار بار آتا ہے، ان تمام کے لیے ایک ایک لفظ کے اتنے وسیع پیمانہ پر پھیلے ہوئے لغت ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے۔ ابن خالویہ کہ جن کا شمار عربی لغت کے ماہرین فن میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عربی لغت سے شہر (City) کے لیے پانچ سو نام جمع کیے ہیں، اور سانپ (Snake) کے دو سو (۲۰۰) نام تجویز کر کے جمع کیے ہیں۔ عربی لغت کے ایک اور ماہر فن حمزہ اصبہانی کا کہنا ہے کہ میں نے آفت اور مصیبت کے لیے موزوں ہوں ایسے کل چار سو (۴۰۰) نام لغت عرب سے جمع کیے ہیں۔ (حوالہ:- ”السنجد“ ص: ۱۳)

عربی لغت کے مشہور عالم اور رئیس ارباب فن لغت ”صاحب بن عباد“ کا واقعہ منقول ہے کہ ان کو کسی بادشاہ نے اپنے یہاں طلب کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے فن لغت کی کتابیں اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ اگر میں یہاں سے منتقل ہو کر کہیں جاؤں تو مجھے ساٹھ (۶۰) اونٹ اپنی فن لغت کی کتابیں منتقل کرنے کے لیے چاہئیں۔ (حوالہ:- ”السنجد“ ص: ۱۳)

یہاں تک ہم نے صرف عربی لغت کے متعلق گفتگو کی لیکن دنیا کی ہر زبان میں ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ اردو زبان کی ہی مثال لیجیے۔ اردو زبان میں بھی اس خصوصیت کی جھلک نظر آتی ہے کہ اس کا ایک لفظ کئی معنوں کا حامل ہوتا ہے۔ مثلاً:-

رنگ = (۱) زن (۲) لون (۳) رنگت (۴) روپ (۵) انداز (۶) طرز (۷) روشن (۸) قسم (۹) نوع (۱۰) روغن (۱۱) بہار (۱۲) بخو بصورتی (۱۳) رونق (۱۴) مانند (۱۵) نظیر (۱۶) دستور (۱۷) قاعدہ (۱۸) رسم (۱۹) طریقہ (۲۰) مزہ (۲۱) لطف (۲۲) خنخل (۲۳) خمار (۲۴) نشہ (۲۵) طاقت (۲۶) قوت (۲۷) سلوک (۲۸) برتاؤ (۲۹) ہمسر (۳۰) جوڑ (۳۱) مکر (۳۲) فریب (۳۳) حیلہ (۳۴) ہنسی (۳۵) ہنرات (۳۶) کھیل (۳۷) کھیل (۳۸) کھیل (۳۹) کاتا

(۳۰) کیفیت (۳۱) حالت (۳۲) حال (۳۳) خوشی (۳۴) خوشحالی
(۳۵) مسرت (۳۶) تماشا (۳۷) سماں (۳۸) گنجے کی آنکھوں بازیوں کے نام
(۳۹) تاش کی چاروں بازیوں کے نام (۵۰) خون (۵۱) لبو (۵۲) ترب
Troop - یعنی ساٹھ یا اتنی سواروں کی جماعت (۵۳) ٹرپ Tramp - یعنی تاش
میں انگ مقرر کر کے کھیلنا۔ (حوالہ :- فیروز اللغات، ص: ۷۲۰)

جب اردو زبان میں ایک لفظ کے پچاس سے زائد معنی ہو سکتے ہیں تو عربی زبان تو بہ
اعتبار لغت تمام زبانوں سے فصیح و بلیغ اور کثیر المعنی لغت کی حامل ہے۔ جیسا کہ اوپر کے فقرہ
میں عرض کیا ہے کہ ”شہر“ کے لیے پانچ سو (۵۰۰) اور ”سانپ“ کے لیے دو سو (۲۰۰) اور
”آفت“ کے لیے چار سو (۴۰۰) نام لغت عرب میں وارد ہیں۔ ہم نے اردو زبان کے لفظ
”رنگ“ کے لغت سے پچاس سے بھی زائد معنی پیش کیے ہیں۔ اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم
لفظ ”رنگ“ کو پچاس الگ الگ معنوں میں استعمال کر کے بطور مثال پچاس جملے لکھ دیتے۔

● لغت کے تعلق سے کی گئی گفتگو کا ماحصل :-

دنیا کی ہر زبان کی لغت میں ایک لفظ کے متعدد معنی ہونے کی خصوصیت ہے۔ کسی لفظ
کو ہر جگہ صرف ایک ہی معنی میں استعمال کرنے سے بڑی گڑبڑی پیدا ہوگی۔ کسی لفظ کو ہر جگہ
صرف ایک ہی معنی میں وہی استعمال کرے گا۔ جو علم و ادب سے نا آشنا اور فہم لغت سے
ترا جاہل ہوگا۔ اہل عرب کی روزمرہ بولی جانے والی عربی زبان کی لغت کی وسعت سے جب ہم
متحیر ہیں بلکہ ہماری عقلیں بھی دنگ ہیں تو پھر قرآن مجید کی عربی زبان کی لغت کا کیا عالم ہوگا؟
اب ہم ہمارے موضوع سخن کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔

سورہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی آیت نمبر ۱۹، اور سورہ الفتح کی آیت: ۲، میں
جو لفظ ”ذَنْبٌ“ وارد ہے اس کا منافقین زمانہ ”گناہ“ اور ”خطا“ معنی اخذ کرتے ہیں اور آیت کا
ترجمہ تو ہیں و تنقیص رسول پر مشتمل کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفسرین عظام کی اصطلاح
کے مطابق یہ دونوں آیتیں ”مشابہات“ سے ہیں، جن کی مناسب تاویل کرنی ضروری اور

لازمی ہے۔ ان آیات سے الفاظ کے ظاہری لفظی معنوں کو ہرگز دلیل نہیں بنا سکتے۔ دوسری بات یہ کہ لفظ "ذَنْبٌ" کے کئی دیگر معنی بھی ہیں۔

لغت عربی کی مشہور کتاب "السنجد" کے ص: ۲۵۶ پر لفظ "ذَنْبٌ" کے معنی "ذُومٌ" کے وارد ہیں۔ علاوہ ازیں "ذَنْبٌ" مصدر سے مشتق لفظ "الذَنْبَانَةُ" کے معنی "قرابت" کے لکھے ہوئے ہیں۔ عام عربی بول چال میں لفظ "ذَنْبٌ" کا استعمال گناہ اور خطا کے علاوہ ذُومٌ، قرابت، وغیرہ معنی میں ہوتا ہے۔ مثلاً:-

(۱) ذَنْبُ الْكَلْبِ = کتے کی ذُوم

(۲) ذَنْبَانَةُ الزَّيْدِ = زید کے قرابت والے

"ذَنْبٌ" کے دیگر معنوں میں ① اتباع کرنے والا یعنی قبیح ② پیروی کرنے والا Follower ③ ذریت یعنی اولاد اور نسل ④ بعد میں آنے والا وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔

"ذُومٌ" کو "ذَنْبٌ" اس لیے کہا جاتا ہے کہ جانور کی ذُوم اس کے جسم کی تابع ہوتی ہے۔ جہاں جسم جائے گا، اس کی پیروی کرتے ہوئے ذُوم بھی جائے گی۔ علاوہ ازیں ذُوم جسم کے بعد جائے گی۔ پہلے جسم جائے گا بعد میں ذُوم جائے گی۔ اسی طرح قرابت، ذریت، اولاد اور نسل کو "ذَنْبٌ" کہنے کی یہی وجہ ہے کہ کسی شخص کی اولاد اور نسل اس کے بعد ہوتی ہے۔ ہر شخص مقدم یعنی پہلے ہوتا ہے اور اس کی اولاد و نسل مؤخر یعنی بعد میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے یعنی امتی کو بھی اسی وجہ پر محمول کر کے "ذَنْبٌ" کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جو متبوع ہوتا ہے یعنی جس کی پیروی کی جاتی ہے وہ پہلے کسی امر پر عمل کرتا ہے اور قبیح یعنی تابع یعنی پیروی کرنے والا متبوع کی متابعت میں بعد میں عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب نماز فرض کی گئی تو سب سے پہلے حضور اقدس، سید المصومین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی پھر آپ کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نماز پڑھی۔ المختصر! دونوں آیات میں وارد لفظ "ذَنْبٌ" کا ترجمہ "گناہ" یا "خطا" نہیں ہے۔ بلکہ:-

⑤ "وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ"

(سورہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)، آیت ۱۹)

marfat.com

ترجمہ ایمانی:- ”اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمانوں مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو“ (کنز الایمان)

﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾

(سورۃ الفتح، آیت: ۳)

ترجمہ ایمانی:- ”تا کہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے انگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے“ (کنز الایمان)

تفسیر:- ”اور تمہاری بدولت اُمت کی مغفرت فرمائے۔“ (تفسیر خازن اور تفسیر روح البیان، بحوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۹۲۰)

امام عشق و محبت، امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے مندرجہ بالا دونوں آیات مقدسہ کے ایسے ایمان افروز تراجم فرمائے ہیں کہ ایمان تازہ ہونے کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کی بھی مخالفت و خلاف ورزی نہیں ہوتی بلکہ مطابقت و موافقت ہوتی ہے۔ منافقین زمانہ نے ان دونوں آیات کے علی الترتیب مندرجہ ذیل تراجم کیے ہیں:-

(۱) ”اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے“ (ترجمہ از:- مولوی محمود الحسن، دیوبندی)

(۲) ”تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمادے“

(ترجمہ:- مولوی اشرف علی تھانوی)

مندرجہ بالا دونوں ترجموں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ”گناہ“ اور ”خطا“ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ جو قرآن مجید کے ارشاد کے سراسر خلاف ہے کیونکہ:-

”گناہ“ اور ”خطا“ اسی سے سرزد ہوتے ہیں جو راہ سے بہک کر بے راہ چلتا ہے۔ سیدھی راہ یعنی صراطِ مستقیم پر قائم رہنے والے یعنی انبیائے معصومین سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا کیونکہ وہ راہ سے بہکتے نہیں اور بے راہ چلتے نہیں۔ رہے وہ لوگ جن سے گناہ واقع ہوتے ہیں جو راہِ حق سے بہکتے ہیں اور بے راہ بھی چلتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔

اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید کی سورۃ النجم، آیت: ۴، میں

صاف ارشاد ہے کہ:-

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ

ترجمہ:- ”تمہارے صاحب نہ بھٹکے، نہ بے راہ چلے۔“ (کنز الایمان)

یعنی آپ کی ذات گرامی نے نہ کبھی کوئی گناہ کیا ہے اور نہ ہی آپ سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے۔ یہ کسی کے گھر کی بات نہیں بلکہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ جو لوگ گناہ اور خطا کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان کے پاس سورۃ النجم کی اس آیت کا کیا جواب ہے؟

☆ ایک ضروری نکتہ:-

سورۃ الفتح کی مذکورہ آیت کے ترجمہ میں ہم نے منافقین زمانہ کے دو پیشواؤں (۱) مولوی اشرف علی تھانوی اور (۲) مولوی محمود الحسن دیوبندی کے تراجم پیش کیے۔ ان تراجم میں حضور اقدس سید المصومین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت ایسا لکھا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ آپ کی:-

”اگلی پچھلی خطائیں اور وہ گناہ معاف کرے جو آگے ہو چکے اور جو پیچھے رہے۔“ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)۔

مندرجہ بالا تراجم کے رد و ابطال میں بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔ بلکہ اسی موضوع پر ہی ایک ضخیم کتاب لکھی جاسکتی ہے لیکن ہماری اس کتاب کا موضوع ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیت کریمہ کی وضاحت اور تشریح کرنا ہے، کچھ وضاحت ہو چکی ہے اور ابھی بہت چھوٹکی باقی ہے لہذا سورۃ الفتح کی آیت کریمہ ”كَيْفَ يَزِيْرُكَ اللّٰهُ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا أَخَّرُ“ کا منافقین زمانہ کے پیشواؤں نے جو تراجم کیے ہیں اس کے تعلق سے بالخصوص یہ دو نکتے ہونے اجمالاً اور کتاباً کچھ اہم نکات کی طرف قارئین کو راہنہ و توجہ دلاتے ہیں۔ ان نکتوں اور اہل علم حضرات ان نکات کے ذریعہ وسیع اور مفصل وضاحت و تشریح کر کے منافقین زمانہ

کے نہ پرہیزگاروں کے marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

”وَمَا تَأَخَّرَ“ غیر مقید ہونے کی وجہ سے اس کی معادنا قیامت بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا یہاں آیت کا ترجمہ گناہ اور خطا میں ہرگز درست نہیں کہ کیونکہ ”وما تاخر“ کے غیر مقید ہونے نے یہ ذہن دیا ہے اور خطا صادر ہونے کا کوئی امکان نہیں تو مستقبل میں اور وہ بھی قیامت تک گناہ کا صادر ہونا محال اور غیر ممکن ہے۔ البتہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کے مؤمنین ماضی میں بھی ہوئے ہیں۔ اور مستقبل میں قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اسی حقیقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے امام عشق و محبت، امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس آیت کا حسب ذیل ایمان افروز ترجمہ فرمایا ہے کہ:- ”تا کہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے“ (کنز الایمان)

اس ایمانی ترجمہ میں ”تمہارے اگلوں کے“ سے مراد وہ مؤمن امتی ہیں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات پاک کے زمانہ میں انتقال فرمایا یعنی وہ حضرات اس دنیا سے پردہ کرنے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے تھے لہذا وہ ”تمہارے اگلوں کے“ میں شمار ہوں گے اور اس ایمانی ترجمہ میں ”تمہارے پچھلوں کے“ سے مراد وہ تمام مؤمنین ہیں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد انتقال کیا یعنی انہوں نے حضور اقدس کے بعد دنیا سے کوچ کیا اور قیامت کوچ کرتے رہیں گے لہذا وہ ”تمہارے پچھلوں کے“ میں شمار ہوں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ”اگلے“ اور ”پچھلے“ امتیوں کے گناہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس کے سبب سے معاف فرمائے گا۔

منافقین زمانہ میں عقل و فہم کا ایسا فقدان ہے کہ ”اگلے“ گناہ کے ساتھ ”پچھلے“ کو بھی جوڑ دیا اور ”پچھلے“ نے ان کو ایسا پچھاڑا کہ پچھا چھڑانا بھی ان کے لیے پیچیدہ ہو گیا۔
المختصر! منافقین زمانہ پر قائم کیے گئے سوالات کا سوال نمبر: ۴، ہر پہلو سے ان کو بھاری پڑتا ہے۔ اسی ایک سوال سے ان کے حواس باختہ ہو جائیں گے اور گیارہ سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ان کا دم گیا کا گیارہ جائے گا۔

◎ امام احمد رضا کے ترجمہ پر اعتراض کے امکان کا مقدم اختصاراً جواب

”ہو سکتا ہے کہ کسی معترض کو یہ اعتراض ہو کہ آیت کریمہ **لِيُنْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ** مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ“ کا ترجمہ ”تا کہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے“ جو امام احمد رضا نے کیا ہے اس ترجمہ میں ”تمہارے سبب سے“ کا جملہ زائد ہے۔ کیونکہ آیت کریمہ میں ایسا کوئی بھی لفظ وارد نہیں جس کا ترجمہ ”تمہارے سبب سے“ ہوتا ہو۔ بلکہ آیت میں لفظ ”لَكَ“ وارد ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ”تیرے لیے“ اور اس معنی میں وارد لفظ ”ذنب“ کا ترجمہ ”گناہ“ کرتے ہوئے آیت کا ترجمہ ”تیرے لیے تیرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے“ یہ ترجمہ ہی ہونا چاہئے یہ عجیب و غریب ترجمہ ”تمہارے سبب سے“ کے اضافہ کے ساتھ کیسے ہوا۔“

جواباً عرض ہے کہ آیت میں وارد لفظ ”لَكَ“ میں جو ”ل“ ہے اس لام پر ہی پورے ترجمہ کا دارومدار ہے۔ جن لوگوں نے ”تیرے لیے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔“ کے معنی میں آیت کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے ”لَكَ“ کے حرف جر ”ل“ کو تخصیص کے معنی میں استعمال کیا ہے اور علم نحو کی اس پہیلی کو سلجھانے کے اور ترجمہ میں گڑبڑی کر دی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں وارد لفظ ”لَكَ“ میں کاف سے پہلے جو حرف جر ”ل“ ہے وہ بجائے تخصیص کے ”تعلیل و سبب“ کے معنی میں ہے اور ”لام سبب“ حرف جر لام کے معانی مشترک اور خواص میں سے ہے۔ امام اجل، خاتم الحفاظ، علامہ جلال الملہ والدین، عبدالرحمن بن کمال بن ابی بکر سیوطی (المتوفی ۹۱۱ھ) نے اس آیت میں وارد لفظ ”لَكَ“ کے ”ل“ کو لام سبب و تعلیل تسلیم فرمایا ہے اور لام کو لام تعلیل و سبب تسلیم کرنے سے خود بخود ”تمہارے سبب سے“ کے معنی رونما ہوں گے۔

علم صرف اور علم نحو کے ضوابط و اصول سے بہت ہی اختصاراً جواب عرض کر دیا ہے، اہل علم حضرات اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے دریائے علم میں غوطہ زن ہو کر علوم و عرفان کے بے بہا گوہر و جواہر برآمد فرمائیں گے۔ علم اور کمال کے حصول کے لیے صرف اتنا ماننا ہے کہ لام

عشق و محبت، امام احمد رضا نے اس آیت کا جو ترجمہ فرمایا ہے، اس ترجمہ کی تائید تو شیخ صاحب "تفسیر جلالین شریف" فرما رہے ہیں، جیسے کہ سورۃ النجم کی آیت کریمہ "وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ" کے ترجمہ کی تائید جلیل القدر صحابی رسول، امین الامت، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمودہ تفسیر سے ہوئی ہے۔ جس کا مفصل بیان اوراق سابقہ میں آپ حضرات نے مطالعہ فرمایا ہے۔

"أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" خَطَابِ كُنْ سَهْ؟

حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے والے دورِ حاضر کے منافقین ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے "بشر" نہیں کہتے بلکہ ہم تو حضور اقدس کا قول جو انہوں نے خود اپنے متعلق اللہ کے حکم سے کہا ہے، اُسے دہراتے ہیں کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا "أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" یعنی "میں تمہاری طرح بشر ہوں۔" رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر کہنے میں کوئی توہین نہیں ہے۔ ہم پر یہ غلط الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر کہہ کر توہین کرتے ہیں۔ بلکہ ہم تو وہی کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ نے اپنے متعلق کہا ہے بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کو حکم فرمایا ہے کہ "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ"

اس قسم کی چال بازی سے منافقین زمانہ بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں پھانستے ہیں۔ عوام بیچارے مذہبی معلومات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ان کی جعل سازی کا شکار بنتے ہیں۔

بے شک! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے کہ "أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" لیکن حضور اقدس نے یہ ارشاد کب، کیوں اور کن کو مخاطب بنا کر فرمایا ہے؟ اس کو سمجھنا بھی اشد

ضروری ہے۔ - marfat.com

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (الخ) یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف اور سورۃ حم سجدہ، دونوں میں ہے۔ یہ دونوں سورتیں یکہ ہیں یعنی دونوں سورتیں مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات پاک دو حصوں میں منقسم ہے۔ (۱) مکی زندگی اور (۲) مدنی زندگی۔ مکی زندگی بھی دو حصوں میں حسب ذیل منقسم ہے:-

(۱) ظاہری نبوت کے پہلے کی زندگی یعنی ولادت اقدس سے بعثت تک یعنی چالیس (۴۰) سال کی عمر شریف تک۔

(۲) اعلان نبوت (بعثت) سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے تک یعنی تیرہ (۱۳) سال کی عمر شریف تک۔

اب ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے دوسرے حصے یعنی ظاہری نبوت سے سرفراز ہونے (۴۰ سال کی عمر شریف) سے ہجرت (۵۳ سال کی عمر شریف) تک کے کل تیرہ (۱۳) سال کی حیات طیبہ ۱۱۰ء میں جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی توحید کی دعوت دی اور کفر و شرک کے افعال رذیلہ و قبیحہ مثلاً بت پرستی، ستاروں کی پرستش، تمین خدا ہونے کا عقیدہ، خدا کے لیے اولاد کا فاسد اعتقاد وغیرہ سے ممانعت فرمانے کے ساتھ ساتھ چوری، ڈکیتی، بچاؤ، شراب نوشی، زنا، وغیرہ افعال مذمومہ سے لوگوں کو روکا، تو مکہ معظمہ کے کفار و مشرکین تلملا اٹھے اور آپ کے چالیس دشمن بن گئے۔ آپ کو تولی و فعلی تکالیف اور ازیتیں پہنچانی شروع کر دیں، لوگوں کو آپ کے خلاف ورغلامنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی لیکن آپ کی ذات ستودہ و صفات اور آپ کے اخلاق حسنہ سے لوگ ایسے متاثر تھے کہ زشد و ہدایت پر مشتمل آپ کی نصیحتیں ہر تن گوش ہو کر سنتے تھے اور آپ کی بات ایسی اثر پذیر ہوتی تھی کہ لوگ آپ کی دعوت حق کی طرف راغب ہوئے اور اپنے آبائی دین باطل کو خیر آباد کہہ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حالانکہ شروع شروع میں لوگوں کے دخول اسلام کی رفتار اور تعداد کم تھی لیکن لوگوں کا دخول اسلام کا غیر منقطع سلسلہ جاری تھا۔ روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام و ایمان کی دولت لازوال سے مالا مال ہو رہا تھا۔ آج فلاں شخص اسلام لایا، کل فلاں سر دہا قہم نے کلمہ شہادۃ پڑھا، پھر فلاں، پھر فلاں، تو م ایمان لایا، وغیرہ

وغیرہ ایسی خبریں روزانہ پھیلتی تھی۔ کفار مکہ کو جب اس بات کی اطلاع ہوتی تھی کہ فلاں فلاں اشخاص نے اسلام قبول کر لیا ہے تو غصہ میں لال ہو جاتے تھے۔ اور دانتوں سے انگلیاں کاٹتے تھے۔ اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو دیکھ کر کفار و مشرکین بوکھلا اٹھے اور ان کے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے روکنے کے لیے انہوں نے ایزدی چوٹی کا زور لگایا اور ظلم و تشدد پر اتر آئے۔ دین اسلام اختیار کرنے والے مؤمنین کو سخت مصائب و تکالیف پہنچانی شروع کیں لیکن شیعہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پروانوں کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی تزلزل واقع نہ ہوا بلکہ اسلام کی حقانیت و صداقت ان کے دلوں میں زیادہ مستحکم اور راسخ ہو گئی۔

مکہ معظمہ کے کفار و مشرکین بڑی الجھن اور کشمکش میں مبتلا تھے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کارگر ہو سکے ایسا ایک بھی اصولی ہتھیار ان کے پاس نہ تھا۔ لہذا انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہمیت گھٹانے کے لیے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ:-

◎ اَبَشْرٌ يَهْدُوْنَنَا (سورۃ التغابن، آیت: ۶، پارہ: ۲۸)

ترجمہ:- ”کیا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے؟“

یہ کہنے کا ان کا عشاء صرف یہی تھا کہ اے لوگو! تم جس کے کہنے پر اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف ہو کر نیا دین اپناتے ہو، وہ دعوت دینے والا آدمی یعنی ”بشر“ ہی تو ہے۔ تو کیا ایک بشر ہمیں راہ بتائے گا؟ کیا ایک بشر کے کہنے پر تم نے اپنی قوم کے پرانے دین سے منہ موڑ لیا ہے؟

کفار و مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت حق سے لوگوں کو پراگندہ ذہن کرنے کے لیے ”بشر“ ہونے کا ہی ہتھیار اس لیے اٹھایا تھا کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر زمین مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ اسی شہر میں آپ کا بچپن گزرا۔ جوانی کے ایام بھی اسی شہر کے لوگوں کے درمیان بسر ہوئے۔ لیکن آپ نے کبھی بھی، کہیں بھی، کوئی بھی، اور کسی طرح بھی ایک بھی فعل مکروہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ بلکہ اخلاق حسنہ کے پیکر جمیل بن

کر رشد و ہدایت کی روشنی سے عالم دنیا کو تابناک فرما رہے تھے۔ آپ کی دیانتداری اور ایمانداری ایسی شہرت یافتہ تھی کہ کفار و مشرکین بھی اس کے معترف تھے اور آپ کو ”محمد امین“ کے معزز و معظم لقب سے پکارتے تھے۔ آپ کی ظاہری اور نجی زندگی میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی خامی یا نقص نظر نہیں آتا تھا کہ جس کو موضوع بنا کر آپ کے خلاف بولا جاسکے۔ لے دے کر نہیں صرف ایک ہی بہانہ ملا اور وہ بہانہ بھی وہی ملا جو زمانہ ماضی کے کفار و مشرکین نے انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے خلاف تجویز کیا تھا لہذا کفار مکہ نے بڑے شد و مد کے ساتھ یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ تو بشر ہیں۔ کیا ایک ”بشر“ ہمارا ہادی و رہنما بنے گا؟ ہرگز نہیں؟ یہ تو ہمارے تمہارے جیسے بشر ہیں۔ الحاصل! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف اپنی مہم اور تحریک چلانے کے لیے کفار و مشرکین نے صرف ایک ہی نعرہ بلند کیا کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ نتیجتاً وہ دولت ایمان سے محروم رہے اور کفر کے ظلمت کدہ میں بھٹکتے رہے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ:

◎ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا

(پارہ: ۲۸، سورۃ التغابن، آیت: ۶)

ترجمہ:- ”تو بولے کیا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے؟ تو کافر ہوئے۔“ (کنز الایمان)

◎ اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا

(سورۃ بنی اسرائیل، آیت: ۹۴)

ترجمہ:- ”جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر اسی نے کہ بولے کیا اللہ نے آدمی کو

رسول بنا کر بھیجا۔“ (کنز الایمان)

◎ لَا هِيۡةَ قُلُوْبُهُمْ ط وَاَسْرُوْا النَّجْوٰى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ

هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (پارہ: ۷، سورۃ الانبیاء، آیت: ۳)

ترجمہ:- ”ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت

کی کہ یہ کون ہیں۔ ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں۔“ (کنز الایمان)

الحاصل! کفار و مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف

صرف ایک ہی آواز اٹھائی تھی کہ وہ بشر ہیں۔ جہاں دیکھو وہاں بشر، بشر اور بشر کی رٹ لگی ہوئی تھی۔ کفار و مشرکین نے بشر کی بانسری کے بھدے بھدے سُر کی بھد بھد سے ماحول کو پراگندہ کر رکھا تھا۔ ان کفار اور مشرکین کو جواب مرحمت فرماتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" یعنی "میں تمہارے جیسا بشر (آدمی) ہوں۔" ذرا غور فرمائیں! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور کیوں ایسا فرمایا؟ جواب صاف ہے کہ حضور اقدس کا یہ ارشاد جو ابنا ہے یعنی کفار و مشرکین نے "بشر" ہونے کا جو غوغا مچا رکھا تھا اس کا مسکت جواب دیتے ہوئے ان کافروں سے فرمایا تھا کہ "میں تمہارے جیسا بشر ہوں" کسی مومن سے یہ خطاب نہیں فرمایا تھا۔ علاوہ ازیں آپ نے کفار و مشرکین سے صرف یہ فرمایا تھا کہ "میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔" آپ نے ہرگز ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ "میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں۔" بلکہ "میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔" فرمانے کے بعد کا جو جملہ ہے یعنی "يُوحَىٰ إِلَيَّ" یعنی "مجھے وحی آتی ہے" یہ جملہ کفار و مشرکین کو منہ توڑ اور دندان شکن جواب ہے کہ تم مجھے اپنے جیسا بشر کہتے ہو اور مجھے بشر کہہ کر میری اور میری دعوت حق کی اہمیت گھٹانا چاہتے ہو، تو سن لو! ہاں ہاں! میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یعنی ظاہری صورت بشری میں تمہارے جیسا بشر ہوں کیونکہ میں بصورت انسان پیدا ہوا ہوں لیکن میں تمہارے جیسا ہی بشر نہیں ہوں یعنی درجات و مراتب میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں، میں تم جیسے عام انسانوں کی طرح نہیں ہوں کیونکہ "يُوحَىٰ إِلَيَّ" یعنی "مجھے وحی آتی ہے" اور وحی ہر بشر پر نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور ذی مرتبت بشر پر یعنی نبی اور رسول پر ہی وحی آتی ہے۔ اور تم میں اور مجھ میں نزول وحی کا فرق عظیم ہونے کی بناء پر ہمارے درمیان بشری صورت کی ظاہری مساوات ہونے کے باوجود بھی میں تمہارے جیسا عام انسان نہیں۔

حضور اقدس، نور حق، ظن رب، نبی کریم، رؤف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مندرجہ بالا جواب کفار اور مشرکین کے اوہام و اتہام کے منہ پر ایسا طمانچہ تھا کہ اگر ان میں ذرہ برابر بھی غیرت انسانی ہوتی تو وہ اس جواب سے سبق حاصل کر کے اپنی حرکتوں سے باز آ جاتے، مگر انہوں نے اُلٹا چور کو توال کو ڈانٹنے والی مثل پر عمل کرتے ہوئے اُلٹا دھڑا پاندھا اور سرکشی

پراتر آئے۔

یہاں ایک ضروری وضاحت کرنا بھی اشد ضروری ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کو ایسا جواب کیوں ارشاد فرمایا کہ "أَنَابَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" یعنی "میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔" اس کا جواب کتب احادیث میں مذکور اس واقعہ سے بآسانی سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک مرتبہ کفار مکہ کے سردار ابو جہل لعین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہارے جیسا ناپسندیدہ چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ جواب میں سرکارِ دو عالم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ! آپ کے چہرہ اقدس جیسا حسین و جمیل چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ اس پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کہا۔ ابو جہل اور حضرت صدیق اکبر کے دو متضاد اقوال کے جواب میں حضور اقدس نے ایک ہی جواب مرحمت فرمایا۔ اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور اس کی وجہ پوچھی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آئینہ حق نمایا ہے۔ ہر شخص مجھ میں اپنا عکس دیکھتا ہے۔ ابو جہل نے مجھ میں اپنا عکس دیکھ کر اپنا سراپا بیان کیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پر تو مجھ میں دیکھ کر اپنے سراپا کی تعریف کی ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ ہر شخص سے اس کی زبان میں اور اس کی عقل کے مطابق گفتگو فرماتے تھے بلکہ حدیث میں ارشاد ہے کہ "تُكَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى حَسَبِ عُقُولِهِمْ" یعنی "لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔" علاوہ ازیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے زمانہ کے ہر شخص سے ایسی کامل واقفیت رکھتے تھے کہ ہر شخص کی فطرت، عادت اور خصلت سے آپ کامل طور پر واقف تھے۔ بلکہ حدیث میں ارشاد ہے کہ "مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَهْلَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ" یعنی "جو اپنے زمانہ کے لوگوں کو نہ پہچان سکے وہ جاہل ہے۔" لہذا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کے قول "هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" یعنی "وہ یہ کون ہیں؟ تمہیں جیسے آدمی تو ہیں۔" کا جواب ان کے قول کے منشاء کو پہچانتے ہوئے اور ان کی عقلوں کی بساط سے آگہی

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

رکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ "أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" یعنی "آدمی (بشر) ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں۔" لیکن اس جواب کے جملہ کے فوراً بعد علی الاطلاق یہ بھی فرمایا کہ "يُوحَىٰ إِلَيَّ" یعنی "مجھے وحی آتی ہے" حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ایسا جامع و مانع ہے کہ بہ نظر عیسیٰ، نگاہ انصاف کے زاویہ سے اور غیر متعصبانہ و غیر جانبدارانہ رویہ اپنا کر اس پر غور و فکر کرنے والا اپنی زبان سے کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ رسول اللہ ہمارے جیسے بشر تھے۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ بھی ارشاد ہوا وہ وحی الہی ہے۔ کبھی اس مقدس زبان سے قرآن مجید کی آیات سننے میں آتی تھیں اور کبھی یہ شکل حدیث خدا کا حکم اور وحی جاری ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ:-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

(پارہ: ۲۷، سورۃ النجم، آیت: ۳، ۴)

ترجمہ:- "اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔" (کنز الایمان)

تفسیر:- "اس میں یہ اشارہ ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال میں فنا کے اُس اعلیٰ مقام پر پہنچے کہ اپنا کچھ باقی نہ رہا، تجلی ربّانی کا یہ استیلائے تام ہوا کہ جو کچھ فرماتے ہیں وحی الہی ہوتی ہے۔

(تفسیر روح البیان، بحوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۹۳۶)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات وحی خدا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام شان جامعیت کا حامل ہے۔ فرماتے ہیں کہ

إِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلَامِ (الحدیث)

ترجمہ:- "مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا ہے۔"

marfat.com

○ امیر المؤمنین، سیدنا مولیٰ علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم ایک ہی خاندان میں پیدا ہوئے لیکن آپ ہر زبان کے لوگوں سے ان کی زبان میں گفتگو فرمالتے ہیں، حالانکہ ہم ان کی بات تک سمجھ نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا اے علی! **“أَلْبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي”** یعنی ”میری تربیت تعلیم میرے رب نے کی ہے اور بہت ہی اچھی کی ہے۔“

○ امیر المؤمنین، خلیفہ المسلمین سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں یہاں تک عرض کیا کہ **“لَقَدْ طِفْتُ فِي الْعَرَبِ وَسَمِعْتُ فَصَاحَتَهُمْ فَمَا سَمِعْتُ أَفْصَحَ مِنْكَ”** یعنی ”میں سارا عرب گھوما ہوں اور عرب کے فصحاء کو بھی سنا ہے مگر آپ سے بڑھ کر کسی کو فصیح نہیں پایا۔“

○ حضرت بڑھ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی فصیح عرب میں نہ پہلے پیدا ہوا ہے، نہ پیدا ہوگا۔“
الحاصل! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام ایسا جامع و مانع اور فصیح و بلیغ ہوتا تھا کہ ایک جملہ میں بہت کچھ ارشاد فرمادیتے تھے اور ہر طبقہ کے لوگوں کے ساتھ ان کی عقلی و ذہنی بساط اور حیثیت کے مطابق کلام فرماتے تھے۔ کفار و مشرکین اور منافقین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہا تو حضور نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی بھی مومن سے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں بلکہ کیا فرماتے تھے؟

”حضورِ اقدس نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟

اور صحابہ کرام حضورِ اقدس کو اپنے جیسا بشر

کہتے تھے یا نہیں؟ بلکہ کیا کہتے تھے؟

حضورِ اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار و مشرکین سے خطاب فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے تھے کہ ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ لیکن آپ نے کبھی بھی، کہیں بھی، کسی موقع پر بھی، کسی وجہ سے بھی اور کسی بھی مؤمن سے یہ نہیں فرمایا کہ ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ بلکہ کیا فرماتے تھے وہ دیکھیں:-

رمضان المبارک میں حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض راتوں میں

وصال فرماتے تھے یعنی ”صوم وصال“ یعنی پے در پے روزے اس طرح

رکھتے تھے کچھ بھی نہ کھائیں یا پیئیں اور افطار کریں بلکہ مسلسل روزہ رکھتے

تھے۔ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متابعت میں صحابہ کرام

رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی ”صوم وصال“ رکھنے شروع

کر دیئے۔ نتیجتاً کچھ ہی دنوں میں ان کے جسموں میں لاغری، ناطاقتی،

نا توانی اور کمزوری آگئی۔ کچھ حضرات تو علیل و بیمار ہو گئے۔ اس امر کی

حضورِ اقدس کو اطلاع ہوئی تو آپ نے ازراہ شفقت و رحمت صحابہ کرام

کو ”صوم وصال“ کی ممانعت فرمادی۔ جیسا کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ

صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت فرمودہ حدیث میں ہے۔ حضور نے

صحابہ کرام کو منع فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جب

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

آپ صوم وصال رکھتے ہیں تو ہمیں کیوں منع فرماتے ہیں باوجودیکہ ہم حضور کی متابعت کی تمنا رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ **كَسَتْ كَأَحْيِكُمْ** یعنی ”تم میں سے کسی کی مانند نہیں“

اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ **”أَيْكُمْ يَفْلِي“** ترجمہ: ”تم میں سے کون میری مثل ہے؟“ پھر ارشاد فرمایا **”إِنِّي آيْتُكَ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي“** ترجمہ: ”میں اپنے رب کے حضور رات کا قیام کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔“

(حوالہ:- (۱) مسلم شریف، باب الصوم (۲) مدارج النبوة، از شیخ محقق، شاہ عبدالحق

محدث دہلوی، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۷۲۳)

حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہونچی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابل میں آدمی (نصف) نماز ہے۔ (یعنی نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے) اس کے بعد جب میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز ادا فرماتے ہوئے دیکھا۔ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید حضور اقدس کو بخار ہے لہذا بیماری کی وجہ سے آپ بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ لہذا میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جبین اقدس (پیشانی شریف) پر اپنی ہتھیلی رکھی کہ معلوم کروں کہ آپ کو تپ (بخار) تو نہیں؟ جب میں نے مقدس پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا تو میری اس حرکت پر حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ! کیا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق تو آپ نے ایسا کچھ فرمایا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں آپ بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں؟ حضرت

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب عنایت کرتے ہوئے حضور اقدس نے فرمایا کہ **كَلِمَاتٌ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ** ترجمہ:- میں تم میں سے کسی کی مانند نہیں۔ (حوالہ:- مسلم شریف، باب الصلوٰۃ)

اس حدیث کے ضمن میں (۱) خاتمۃ المحققین، امام اجل، علامہ محمد بن علی دمشقی صکنی (المتوفی ۸۸۸ھ) رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب **لُذْرُ الْمُخْتَارِ شَرْحُ تَنْوِيذِ الْأَبْصَارِ** میں اور (۲) علامہ محقق، امین الدین محمد بن عابدین شامی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی کتاب **وَدُّ الْمُخْتَارِ عَلَى الذَّرِّ الْمُخْتَارِ** میں فرماتے ہیں کہ یہ حکم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے یعنی آپ بیٹھ کر بھی نماز ادا فرمائیں گے تب بھی آپ کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔

☆ حدیث شریف کی تقریباً تمام معتبر کتابوں میں مذکور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کئی موقعوں پر یہ فرمایا ہے کہ **أَيْنَا مِثْلًا** یعنی:- ”ہم میں سے کوئی ایک بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثل نہیں۔“ مندرجہ بالا احادیث سے ثابت ہوا کہ:-

- (۱) حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کی مانند نہیں اور تم میں سے کون میری مثل ہے۔
- (۲) صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے تھے کہ ہم میں سے کوئی بھی حضور اقدس کی مثل نہیں۔

لہذا! ثابت ہوا کہ:-

⊙ کفار، مشرکین اور منافقین حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے لہذا حضور اقدس نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔

⊙ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے تھے لہذا حضور اقدس نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تم جیسا

بشر نہیں ہوں۔

ایک اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ:-

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا کافروں، مشرکوں اور منافقوں کا طریقہ تھا۔ دوبر حاضر میں جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں وہ کفار، مشرکین اور منافقین کے طریقے کی پیروی کر رہے ہیں۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں اور ہم حضور اقدس کی طرح نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ صحابہ کرام کا تھا۔ لہذا جو اہل عشق و محبت حضرات حضور اقدس کو بشر کہنے کے بجائے نور خدا اور نوری بشر کہتے ہیں، وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر دولت ایمان سے مالا مال ہیں۔

”قرآن مجید کی آیتوں کے الفاظ کے ظاہری لغوی معنوں کو دلیل بنا کر کوئی عقیدہ یا عمل مقرر کرنا گمراہیت و بے دینی کا دروازہ کھولنا ہے۔“

قرآن مجید رب عظیم کا کلام ہے۔ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی یا مثل نہیں، اسی طرح اس کے کلام کا بھی کوئی ثانی و مثل نہیں۔ رب عظیم و اعلیٰ جل جلالہ کا کلام بھی تمام کلاموں سے عظیم و اعلیٰ اور افضل و بالا ہے۔ قرآن مجید کو اس کے صحیح معنی، مطلب، مقبول، منشاء اور مراد میں سمجھنے کی ہر کسی میں صلاحیت نہیں ہوتی کیونکہ جیسا کہ ہم نے اوراق سابقہ میں

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کی کئی قسمیں ہیں مثلاً ۱) آیاتِ محکمات
۲) تشابہات ۳) مہمات ۴) مقدمات ۵) مؤخرات ۶) عامات ۷) خاصات ۸) ناسخات
۹) منسوخات ۱۰) مجملات ۱۱) مہینات ۱۲) مطلقات ۱۳) منطوقات ۱۴) معطوفات وغیرہ وغیرہ۔
علاوہ ازیں قرآن مجید کی عربی لغات کثیر المعنی کی حامل ہے۔ ایک لفظ کے متعدد معنی ہوتے
ہیں۔ لہذا قرآن مجید کی آیت کا صحیح معنی مطلب سمجھنے کے لیے وسیع پیمانہ پر علم درکار ہے۔ لیکن
واد حسرتاً! دورِ حاضر میں منافقینِ زمانہ نے ملتِ اسلامیہ پر قیامت ڈھاتے ہوئے ماحول ایسا
خستہ اور پراگندہ کر دیا ہے کہ جاہلوں کی ٹولی کے ساتھ ایک دو چلے کر آنے والے وہ جاہل بلکہ
اجہل کٹھ ملا کہ جس کو قرآن مجید ناظرہ پڑھنا بھی جاں گداز ہوتا ہے، اسے دو چار منسوخ اور
متشابہ آیات طوطے کی طرح رنار دیتے ہیں اور وہ اجہل ملا ”پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل“ والی
مثل کا مصداق بن کر خطیبِ ملت اور مقررِ اعظم کے تکبر و غرور میں ان منسوخ اور متشابہ آیات
کے الفاظ کے ظاہری لفظی معنوں کو دلیل اور سند بنا کر کفر، شرک اور بدعت کے زبانی فتوے
دینے کے فتور پھیلاتا ہے۔ خصوصاً انبیائے کرام اور اولیائے عظام کی عظمت و محبت کے جائز
اور مستحب کاموں کو وہ اپنی شرک کے فتوے کی مشین گن کا نشانہ بناتا ہے۔ صدیوں سے رائج
اور صحابہ، اولیاء، ائمہ، صلحاء، صوفیاء اور اکابر علماء کے اقوال و افعال سے مستند شدہ اعتقاد و اعمال
کو غیر اسلامی، خارج از ایمان، ناروا، نازیبا، مذموم، مقبوح، مغضوب، بلکہ شرک و بدعت
ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کے ایسے تراجم اور مفہوم پیش کرتا ہے کہ اس کو آیت
سے نسبت تک نہیں ہوتی۔ مختصر یہ ہے کہ منافقینِ زمانہ انبیائے کرام اور اولیائے عظام کی شان
میں گستاخی و بے ادبی کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اور قرآن کی
آیتوں کی آڑ میں وہ اپنے مقاصد فاسدہ کی تکمیل و حصول کی سعی ناکام کرتے ہیں۔

منافقینِ زمانہ نے ایک منظم سازش کے تحت یہ مہم چلائی ہے کہ لوگوں میں یہ بات عام
کر دی جائے کہ قرآن مجید کی آیتوں کے مطلب و مفہوم کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں اور
علماء سے پوچھنے کی بھی حاجت نہیں بلکہ عوام الناس بھی قرآن کی آیتوں کے معنی و مفہوم بغیر کسی
مشکل کے از خود آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔

متنفین زمانہ کے پیشوا اور امام اول فی البند، مولوی اسماعیل دہلوی کی رسوائے زمانہ اور گمراہ کن کتاب ”تقویت الایمان“ جو درحقیقت ”تقویت الایمان“ یعنی ”ایمان کو ختم کرنے والی“ ہے۔ اس کتاب کے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں:-

(۱) ”اور یہ عوام الناس میں مشہور ہے کہ اللہ ورسول کا کلام سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس کو بڑا علم چاہیے۔ ہم کو وہ طاقت کہاں کہ ان کا کلام سمجھیں اور اس راہ پر چلنا بڑے بزرگوں کا کام ہے۔ ہماری کیا طاقت کہ اس کے موافق چلیں بلکہ ہم کو یہی باتیں کفایت کرتی ہیں۔ سو یہ بات غلط ہے۔ اس واسطے کہ اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں باتیں بہت صاف صریح ہیں۔ ان کا سمجھنا مشکل نہیں۔“

(۲) ”چنانچہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ”وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ“ ”ہم نے آپ کی طرف ایسی باتیں نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور ان کا انکار صرف فاسق کرتے ہیں یعنی ان باتوں کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔“

(۳) ”اور اللہ ورسول کے کلام کو سمجھنے کے لیے بہت علم نہیں چاہیے کیونکہ پیغمبر تو نادانوں کو راہ بتلانے اور جاہلوں کو سمجھانے اور بے علموں کو علم سکھلانے آئے تھے۔“

(۴) ”جو کوئی یہ آیت سن کر پھر یہ کہنے لگے کہ پیغمبر کی بات سوائے عالموں کے کوئی نہیں سمجھ سکتا اور ان کی راہ پر سوائے بزرگوں کے کوئی نہیں چل سکتا، اس نے اس آیت کا انکار کیا۔“

(حوالہ:- ”تقویت الایمان“ مصنف:- مولوی اسماعیل دہلوی، ناشر:- دارالتلخیص،

ممبئی، تاریخ اشاعت اپریل ۱۹۹۷ء، ص: ۱۳، ص: ۱۴)

مندرجہ بالا اقتباسات کا اصل ہے کہ marfat.com

- اللہ اور رسول کا کلام سمجھنے کے لیے بہت علم درکار نہیں۔ ہر جاہل سمجھ سکتا ہے۔
- قرآن مجید کی آیتوں کے معنی، مطلب اور مراد سمجھنے کے لیے عالموں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہر شخص چاہے وہ نرا جاہل ہو، وہ قرآن شریف میں اپنے طور سے دخل دے سکتا ہے۔

ان دو اصولوں پر دور حاضر کے منافقین کی تحریکِ باطل کا انحصار ہے۔ عوام کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ علماء کو نظر انداز کرو۔ اللہ کا مقدس کلام قرآن مجید تم از خود سمجھ سکتے ہو۔ آیتوں کے مطلب، مفہوم اور مراد تم اپنے طور سے سمجھ سکتے ہو۔ علماء سے پوچھنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ ایسی خطرناک چال ہے کہ اگر عوام کی یہ ذہنیت بن گئی کہ قرآن مجید کی تفہیم کے لیے علماء کرام سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم بھی کچھ کم نہیں۔ ہم اپنے طور پر قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام قرآن کی تفہیم کے معاملہ میں علماء، مفسرین، مجتہدین، ائمہ دین، مستکلمین، مستنبطین کسی کی بھی اتباع نہ کریں گے بلکہ قرآن کی آیات اور احادیث کے جو چاہیں و مطلب بیان کریں گے۔ ائمہ دین کی تقلید اور علماء دین کی پیروی اور اتباع سے بے قید ہو کر گمراہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ جس قوم کا علماء دین سے تعلق اور رابطہ ہے اسے آسانی اور جلدی سے گمراہ نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کسی گمراہ اور بددین نے قرآن مجید کے حوالے سے کوئی غلط بات یا عقیدہ پھیلانے کی کوشش کی تو علماء سے تعلق رکھنے والے لوگ اس معاملے کی صحیح حقیقت اپنے علماء سے دریافت کریں گے اور علماء حق اہل باطل کے مکر و فریب کا پردہ فاش کر دیں گے۔ لہذا بے نیکی بنیاد رکھتے ہوئے یہ بات عام اور رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علماء سے پوچھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ ہر شخص بذات خود قرآن و حدیث آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔

قرآن اور حدیث میں اپنی رائے کو دخل دینے کے متعلق حدیثوں میں سخت وعید وارد ہیں۔ جن کا صفحات سابقہ میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ جاہل اور بے علم شخص جب قرآن و حدیث میں اپنی رائے کو دخل دیتا ہے، تو وہ شیطان کے بہکاوے میں بہت جلد آجاتا ہے۔ اہل علم حضرات شیطان کے بہکاوے میں جلدی نہیں آتے۔ شیطان کے لیے ایک ہزار جاہلوں کو

برکات آسان ہے لیکن ایک عالم کو بہکانا دشوار ہے۔

حدیث:- امام ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اقدس، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

فَقِيَّةٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

(مشکوٰۃ شریف، ص: ۳۳)

ترجمہ:- ”ایک فقیر (عالم) شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔“

حدیث:- حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ أَنْتَزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَكِنْ يُقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَالًا فَسِئَلُوا فَأُفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا (مشکوٰۃ شریف، ص: ۳۳)

ترجمہ:- ”اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح قبض نہ کرے گا کہ اپنے بندوں سے علم ہی ایک ساتھ اٹھالے بلکہ علم کو عالموں کے اٹھانے سے قبض فرمائے گا۔ یہاں تک کہ جب عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار (مذہبی پیشوا) بنا لیں گے۔ اور ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا۔ وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔“

(ماخوذ از:- ”اطیب البیان ردّ تقویٰ الایمان“ مصنف:- صدرالفاضل علامہ سید

نعیم الدین مراد آبادی، مطبوعہ:- اہلسنت برقی پریس، مراد آباد، ص: ۱۶)

مخبر صادق اور غیب جاننے والے اور بتانے والے پیارے قاوموں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، دور حاضر میں ہر طرف فتویٰ دینے والے جاہلوں اور واعظوں کی تعداد اس کثرت سے نظر آتی ہے کہ خدا کی پتاہ۔ جاہلوں کی ٹولی کے ساتھ ایک دو چل کر آنے والے جہلا مقرر و مفتی بنے گھومتے ہیں۔ اور یہاں حدیث ”ضَلُّوا وَأَضَلُّوا“ یعنی ”خود بھی

گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں“

◎ حضرت سیدنا مولیٰ علی نے بے علم و اعظ کو مسجد سے نکلوا دیا:-

استاذ المحدثین، رئیس المفسرین، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ "تفسیر عزیزی" میں فرماتے ہیں کہ:-

”ابو جعفر نحاس از حضرت امیر المؤمنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم روایت نمودہ کہ ایساں روزے در مسجد کوفہ داخل شدند۔ دیدند کہ شخصی وعظ میگوید۔ پرسیدند کہ ایں کیست۔ مرد عرض کردند کہ ایں واعظ است کہ مردم را از خدای ترساند و از گناہاں منع می کند۔ فرمودند کہ غرض ایں شخص آنست کہ خود را انگشت نمائے مردم سازد ازو چہ پرسید کہ تاخ از منسوخ جدا میداند یا نہ۔ او گفت کہ ایں علم خود ندارم۔ فرمودند کہ ایں را از مسجد بر آرید“

(حوالہ:- تفسیر عزیزی، پارہ اول، ص: ۵۰۰)

ترجمہ:- ”ابو جعفر نحاس نے امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت کیا ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”کوفہ“ شہر کی مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص وعظ کہہ رہا ہے۔ حضرت علی نے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ واعظ (مقرر) ہے جو لوگوں کو خدا سے ڈراتا ہے اور گناہوں سے منع کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان رسوا کر رہا ہے۔ اسے پوچھو کہ قرآن کی تاخ آیتوں کو منسوخ آیتوں سے جدا کر سکتا ہے؟ اس واعظ نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وعظ کرنے والے کے لیے حکم فرمایا کہ اسے مسجد سے نکال دو۔“

قارئین کرام! غور فرمائیں!! جس مقرر کو قرآن کی تاخ اور منسوخ آیتوں کی معلومات

نہ تھی اس کو امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، سید عالم، مولائے کائنات علی بن ابی طالب رضی اللہ

تعالیٰ عز نے کوفہ شہر کی مسجد سے نکلوا دیا۔ آج تو ایسی حالت ہے کہ واعظ کو آیات ناسخہ اور منسوخہ کا علم ہونا تو درکنار بلکہ ناسخ آیات اور منسوخ آیات یعنی کیا؟ وہ بھی معلوم نہیں ہوتا لیکن دو چار آیتیں رٹ لیتا ہے اور منبر خطابت پر چھلانگ لگا کر چڑھ بیٹھتا ہے۔ منافقین زمانہ کے جہلاء کی ٹولی ایک شہر میں پہنچی۔ سیدھے پہنچے مسجد میں اور پورا بستر مسجد میں جمایا۔ نماز کے اختتام پر امیر الجالبین نے کھڑے ہو کر کہا کہ دینی بھائیو! تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ اللہ رسول کی باتیں ہوں گی۔ دین کی باتیں ہوں گی۔ لوگ رک گئے۔ امیر الجہلاء نے صلح کلیت کے عنوان کو موضوع سخن بنا کر قرآن مجید کی سورۃ الکافرون کی آیت ۶ لکُمْ دینکم ولیٰ دین کا ترجمہ ”تمہیں تمہارا دین مبارک اور مجھے میرا دین“ کرتے ہوئے اپنی بقراطی چھانٹنی شروع کر دی۔ عین اسی وقت ایک سنی صحیح العقیدہ ذی علم صاحب مسجد میں آئے۔ جاہل مبلغوں کے امیر کو دوران تقریر ٹوکا کہ جناب جس آیت کی تم اپنی خیالی اور اختراعی تفسیر و تشریح بیان کر رہے ہو، وہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ؟ امیر صاحب کی ہوا اڑ گئی۔ جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیا ناسخ اور کیا منسوخ؟ بس اتنا سمجھو کہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کیا تم نئی بات نکالتے ہو؟ ناسخ و ناسخ ہم کچھ نہیں جانتے۔ صرف اتنا جانتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے۔ اسی کے ضمن میں ہم مؤمن بھائیوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ امیر صاحب کی جہالت پر محترم ذی علم سنی صاحب نے امیر جی کو لٹکارا اور اسے بولنے سے روک کر خود کھڑے ہو کر قرآن مجید کی آیات کے اقسام اور اس کے متعلق احکام و اصول و ضوابط پر ایسی علمی گفتگو فرمائی کہ امیر صاحب کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ فوجا سمجھ گئے کہ یہاں ہماری دال نہ گلے گی لہذا ہم بحث نہیں کرتے، ہم بحث نہیں کرتے، کاورد پڑھتے ہوئے اپنی جاہلوں کی ٹولی سمیت راہ فرار اختیار کی۔

قارئین کرام کی ضیافت طبع کی خاطر بہت ہی اختصار کے ساتھ ہم آیات ناسخہ اور منسوخہ کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔

◎ قرآن مجید کی منسوخ اور ناسخ آیتوں کے متعلق :-

بسم اللہ کی ”ب“ حصہ والی اس کی ”س“ تک اور قرآن مجید کا کلام ہونے پر ہمارا

ایمان ہے۔ قرآن مجید کی تمام آیتوں کے حق ہونے پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کے کئی اقسام ہیں۔ جن میں سے آیات منسوخہ اور آیات ناسخہ کے متعلق ہم معلومات حاصل کریں۔

(۱) منسوخ اس آیت کو کہتے ہیں کہ جس کا حکم واپس لے لیا گیا ہو یعنی اس آیت پر عمل کرنے کا حکم رد فرما دیا گیا ہو۔ آیت کے منسوخ ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ آیت قرآن شریف سے رد و باطل کر دی گئی۔ وہ آیت منسوخ ہونے سے پہلے جس طرح قرآن کا ایک حصہ تھی، اسی طرح ہی وہ آیت منسوخ ہونے کے بعد بھی قرآن کا ایک حصہ ہی ہے۔ وہ آیت قرآن مجید میں منسوخ ہونے کے بعد بھی مثل سابق برقرار ہے۔ اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے اور جو اجر و ثواب اور فضیلت دیگر آیات کی تلاوت میں ہے، وہی اس آیت میں بھی ہے۔ البتہ اس آیت کا حکم واپس لے لیے جانے کی وجہ سے اب اس آیت کے حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس آیت سے شرعی احکام و مسائل نافذ کیے جائیں گے۔ الحاصل! موجودہ قرآن مجید میں جو منسوخ آیتیں ہیں ان کی تلاوت باقی ہے لیکن ان آیتوں پر عمل نہیں۔

اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیتوں کو کیوں منسوخ کر دیا گیا ہے اور قرآن کی آیتوں کے منسوخ ہونے کا قرآن میں ثبوت ہے یا نہیں؟

قرآن مجید میں ہے کہ:-

”مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّثْلَهَا أَوْ مِثْلَهَا“

(پارہ: ۱، سورہ البقرہ، آیت: ۱۰۶)

ترجمہ:- ”جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کے یہ کئی تفسیریں منسوخ ہونے سے بہتر یا جیسی لے آئیں گے۔

(۱) آیت کا منسوخ ہونا دو طرح ہوتا ہے: کبھی آیت کا صرف حکم منسوخ ہوتا ہے اور کبھی آیت کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوتے ہیں۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی (التوتنی ۵۴۵۸ھ) نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک انصاری صحابی شب کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو انہوں نے دوسرے صحابہ کرام سے اس کا ذکر کیا تو ان حضرات نے فرمایا کہ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ وہ سورت ہمیں بھی یاد تھی لیکن اب وہ ہمارے حافظہ میں بھی نہ رہی۔ سب نے حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ عرض کیا۔ حضور اقدس نے فرمایا آج شب وہ سورت اٹھالی گئی۔ اس کے حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہوئے۔ یہاں تک کہ جن کاغذوں پر وہ سورت لکھی ہوئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔“

(حوالہ: تفسیر خزائن العرفان، ص: ۳۰)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جن آیتوں کے حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہوئے ہیں، وہ آیتیں اب قرآن مجید میں موجود نہیں۔ صرف وہی منسوخ آیتیں موجود ہیں جن کا حکم تو منسوخ ہو گیا ہے لیکن تلاوت باقی ہے۔ لہذا آیات منسوخہ کے متعلق ہم جو وضاحت پیش کر رہے ہیں اس سے وہی آیات منسوخہ مراد ہیں جن کا حکم منسوخ اور تلاوت باقی ہے۔

(۲) قرآن کی کسی آیت کا حکم قرآن ہی کی کسی دوسری آیت سے منسوخ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں اس امر کا التزام ہوتا ہے کہ جو آیت منسوخ ہوتی ہے وہ پہلے نازل شدہ ہوتی ہے یعنی آیت مقدمہ ہوتی ہے اور جو آیت ناسخ ہوتی ہے یعنی جس آیت کی وجہ سے کسی دوسری آیت یا آیتوں کا حکم منسوخ ہوتا ہے وہ تاخیر آیت ہے اور پہلے نازل شدہ ہوتی ہے یعنی آیت

موخرہ ہوتی ہے۔

(۳) حدیث متواتر سے بھی کسی آیت کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے (حوالہ: تفسیر خزائن العرفان، ص: ۳۰) اس کی بحث بہت طویل ہے لہذا یہاں اس بحث کو طویل تحریر کے خوف سے ترک کر دیتے ہیں۔

(۴) ناسخ اس آیت کو کہتے ہیں کہ جس آیت کی وجہ سے کسی آیت کا حکم منسوخ یعنی زائل ہو گیا ہو۔ ناسخ آیت کا نزول منسوخ آیت کے بعد میں ہوتا ہے۔

(۵) قرآن مجید کی آیات ناسخہ اور آیات منسوخہ دونوں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور دونوں اقسام کی آیات عین حکمت پر مبنی ہیں۔ یعنی کبھی ایک حکم ایسا نازل ہوتا ہے جو بندوں کے لیے آسان اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ پھر اسی حکم کو بدل کر اس کی جگہ زیادہ آسان اور نفع بخش حکم نازل کیا جاتا ہے۔ یعنی پہلا حکم ایک متعین مدت کے لیے اور عین حکمت پر محمول تھا اور مدت گزر جانے کے بعد اب حکمت یہ ہے کہ اس حکم کو بدل کر اس حکم سے بھی زیادہ آسان اور زیادہ نافع حکم بعد میں نافذ کیا جائے۔

(۶) ایک ضروری بات یہ بھی ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ قرآن مجید میں ماضی کے واقعات اور ماضی کے اخبارات کا جو ذکر ہے، اور جن آیتوں میں قرآنی اخبارات اور قصص مذکور ہیں، وہ آیتیں کبھی بھی منسوخ نہیں ہوتیں بلکہ صرف وہی آیتیں منسوخ ہوتی ہیں جن میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہو یا کسی کام سے روکا گیا ہو۔ یعنی حلال و حرام کے بعض احکام بدلے گئے ہیں لیکن جب دین حنیف یعنی شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکمیل ہو گئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (سورہ المائدہ، آیت: ۳)

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ترجمہ:- ”آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری

کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔“ (کنز الایمان)

تو اب قرآن کے حلال و حرام کے احکام میں تبدیلی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں رہا کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پروردہ فرمانے کے بعد قیامت تک اب کوئی بھی منصب نبوت پر فائز نہیں ہوگا۔ لہذا احلال و حرام کے احکام میں اب کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اب ہم ایک مثال ایسی پیش کرتے ہیں تاکہ اس مثال سے قارئین کرام کو نسخ اور منسوخ کی صحیح تفہیم حاصل ہونے کے ساتھ دورِ حاضر کے منافقین کی جعل سازی، دروغ گوئی، کذب بیانی، فریب دہی، اور قرآن مجید کی مقدس آیت کی آڑ میں قوم و ملت کے ساتھ کی جانے والی دھوکہ بازی سے آگہی اور واقفیت حاصل ہو، اور ان کے دام فریب میں پھنسنے سے محفوظ رہیں۔

◎ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ - آیت منسوخ ہے اور کیوں منسوخ ہے؟

جب اسلام کا ابتدائی دور تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری نبوت اور توحید خالص کے اعلان کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور چند حضرات ہی اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ قریش مکہ اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کی روک تھام کے لیے روزانہ نئی ترکیب تجویز کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ترکیب یہ تھی کہ:-

”قریش کی ایک جماعت نے حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے دین کا اتباع کیجیے، ہم آپ کے دین کا اتباع کریں گے یعنی ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ! میں اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کروں گا۔ اس پر قریش کی جماعت نے کہا کہ آپ ہمارے کسی معبود (یعنی بت) کو صرف ہاتھ ہی لگا دیجیے، ہم آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ ہرگز معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر سورۃ

الکافرون نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام (خاتہ کعبہ) میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یہ سورت یعنی سورۃ الکافرون پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے اور حضور کے اور حضور کے اصحاب کے درپے ایذا ہو گئے۔“

(حوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۱۰۸۵)

جب کفار مکہ اپنی ترکیب میں کامیاب ہونے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے ظلم و ستم اور زور و تشدد کا طریقہ اپنایا۔ اور حالت یہ تھی کہ صحابہ کرام ہر وقت کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کے نشانہ پر تھے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ”أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِإِنِّهِمْ ظَالِمُونَ“ (پارہ: ۷۷، سورۃ الحج، آیت: ۳۹) ترجمہ:- ”پر وائی (اجازت) عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا۔“ (کنز الایمان) کی تفسیر میں مرقوم ہے کہ:-

”کفار مکہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزمرہ ہاتھ اور زبان سے شدید ایذا میں دیتے اور آزار پہنچاتے تھے اور صحابہ حضور کے پاس اس حال میں پہنچتے تھے کہ کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پاؤں بندھا ہوا ہے۔ روزمرہ اس قسم کی شکایتیں بارگاہ اقدس میں پہنچتی تھیں اور اصحاب کرام کفار کے مظالم کی حضور کے دربار میں فریادیں کرتے۔ حضور یہ فرما دیا کرتے کہ صبر کرو۔“

(حوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۶۰۵)

صحابہ کرام کا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صبر کرنا اور کسی قسم کی جوابی کارروائی نہ کرنا کفار مکہ کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنا۔ انہوں نے صحابہ کرام کے صبر کو کمزوری میں شمار کرتے ہوئے ظلم و ستم کرنے میں حد سے تجاوز کرنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار مکہ کو تہدید اور تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے کہ اگر تمہیں میری دعوت حق قبول نہیں تو سرزمین حرم مقدس پر لڑائی اور جھگڑا کیوں کرتے ہو۔ لڑائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے۔ کیونکہ:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ -

(پارہ: ۳۰، سورۃ الکافرون، آیت: ۶)

ترجمہ:- تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔“ (کنز الایمان)

یعنی تمہارا کفر و شرک تمہارے لیے ہے اور اس کا وبال تمہارے ہی سر پر ہے اور رہے گا اور میرے لیے میری توحید، میرا اسلام اور سچائی کی راہ ہے۔

اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ کفار مکہ کی کثیر تعداد کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد سالن میں نمک کی مقدار کی طرح تھی۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم کی جوابی کارروائی کا قدم اٹھانا نقصان دہ تھا۔ وقت کا تقاضا یہی تھا کہ کفار مکہ سے تعرض نہ کیا جائے بلکہ مناسب وقت اور موقعہ آنے تک صبر کیا جائے۔ لہذا قرآن میں **لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ** کا حکم نازل ہوا۔

وقت اپنی تیز رفتاری سے گزرتا گیا۔ ظاہری نبوت کے اعلان کو تیرہ سال کا عرصہ گزر گیا کفار مکہ نے ان تیرہ سال کے عرصہ کے درمیان مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ ظلم و ستم غلو کی حدیں بھی متجاوز کر چکے تھے۔ یہاں تک کہ شیخ نجدی (شیطان) کی معیت و موجودگی میں ”دارالندوہ“ میں کفار مکہ کے سرداروں نے میٹنگ بلائی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے شب میں ہی مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں آفتاب اسلام کی تابناکی شباب پر آئی اور لوگ جوق در جوق اور گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں کی تعداد میں روزانہ اضافہ ہونے لگا اور اچھی خاصی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ کفار مکہ کے ایماء و اشارہ پر مدینہ منورہ کے کفار و مشرکین اور یہودیوں نے سرشی اور شرارتیں شروع کیں۔ لیکن صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صبر سے کام لیتے تھے اور جو رویہ مکہ معظمہ میں اپنایا تھا یعنی **لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ** پر عمل کرتے ہوئے جوابی کارروائی سے باز رہے۔

مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مکہ معظمہ میں کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کا جواب دیتے ہوئے جنگی اقدام اٹھانے مضر اور نقصان دہ تھے لہذا وہاں سورۃ

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

الکافرون نازل ہوئی اور "لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ" کا حکم نافذ فرمایا گیا لیکن اب مدینہ منورہ کا دیگر ماحول تھا۔ اسلام نے تقویت حاصل کر لی تھی اب مدینہ طیبہ میں "لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ" پر عمل کرتے ہوئے خاموش بیخار بننا نقصان دہ ہے کیونکہ کثرت تعداد کے باوجود بھی کچھ نہ کرنا اور سر پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا کمزوری اور بزدلی میں شمار ہوگا۔ لہذا ۲ھ میں مدینہ طیبہ میں سورۃ الحج نازل ہوئی اور سورۃ الحج کی آیت نمبر ۳۹ "أُذِنَ لِلَّذِينَ نَزَلَ" نازل ہوئی۔ یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس آیت سے کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد اور قتال کرنے کا حکم نافذ ہوا۔

غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا کتنا عظیم ہے۔ مکہ معظمہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہاد و قتال سے منع کیا گیا تھا۔ حالانکہ صحابہ کرام روزانہ کفار مکہ کے ہاتھوں زخمی ہو کر خدمت اقدس میں آتے تھے اور کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کی فریادیں کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ مجھے قتال و جہاد کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے جب مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی تو اس کی اجازت دی گئی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ مکہ مکرمہ میں کفار و مشرکین بہت زیادہ تعداد میں تھے اور ان کو اقتدار و غلبہ حاصل تھا، جب کہ مسلمان بہت کم، خال خال اور کمزور تھے۔ اس بنا پر رب العزت کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ جہاد و قتال کی مشروعیت کو اس وقت تک مؤخر رکھا جائے جب تک کہ محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز نہ ہو جائیں۔ چنانچہ جب حضور اقدس مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور صحابہ کرام کی جمعیت اچھی خاصی تعداد میں ہو گئی، تب سورۃ الحج کی آیت: ۳۹ کے ذریعہ جہاد و قتال کی مشروعیت مستقل طور پر ہوئی۔

۲ھ میں جہاد و قتال کی اجازت عطا ہونے کے بعد غزوات اور سرایا کا آغاز ہوا۔ اور حسب ذیل غزوات اور سرایا وقوع پذیر ہوئے۔

۵.۲ ◉ غزوات :- (۱) جنگ بدر اولیٰ (۲) جنگ بدر (۳) ابواء (۴) بواط

(۵) عسیرہ (۶) سویق (۷) قرقر و الکدی (۸) غزوة

قیقاع

◉

سرایا :- (۱) داررقم (۲) سعد بن ابی وقاص (۳) عبداللہ بن

محسن (۴) عمیر بن عدی (۵) سالم بن عمیر

نوٹ :- غزوات جمع ہے غزوة کی۔ اور غزوة اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے ہوں۔

سرایا جمع ہے سریہ کی اور سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذات خود تشریف نہ لے گئے ہوں بلکہ اپنے اصحاب کو کسی کی سرداری میں دشمنوں کے مقابلہ میں بھیج دیا ہو۔ مثال کے طور پر ۵.۲ میں حرار نام کی پتھروں کی وادی جو حنفہ کے قریب ہے اس کی طرف حضرت سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ فرمایا۔ اس لشکر کے لیے سفید علم (Flag) تیار کیا گیا تھا اور حضرت مقداد بن الاسود اس کے علمبردار تھے۔ اس سریہ کا نام سریہ سعد بن ابی وقاص مشہور ہے۔

۵.۳ ◉ غزوات :- (۱) جنگ احد (۲) غزوة غطفان (۳) غزوة نجران

◉ سرایا :- (۱) سریہ قر وہ (۲) سریہ ریح (۳) سریہ ابوسلمہ مخزومی

(۴) سریہ عبداللہ بن انیس

۵.۴ ◉ غزوات :- (۱) غزوة بنی نضیر (۲) غزوة بدر صغریٰ

◉ سرایا :- (۱) سریہ بیر معونہ

۵.۵ ◉ غزوات :- (۱) غزوة مرسیع (غزوة بنی المصطلق) (۲) غزوة احزاب

(خندق) (۳) غزوة بنو قریظہ (۴) غزوة دومتہ الجندل

◉ سرایا :- (۱) سریہ ابو عبیدہ بن الجراح بجانب سیف البحر

marfat.com

۵۔ ۶۔ غزوات :- (۱) غزوة ذات الرقاع (۲) غزوة ذي قرد (۳) غزوة بنوحيان
سرایا :- (۱) سریہ محمد بن مسلمہ بجانب بنی کلاب (۲) سریہ محمد بن
مسلمہ بجانب بنی ثعلبہ (۳) سریہ محمد بن مسلمہ بجانب نجد
(۴) سریہ عکاشہ بن محسن بجانب بنی اسد (۵) سریہ زید بن
حارثہ برموضع جموم (۶) سریہ زید بن حارثہ برموضع غمیس
(۷) سریہ زید بن حارثہ بجانب وادی القرئی (۸) سریہ زید
بن حارثہ بجانب ام قرقہ (۹) سریہ زید بن حارثہ بجانب
طرف (۱۰) سریہ زید بن حارثہ بجانب بخشئی (۱۱) سریہ زید
بن حارثہ بجانب وادی القرئی باروم (۱۲) سریہ عبدالرحمن
بن عوف بسوئے بنی کعب (۱۳) سریہ عبداللہ بن رواحہ
بسوئے اسیر بن رزم یہودی بمقام خیبر۔

مندرجہ بالا وضاحت کے مطابق جہاد اور قتال کی اجازت عطا ہونے کے بعد یعنی

۲ھ سے ۶ھ تک کل بیس (۲۰) غزوات اور چوبیس (۲۴) سرایا واقع ہوئے۔ ان تمام
محاذات میں اسلامی لشکر نے فتح و کامیابی حاصل کی اور کفار، مشرکین و یہود کو شکست فاش
ہوئی۔ ان غزوات اور سرایا کے نتائج نے دشمنوں کو مغلوب، مرعوب اور خوف زدہ کر دیا۔ اسلام
اور مسلمانوں کا زعب و دبدبہ چھا گیا اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا۔

۶ھ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ عمرہ کرنے
کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے لیکن قریش مکہ مانع ہوئے لہذا آپ مکہ معظمہ
سے نو (۹) میل کے فاصلہ پر واقع حدیبیہ نام کے مقام پر ٹھہرے۔ وہاں کل بیس (۲۰) دن
آپ نے اقامت کی۔ حدیبیہ میں ”بیعت رضوان“ اور ”صلح حدیبیہ“ کے واقعات وقوع پذیر
ہوئے جن کا ذکر یہاں نہیں کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ”ضیحان“ نام کے
مقام پر پہنچے اور ایک روایت میں ہے کہ جب ”کراع الثمیم“ نام کے مقام کے قریب پہنچے تو
سورۃ الفتح (انا فتحناک فتحاً مبیطاً بارہ: ۲۶) نازل ہوئی۔ اس مقدس سورت کی

ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں:-

”مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلٰى الْكُفّٰرِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ“
(پارہ: ۲۶، سورۃ الفتح، آیت: ۲۹)
ترجمہ:- ”محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل“ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) (کنز الایمان)

اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ”کافروں پر سخت ہیں“ یعنی اب مکہ معظمہ کی طرح ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے کُفْمٌ دِيْنُكُمْ وَلِيْ دِيْنٍ والا معاملہ نہیں بلکہ اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کا دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ چنانچہ:-

○ ۷. غزوات:- (۱) غزوة خيبر (۲) غزوة وادي القرى

(۱) سریہ فدک (۲) سریہ ابو بکر صدیق (۳) سریہ عمر بن

الخطاب (۴) سریہ بشیر بن السعد انصاری (۵) سریہ غالب

لشی بجانب ميفه (۶) سریہ غالب لشی بجانب بنی الملوخ

○ ۸. غزوات:- (۱) غزوة حنين (بوازن) (۲) فتح مکہ (۳) غزوة طائف

(۱) سریہ موتہ (۲) سریہ غالب لشی بسوئے کدید (۳) سریہ

عمر دین العاص بجانب ذات السلاسل (۴) سریہ الخبط

(۵) سریہ ابو عامر اشعری (جنگ او طاس)

یعنی صرف دو سال کے قلیل عرصہ میں کل پانچ (۵) غزوات اور گیارہ (۱۱) سرایا وقوع

میں آئے۔

سورۃ الفتح نازل ہونے کے دو سال کے بعد یعنی ۷ھ اور ۸ھ دو سال کی مدت میں

کل پانچ (۵) سرایا وقوع (۱) سرایا وقوع (۲) سرایا وقوع (۳) سرایا وقوع (۴) سرایا وقوع (۵) سرایا وقوع اور

مردہ فتح مکہ کے بعد کفار اور مشرکین تیز یہود و نصاریٰ کی گھریں توڑ دیں اور انہیں پسپا کر کے رکھ دیا۔ اسلامی لشکر کی ہیبت اور دبدبے سے دشمن لرزنے اور کانپنے لگے اور اسلام نے ایسا غلبہ حاصل کیا کہ اعدائے دین میں اب آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت تک باقی نہیں تھی۔ ایک طرف سے کفار، مشرکین اور یہود کا معرکہ جنگ میں شکست اور ہزیمت اٹھانا، ان کی فوجی طاقت کا نیست و نابود ہونا، ان کے معاونین کا جان بچانے کی خاطر ادھر ادھر متفرق علاقوں میں منتشر ہونا اور دوسری طرف سے اسلامی لشکر کی فتوحات اور فتوحات کے ذریعہ کثیر تعداد میں مال غنیمت حاصل ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا مالی، اقتصادی اور فوجی اعتبار سے مضبوط و قوی ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام قبول کرنے والوں کا جم غفیر وغیرہ جو بات کی بناء پر اب مسلمانوں نے ایسا غلبہ حاصل کر لیا کہ اب کفار و مشرکین کی کسی قسم کی زیادتی اور شرارت کا بڑھ چڑھ کر منہ توڑ جواب دینا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ جب ایسا ماحول قائم ہو گیا تب قرآن مجید کی سورۃ التوبہ نازل ہوئی۔ ایک حوالہ سورت کے وقت نزول کے متعلق پیش خدمت ہے۔

”سورۃ التوبہ ۹ یعنی فتح مکہ کے ایک سال بعد نازل ہوئی ہے۔“

(حوالہ: تفسیر خزائن العرفان، ص: ۳۳۶)

اب ہم سورۃ التوبہ شریف کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں:-

”فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْضَرُوهُمْ وَاَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ“
⊙ = پارہ: ۱۰، سورۃ التوبہ، آیت: ۵ = ⊙
ترجمہ:- ”تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور قید کرو اور ہر جگہ ان کی تاک میں بیٹھو۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کے ہر لفظ اور ترجمے پر غور فرمائیں، اس آیت کو مفسرین کرام کی اصطلاح میں آیتِ قتال کہتے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے سے سورۃ الکافرون کی آیت لَکُم

هَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْقِتَالِ

ترجمہ:- ”یہ آیت منسوخ ہے آیت قتال سے۔“ (حوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۱۰۸۵)
صرف آیت قتال ہی نہیں بلکہ پوری سورۃ التوبہ میں کفار، مشرکین اور منافقین کے ساتھ شدت اور سختی کے ساتھ جہاد و قتال کرنے کے احکام نازل ہوئے ہیں۔ مثلاً:-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَاوْبَسَ الْمَاصِرُ

⊙ = پارہ: ۱۰، سورۃ التوبہ، آیت: ۷۳ = ⊙

ترجمہ:- ”اے غیب کی خبریں دینے والے (نبی) جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سختی کرو۔ اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا ہی بُری جگہ پلٹنے کی ہے۔“ (کنز الایمان)

سورۃ التوبہ کی تفسیر میں ہے کہ:-

”اس سورت کے اول میں بِسْمِ اللّٰهِ نہیں لکھی گئی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ سے مروی ہے کہ بسم اللہ امان ہے اور یہ سورت تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی ہے۔“ (حوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۳۳۶)

یہاں تک کہ تفصیلی وضاحت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سورۃ کافروں مکہ معظمہ میں ہجرت اقدس سے پہلے نازل ہوئی تھی اور اس وقت کے ماحول کی سبب سے اور نزاکت و نیز کفار

یہاں کی آیتوں اور دوسری آیتوں کی قلیل تعداد اور ترویج کی وجہ سے حکمت الہیہ کا اخصاء
یہاں "لَكُمْ بَيْنَكُمْ وَلِي يَنْبَغِي حَاكِمًا" فرمایا گیا۔ اس آیت پر سورہ تکوین تک عمل رہا کیونکہ
سورہ تکوین آیت "فَسَوْفَ نَسُوفُ نَسْفًا نَسْفًا" میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر: ۵ یعنی آیت
"قَالَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ" اور مجھے میرا دین پر عمل کرنے کا حکم منسوخ فرمایا گیا اور نیا حکم
نازل ہوا "قَالَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ" کو مارو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور قید کرو اور ہر جگہ ان کی تاک میں بیٹھو۔"
یعنی سورہ انعام کی آیت "لَكُمْ بَيْنَكُمْ وَلِي يَنْبَغِي حَاكِمًا" آیت قال سے منسوخ
ہے۔ اب اس کی صرف تلاوت باقی ہے، اس پر عمل نہیں لیکن.....؟

● منافقین زمانہ منسوخ اور متشابہ آیات ہی بطور دلیل پیش کرتے ہیں:-

منافقین زمانہ کا ہمیشہ یہ دعوہ رہا ہے کہ انبیائے کرام اور اولیائے عظام کی شان میں
کٹاٹی اور بے ادبی کرنے کے لیے آیات متشابہات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور اس کے
ظاہری لفظی معنوں سے استدلال کر کے گمراہیت پھیلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور اقدس
رحمۃ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر ثابت کرنے کے لیے سورہ الکہف اور سورہ عم
الجدہ کی آیت "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" بطور سند پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے اور
اپنے پیغمبروں کے کفریات پر پردہ ڈالنے کے لیے "لَكُمْ بَيْنَكُمْ وَلِي يَنْبَغِي حَاكِمًا" پیش کر کے
لوگوں کو زبوں پر تالا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس آیت کی من گھڑت اور باطل
تفسیر کرنے والے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ٹھکانے کی مشگر رہی ہے کہ کسی
وزارت کو جس کا فریضہ کا فرمت ہو۔

منافقین زمانہ اور بدعتوں کی حقیقت سے من گھڑتوں کے معنی اور اس کی

بدعت اور غیرت یمن کے غیر بوقریب ہرگز صحیح ہے۔ یہ جہاں سے بدعتوں
کا ذکر ہے، انہیں بدعتوں کے نام سے نہ لے کر بدعتوں کے معنی میں نہ لے کر
منافقین زمانہ کے معنی میں نہ لے کر۔ یہاں سے متعلقہ آیات کے معنی
میں سے لے کر۔ www.marfat.com سے لے کر۔

فلاں پیشوانے اپنی فلاں فلاں کتاب میں حضور اقدس جانِ ایمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ اس معاملہ میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تب وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اور لوگوں کو فریب دینے کے لیے اسی آیت کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں انہیں برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہیں۔ جب کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے تو یہ حضرات تو بہت بڑے عالم تھے۔ ان کو کافر و مرتد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کے اعمال ان کے ساتھ اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ اس معاملہ میں ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ عالموں اور مولویوں کے جھگڑے ہیں۔ ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دین کے معاملہ میں جھگڑا و فساد نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ** یعنی ”تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین“

واہ! صاحب واہ! جب اپنے پیشواؤں کے کفریات کا معاملہ درپیش ہوا تو فورا قرآن مجید کی آیت **لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ** پیش کر کے رفع دفع کر دیا۔ اگر واقعی تم اس آیت پر صحیح معنی میں عمل کرتے ہو تو پھر ۱) یا رسول اللہ! کہنے والے کو ۲) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنے والے کو ۳) درود تاج پڑھنے والے کو ۴) انبیائے کرام اور اولیائے عظام سے توسل و استمداد طلب کرنے والے کو ۵) رسول اللہ کو حاضر و ناظر ماننے والے کو اور دیگر عقائد صحیحہ رکھنے والے کو کیوں کافر و مشرک کہتے ہو؟ تب کیوں نہیں کہتے کہ جب کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے تو کروڑوں کی تعداد میں کلمہ گو اور اسلام کے پابند مسلمانوں کو کافر کیسے کہیں؟ تب تمہیں **لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ** آیت کیوں یاد نہیں آتی؟ تب تمہیں اور تمہارے پیشواؤں کو لرزہ کیوں نہیں آتا؟ تب اس آیت کا کیوں لحاظ نہیں کرتے؟ بلکہ جرأت و دلیری سے قلم کے ایک جھٹکے سے لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں پر کفر اور مشرک کے فتوے کیوں تھوپتے ہو؟ تمہارے پیشواؤں نے کن کن مسلمانوں کو کافر و مشرک کہا ہے وہ نظر واحد میں ملاحظہ کرو۔

۱) عبدالباقی، عبدالرسول، نبی بخش، علی بخش، غلام محی الدین، غلام حسین وغیرہ

نام رکھنے والا مشرک ہے (تقریباً بالاجمال) ملا مولوی اسماعیل دہلوی

(الایمان)

○ ”اللہ اور رسول نے چاہا تو فلاں کام ہو جائے گا“ ایسا کہنے والا شرک ہے۔ (بہشتی زیور، از: مولوی تھانوی)

○ انبیاء و اولیاء کے لیے تقویت والا شرک ہے۔ (تقویت الایمان)

○ یارسول اللہ کہنے والا شرک ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ، از: مولوی رشید احمد گنگوہی)

○ سہراباندھنے والا شرک ہے۔ (بہشتی زیور)

○ کسی ولی کی قبر پر غلاف اور چادر ڈالنے والا شرک ہے۔ (تقویت الایمان)

○ درود تاج پڑھنے والا شرک ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ)

○ کسی کی قبر یا درگاہ کا مجاور بن کر بیٹھنے والا، درگاہ سے رخصت ہوتے وقت

اُلٹے پاؤں چلنے والا، درگاہ کے کنویں کے پانی کو تبرک سمجھ کر پینے والا

اور درگاہ پر روشنی کرنے والا شرک ہے۔ (تقویت الایمان)

یہ تو صرف چند نمونے ہیں جو تمہارے پیشواؤں نے شرک کی مشین گن سے شرک کے

گولے (فتوے) کے طور پر ملت اسلامیہ کے کروڑوں کلمہ گو پر برسائے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ

مندرجہ بالا اقتباسات میں مرقوم شرک کے فتاویٰ کی ضد میں کتنے مسلمان آگئے؟ کتنی کثیر تعداد

میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں تم نے مسلمانوں کو کافر و شرک کہہ دیا؟ شرک کے مندرجہ بالا

فتوے مسلمانوں کے سروں پر تھوپتے وقت **لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ** آیت کیا تم بھول گئے

تھے؟

○ کافر کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں؟

صلح کلیت کی مذموم ہوا پھیلاتے ہوئے دور حاضر کے منافقوں نے یہ بات اس قدر

رائج و عام کر دی ہے کہ ”کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہئے“۔ اور اس باطل نظریے کے ثبوت میں

قرآن مجید کی سورۃ الکافرون کی آیت **لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ** کی من گھڑت تفسیر و تشریح

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کافر کو یقیناً اور ضرور کافر ہی کہا جائے گا۔ اس کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات، احادیث کریمہ اور ائمہ دین کی کتب معتبرہ شاہد و عادل ہیں۔ یہاں اپنی گنجائش نہیں کہ اس عنوان پر تفصیلی بحث کی جائے۔ اس عنوان کی وضاحت و تفہیم کے لیے ایک ضخیم کتاب درکار ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ و انشاء حید۔ (جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) مستقبل قریب میں اس عنوان پر فقیر راقم الحروف مبسوط بحث پر مشتمل تصنیف ارقام کرنے کا عزم منہتمم رکھتا ہے۔ یہاں اشارہ اور کتنا چندانہ نکات قارئین کی فرحت طبع کی خاطر پیش خدمت ہیں۔

(۱) ”کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے“ ایسا کہنے والا خود ہی اپنے جال میں پھنس رہا ہے۔ اس سے یہ سوال کر دو کہ کس کو کافر نہیں کہنا چاہیے؟ تو جواب دے گا کہ کافر کو۔ یعنی تم نے تو پہلے اس کو ”کافر“ کہہ دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہو کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ تمہارے اس جملہ میں تم نے اس کے کافر ہونے کا اقرار و اعتراف کر لیا اسی لیے تو اسے کافر مان کر کافر کہہ رہے ہو۔ عجیب بات ہے کہ کس کو کافر کہنے سے منع کر رہے ہو؟ کافر کو۔ اسی کو مدہوش کا جنونی خیال کہا جاتا ہے کہ خود تو اسے کافر کہیں، بحیثیت کافر ہی اس کا ذکر کریں اور اوپر سے یہ بے تکی ہانکتے ہوئے اوروں کو نصیحت و تنبیہ کرنا کہ اسے کافر مت کہو۔ یعنی کافر ہے، ہم کافر کہتے ہیں لیکن کافر کہنے سے منع بھی کرتے ہیں۔ کافر ہے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کافر کو کافر مت کہو۔

(۲) ”کافر کو کافر کیوں نہیں کہنا چاہیے؟“۔ جب یہ سوال ان منافقوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تو جواب دیتے ہیں کہ کافر کو کافر اس لیے نہ کہنا چاہیے کہ نہ جانے کب اسے اللہ ہدایت عطا فرمادے اور وہ مسلمان ہو جائے؟ واہ جناب! بڑی دہر کی اور لمبی سوچی۔ اگر یہی بات ہے تو پھر کسی بھی مسلمان کو مسلمان مت کہو کیونکہ نہ جانے کب اسے شیطان بہکا دے اور وہ دین

اسلام سے منحرف ہو کر کافر ہو جائے؟ اور ایسے بہت سے واقعات کتب احادیث و کتب سیر و تواریخ میں درج ہیں کہ ایمان لانے کے بعد مشہور و معروف شخصیتیں بھی بعد میں کافر و مرتد ہوئی ہیں۔ مثلاً:-

مسلمہ بن ثمامہ کذاب کہ جس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور وہ ”مسلمۃ الکذاب“ کے نام سے مشہور ہے۔ وہ جھوٹا مدعی نبوت مسلمہ کذاب ہے۔ اہل قبیلہ بنی حنیفہ کے وفد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا تھا۔ لیکن بعد میں مرتد ہو کر کافر ہو گیا۔ خلافت صدیقی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید ”سیف اللہ“ کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوبیس ہزار کاشکر لے کر مسلمۃ الکذاب کے چالیس ہزار کے لشکر سے مقابل ہوئے۔ اس جنگ کا نام ”جنگ یمامہ“ ہے۔ جو اہل ہجرت میں ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمۃ الکذاب مارا گیا۔

”ابن نطل“ نام کا ایک شخص کہ جس کا پورا نام عبدالعزیٰ ابن نطل تھا۔ وہ فتح مکہ سے پہلے مدینہ طیبہ آیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام عبدالعزیٰ بدل کر عبداللہ رکھا۔ یہ شخص کاتب وحی کی خدمت بھی انجام دیتا تھا یعنی حضور اقدس پر جو وحی نازل ہوتی تھی، اسے آپ مختلف کاتبوں سے لکھوایا کرتے تھے۔ ان کاتبوں میں عبدالعزیٰ ابن نطل بھی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اس کے قبیلہ میں بھیجا۔ تو وہ مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا۔ فتح مکہ کے دن ابن نطل نے اپنی جان بچانے کے لیے خانہ کعبہ کی پناہ لی اور خانہ کعبہ کے غلاف سے لٹ کر بھاگ گیا۔

اطلاع دیتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ابن نخل کعب کے پردوں سے لپٹا ہوا ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ چنانچہ اسے خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹی ہوئی حالت میں قتل کر دیا گیا۔

(حوالہ: - مدارج النبوت، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۹۶۲)

☆ جبکہ ابن ابہم غسانی کہ جو قبیلہ بنو غسان کا سردار تھا۔ وہ خلافت فاروقی میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لا کر مسلمان ہوا لیکن بعد میں کافر و مرتد ہو گیا اور ملک شام چلا گیا۔ ہرقل بادشاہ سے ملا اور ہرقل بادشاہ نے اسے اسلامی لشکر کے ساتھ لڑنے جنگ یرموک میں ساٹھ ہزار نصرانی عربوں کا سردار بنایا تھا۔ جس کی مفصل تفصیل حقیر و فقیر، سراپا تفسیر، راقم الحروف کی کتاب ”سرکٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب“ میں درج ہے۔

ایسے تو کئی واقعات پیش کیے جاسکتے ہیں لیکن ہم نے صرف تین واقعات پر اکتفا کیا ہے۔ ان واقعات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلہ میں قرآن مجید کی چند آیاتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کریں جن میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جانے والے افراد کا ذکر ہے۔

☆ آیت نمبر: -

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا
كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

(پارہ: ۵، سورۃ النساء، آیت: ۱۳۷)

ترجمہ: - ”بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑھے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشنے، نہ انہیں راہ دکھائے۔“ (کنز الایمان)

☆ آیت نمبر: - marfat.com

”لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ“

(پارہ: ۱۰، سورۃ التوبہ، آیت: ۶۶)

ترجمہ:- ”بہانے نہ بناؤ، کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔“ (کنز الایمان)
آیت نمبر ۳:-

”وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ“

(پارہ: ۱۰، سورۃ التوبہ، آیت: ۷۴)

ترجمہ:- ”اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے۔“ (کنز الایمان)

ایسی کئی آیات پیش کی جاسکتی ہیں لیکن ہم نے اختصار اختیار کرتے ہوئے صرف تین آیات ہی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات پر اور آیات کے ماقبل حدیث کے تین واقعات پر بھی کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا۔ انشاء اللہ اس عنوان پر ہم نے جس کتاب لکھنے کا عزم کیا ہے اس میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے اور جو شخص ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے اس کو کافر ہی کہا جائے گا اور اس کے ساتھ کافر جیسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ تو جو شخص ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے، ایسے شخص کو جب کافر کہا جاسکتا ہے تو اس شخص کو کیوں کافر نہیں کہا جائے گا جو پہلے ہی سے کافر ہے اور اب بھی اپنے کفر پر جما ہوا ہے۔ جو شخص جیسا آج ہے ویسا ہی اُسے کہا جائے گا۔ کل وہ کیا بن جائے گا؟ اُس کو آج قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ شریعت کا حکم اس کی آج کی موجودہ ظاہری حالت ہی پر نافذ ہوگا۔ اس کی آئندہ کل کی ممکن حالت کو قیاس کر کے اس کی آج کی حالت کے متعلق جو شرعی حکم ہے اسے موقوف یا رد نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن مجید میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسی آیات پائی جاتی ہیں جن میں لوگوں کو ان کی موجودہ حالت کے بموجب ذکر کیا گیا ہے یا خطاب کیا گیا ہے۔ مثلاً:-

marfat.com

(۲) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا = بے شک ایمان والے

(۳) يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا = اے ایمان والو

(۴) الْمُؤْمِنُوْنَ = ایمان والے

(۵) الْمُؤْمِنَاتُ = ایمان والیاں

☉ کافروں کے لیے:-

(۱) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا = اور وہ جنہوں نے کفر کیا

(۲) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا = بے شک کفار

(۳) يَاۤ اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ = اے کافرو

☉ مشرکوں کے لیے:-

(۱) اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ = بے شک مشرک لوگ

(۲) وَالْمُشْرِكِيْنَ = اور مشرکوں

(۳) مُشْرِكٌ = مشرک

ایسی تو قرآن کی آیت کے حوالے سے سینکڑوں مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ قرآن میں جس طرح مؤمن کو مؤمن، کافر کو کافر اور مشرک کو مشرک فرمایا گیا ہے اسی طرح:-

☉ یہودیوں کو الْيَهُودُ ☉ نصرانیوں کو النَّصْرَى ☉ منافق مردوں کو الْمُنَافِقِيْنَ
☉ منافق عورتوں کو الْمُنَافِقَاتُ ☉ ظالموں کو الظَّالِمُونَ اور الظَّالِمِيْنَ ☉ سرکشوں کو
طٰغِيْنَ ☉ شیطان اور اس کے گروہ کو الشَّيْطٰنُ، اِبْلِيسُ اور الشَّيْطٰنِيْنَ ☉ گندے یعنی
خبیث مردوں کو الْخَبِيْثِيْنَ ☉ گندیاں یعنی خبیث عورتوں کو الْخَبِيْثَاتُ ☉ جھوٹ
بولنے والوں یعنی جھوٹوں کو الْكَٰذِبِيْنَ ☉ بے حکم لوگوں یعنی فاسقوں کو الْفٰسِقِيْنَ اور
الْفٰسِقٰتُ ☉ زنا (پرانی عورت سے بدکاری) کرنے والے مرد کو الزَّانِيْ ☉ زنا کرنے والی
عورت کو الزَّانِيَّةُ ☉ چوری کرنے والے مرد کو السَّارِقُ ☉ چوری کرنے والی عورت کو
السَّارِقَةُ ☉ جرم کرنے والے کو الْمُجْرِمُ ☉ جرم کرنے والی کو الْمُجْرِمَاتُ

○ اندھے کو غنی اور اعمیٰ ○ گونگے کو بُنکَم ○ بہرے کو صُصم اور اسی طرح دیگر افراد کو ان کی اصلیت اور خصلت کے مطابق اس کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

جو شخص جیسا ہے، اسے ویسا ہی کہا جائے گا۔ قرآن مجید کی بھی یہی تعلیم ہے۔ جو لوگ یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ ”کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے“ وہ لوگ قرآن مجید کی تعلیم کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ ایک قیاس اور گمان کی بناء پر کہا جا رہا ہے کہ کافر کو کافر اس لیے نہیں کہتا چاہئے کہ کب اس کو ہدایت مل جائے اور وہ مؤمن ہو جائے۔ اس کا مؤمن ہو جانا یقینی نہیں ہے بلکہ قیاسی امکان ہے۔ امکان اور وہ بھی یقینی نہیں بلکہ قیاسی و خیالی ہے۔ ایسے خیالی خام اور خواب و خیال فاسد جیسی بات کو دلیل اور سند بنا کر قرآن مجید کے صاف اور صریح احکام کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ شریعت کا حکم ہر شخص کی موجودہ اور ظاہری حالت پر ہی نافذ ہوتا ہے۔ وہم و گمان میں کسی کی مستقبل کی یقینی نہیں بلکہ امکانی حالت کو موجودہ حالت پر محمول نہیں کیا جاسکتا اور اس کی کوئی وقعت اور اہمیت بھی نہیں۔ ایسا وہم و گمان نقل اور عقلاً باطل ہے۔

مستقبل میں کسی کی امکانی حالت کو زمانہ حال پر محمول کرنا تو دؤر کی بات ہے بلکہ کسی کی مستقبل کی یقینی حالت کو بھی زمانہ حال پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً:-

○ قرآن مجید کی آیت **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ** کے مطابق ہر جاندار کو موت کی آغوش میں جانا ہے۔ یعنی مردہ ہونا ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے، بلکہ اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش و امکان نہیں کہ ہر زندہ ایک دن ضرور مردہ ہونے والا ہے۔ لیکن کیا اس یقین کی بناء پر یہ کہنا درست ہے کہ زندہ آدمی کو زندہ مت کہو کیونکہ یقیناً وہ ایک دن مردہ ہونے والا ہے۔

○ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک مختلف طبقات سے اس کی زندگی گزرتی ہے یعنی بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن کے بعد جوانی اور جوانی کے بعد بڑھاپا یقینی ہے۔ تو کیا یہ کہنا عمل و خرد کے دائرہ سے باہر نہیں کہ کسی بچے کو بچہ مت کہو کیونکہ وہ یقیناً جوان ہونے والا ہے اور کسی

جوان کو جوان مت کہو کیونکہ اس کے لیے بڑھا پائی یعنی ہے۔

○ باغبانی کا طریقہ یہ ہے کہ زمین میں پہلے بیج بویا جاتا ہے۔ پھر وہ بیج کو نیل بن کر پھوٹتا ہے۔ پھر وہ کو نیل رفتہ رفتہ پودے کی شکل اختیار کرتی ہے۔ پھر وہ پودا پھوٹتا پھلتا ہے اور پالا آخر وہ سایہ دار درخت بنتا ہے۔ یہ عام تجربہ کی بناء پر یعنی بات ہے۔ اب کوئی عقل کا مارا یہ کہے کہ پودے کو پودا مت کہو کیونکہ وہ یعنی طور پر کب سایہ دار درخت ہو جائے؟

یہ تین مثالیں تو مستقبل میں یعنی طور پر حالت مثبتہ ل ہونے کی ہیں۔ جس کی حالت کا مستقبل میں تبدیل ہونا یعنی ہے، پھر بھی اس یقین کی بناء پر اس کی موجودہ حالت کو مستقبل پر ہرگز محمول نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے لیے وہی کہا جائے گا جو اس کی اس وقت کی موجودہ حالت ہے یعنی زندہ کو زندہ، بچے کو بچہ، جوان کو جوان اور پودے کو پودہ ہی کہا جائے گا۔ جب یقین کے درجہ میں ہونے والے معاملے کو خاطر میں نہیں لایا جاسکتا تو منافقین زمانہ تو قیاس و گمان کرتے ہوئے امکانی درجہ میں کہتے ہیں کہ ”کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ نہ جانے کب وہ مسلمان ہو جائے۔“ اگر قیاس و امکان میں ہونے والی مستقبل کی حالت کو اہمیت دیتے ہوئے زمانہ حال کی موجودہ حالت کی حقیقت سے انکار کیا جائے گا تو آدمی کا جینا ڈوبھر ہو جائے گا۔ چند امکانی مثالیں ملاحظہ فرمائیں:-

○ اپنی بیوی کو بیوی مت کہو، نہ جانے کب تم اسے طلاق دے دو اور تم سے طلاق حاصل کرنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کر کے اس کی بیگم بن جائے؟

○ تمہارے گھر میں چوری کرنے کوئی چور گھسے تو ”چور آیا۔ چور آیا“ اور ”چور کو پکڑو“ مت چلاؤ، اس چور کو چور مت کہو، نہ جانے کب وہ چوری کے دھندھے سے توبہ کر کے دیانتدار اور راست باز ہو جائے۔

○ ڈاڑھی منڈانے والے کو فاسق مت کہو، نہ جانے وہ کب توبہ کرے

martat.com

گنڈ اور نالی میں بہتے ہوئے ناپاک اور گندے پانی کو ناپاک مت کہو، نہ جانے یہ کب سمندر میں جا ملے اور سمندر کے پانی میں مل کر پاک اور صاف ہو جائے۔

جاہل کو جاہل مت کہو نہ جانے کب علم سیکھ کر عالم ہو جائے۔

دودھ کو دودھ مت کہو نہ جانے وہ کب ذہبی یا چھا چھ بن جائے۔

درخت کو درخت مت کہو نہ جانے کب وہ کٹ کر لکڑی بن جائے اور لکڑی کو بھی لکڑی نہیں کہنا چاہیے نہ جانے کب وہ جل کر کوئلہ ہو جائے اور کوئلہ کو بھی کوئلہ مت کہو نہ جانے کب وہ راکھ ہو جائے۔

ناپاک کپڑے کو ناپاک مت کہو نہ جانے کب اسے دھو کر پاک کر لیا جائے۔

آنکھ والے کو آنکھیا رہ مت کہو نہ جانے کب وہ اندھا ہو جائے۔

لذیذ عمدہ کھانوں اور پھل و میوات کی مرغوب خوشبو کی وجہ سے اسے خوشبو دار مت کہو نہ جانے کب وہ کھائے جانے کے بعد بدبودار پاخانہ ہو جائے۔

شرابی کو شرابی مت کہو نہ جانے کب وہ نمازی ہو جائے۔

نافرمان کو نافرمان مت کہو نہ جانے کب وہ فرمانبردار ہو جائے۔

دن کو دن مت کہو، ہو سکتا ہے کہ آفتاب غروب ہونے پر وہ رات ہو جائے۔

رات کو رات مت کہو، نہ جانے کب آفتاب طلوع ہو جائے اور دن ہو جائے۔

دوست کو دوست مت کہو نہ جانے کب وہ دشمن ہو جائے اور اسی طرح دشمن کو بھی دشمن نہ کہو، نہ جانے کب وہ ہمدرد دوست ہو جائے۔ وغیرہ وغیرہ

”نہ جانے کب“ اور ”نہ جانے کب“ کو مدار بنا کر ایسی سینکڑوں

ہند ہزاروں مثلاً میں جیسا کہ جانتی ہیں کہ "سجبت" اور "ہوسکتا ہے کہ" کا جملہ استعمل کرنے کی گئی بات، قابل التفات وساعت ہوتی ہے۔ اس بات کو پیش دہندہ جانا کہ کتابیہ تو توفی ہے۔ منافقین نہایت کا نظریہ کہ "کافر کو کافر نہیں کہنا چاہئے" یعنی نہ جانے اور ہو سکتا ہے کہ وہ سب مسلمان ہو جائے۔ یہ نظریہ بھی ہر مہر مہر مہر عقل و انصاف کے خلاف ہونے کے ساتھ قرآن و حدیث کے معانی و شرح و ارشادات کی مخالفت چوتھی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مزید قطعی دلیلوں کے حوالے میں انکی خیالی، قیاسی اور لمکانی بات کو بطور دلیل دینا شخص پیش کر سکتا ہے، جس کی عقل کے طرے ڈر گئے ہوں۔ یا جو جان بوجھ کر بڑھستانی، بہت دھرم اور منہ زور کرتا ہے اور اس کا مقصد ملت اسلامیہ کے سیدھے سادے اور بھولے بھالے لوگوں کو بہکا کر گمراہی و ضلالت میں لانا ہے۔ کلابا زرد گرم گرم کے تحت خسا اور برپا کرتا ہے۔

اگر مہذب و متعلم اور پختہ فکر کے منافقین کا نظریہ "کافر کو کافر نہیں کہنا چاہئے" اس وجہ سے قبول کر لیا جائے کہ "نہ جانے وہ کب مسلمان ہو جائے" تو پھر کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ دلوں کو اچھا کہہ سکیں گے اور نہ ہی بُرے کو بُرا کہہ سکیں گے کیونکہ نہ جانے اچھا کب بُرا ہو جائے اور نہ نہ جانے کب اچھا ہو جائے۔ ہر شخص کی زبان پر تالا لگ جائے گا۔ دنیا کی کسی بھی زبان میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ کچھ بھی کہتے وقت یہ احتمال لاحق ہوگا کہ ہو سکتا ہے یا نہ جانے کب وہ ایسے میں سے دیا ہو جائے۔

(۳) یہاں تک جو مختصر گفتگو کی گئی ہے اس گفتگو کے مطابق منافقین زمانہ کے

"کافر کو کافر نہ کہنا چاہئے" والے فاسد نظریہ کا جواب دیا جاتا ہے تو وہ بولکھلا جاتا ہے اور "ہر فرعون نے راموسی" والی مثل کے مطابق وہ "فرق نیل" ہونے کے بجائے نیل ڈھلا (بے حیا) اور نیل بگڑا (بے عقل) ہو کر اپنی نیل جلی کا ثبوت دیتے ہوئے فوراً گفتگو کا رخ پلٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب آپ تو خراگہ مشتعل اور براعت ہو گئے۔ آپ کا مطلب نہیں سمجھیں۔ کافر کو کافر نہ کہنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ کسی بھی کافر کو "کافر" کہہ کر مخاطب نہیں کرنا۔

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وتہذیب کے خلاف ہے۔ نیز اس کافر صاحب کی دل آزادی بھی ہے لہذا کسی کافر کو ”اے کافر“ کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے اور یہی مطلب ہے ہمارے مقولے ”کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے“ کا جو آپ نہیں سمجھے۔

اسی کو کہتے ہیں سمجھ کا الٹی ہونا اور سمجھ پر پتھر پڑنا۔ خود تو نا سمجھی کی بات کریں دوسروں کو سمجھ بوجھ سے سمجھوتا کرنے کی نصیحت کریں۔ ”کافر کو اے کافر کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے“ یہ نظریہ بھی سراسر غلط اور قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے۔ جس سورت کی آخری آیت لَکُمْ دینکم ولسی دینن کی غلط تفسیر و تشریح پیش کر کے منافقین زمانہ صلح کلیت کا مہلک مرض پھیلا رہے ہیں، اسی سورت یعنی سورۃ الکافرون کی پہلی آیت تلاوت کریں:-

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
⊙ = پارہ: ۳۰، سورۃ الکافرون، آیت: ۱ = ⊙
ترجمہ:- ”تم فرماؤ اے کافرو!“ (کنز الایمان)

آیت کریمہ کا ترجمہ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ آیت کے شروع میں لفظ ”قُلْ“ وارد ہے۔ جو ”قَوْلٌ“ مصدر کا صیغہ امر ہے یعنی لفظ ”قُلْ“ کے ذریعہ کہنے کا حکم فرماتا ہے۔ کیا کہنے کا حکم فرماتا ہے؟ اور کس کو کہنے کا؟ تو جواب صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ ”کافروں کو اے کافرو! کہو“ ایسا حکم اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو فرماتا ہے۔ ثابت ہوا کہ کافر کو ”اے کافر“ کہنا قرآن سے ثابت ہے۔ نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ:-

⊙ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر کو اے کافر کہو۔

⊙ منافقین زمانہ کہتے ہیں کہ کافر کو اے کافر مت کہو۔

قارئین فیصلہ فرمائیں، میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے یا منافقین زمانہ کا؟ کافر کو کافر کہنے یا نہ کہنے کے معاملہ میں منافقین زمانہ اوٹ پٹانگ دلیلیں پیش کر کے آپ اپنے دام میں صیاد آگیا جیسی حالت سے دوچار ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ”رسی جل گئی پر بل نہیں گیا“ والی کہاوت پر عمل

marfat.com

کرتے ہوئے سورۃ الکافرون کی مذکورہ آیت کی مزید اناپ شناپ تاویل کرتے ہیں۔ اس وقت ان کی حالت ”میاں ناک کانٹے کو پھریں بیوی کہے مجھے نتھ گھڑاؤ“ کی طرح خراب ہوتی ہے۔

اس بحث کو مزید طول نہ دیتے ہوئے ہم اسے ہمیں اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ اس عنوان کے سلسلہ میں منافقین زمانہ کی تمام ریشہ دواٹیوں کا انکشاف ہم ہماری اس عنوان پر لکھی جانے والی کتاب میں تفصیل و صراحت سے بیان کریں گے۔ (انشاء اللہ تعالیٰ و انشاء حیب)

اس وقت ہم ”قرآن مجید کی آیتوں کے الفاظ کے ظاہری لغوی معنوں کو دلیل بنا کر کوئی عقیدہ یا عمل مقرر کرنا گمراہیت و بے دینی کا دروازہ کھولتا ہے“ عنوان کے تحت گفتگو کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ظاہری لفظی معنوں کو لے کر قرآن مجید کو سمجھنا محال ہے۔ بلکہ گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ مثلاً ”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کے ظاہری لفظی معنی اخذ کر کے منافقین زمانہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بے ادبی اور گستاخی کر کے گمراہ ہوئے۔ ان کی گمراہیت کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے پیشواؤں نے ان کو ایسی ذہنیت و جرأت دلائی ہے کہ بے پڑھا لکھا شخص بھی قرآن مجید کے معنی، مطلب اور مراد کو از خود سمجھ سکتا ہے۔

◎ قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر و وضاحت کے متعلق :-

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایسا جامع، مانع اور پراسرار کلام ہے جس کے صحیح معنی و مراد اس کلام کو نازل فرمانے والا اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے علم سے وہ جانتے ہیں جن پر یہ مقدس کلام نازل ہوا ہے یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ:-

(۱) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ (پارہ: ۱، سورۃ البقرہ، آیت: ۱۲۹)

ترجمہ:- ”اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہیں میں سے کہ ان پر

تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور

marfat.com

انہیں خوب سہرا فرمادے۔“ (کنز الایمان)

(۲) كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا
وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

(پارہ: ۲، سورۃ البقرہ، آیت: ۱۵۱)

ترجمہ:- ”جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے۔“

(کنز الایمان)

(۳) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

(پارہ: ۲۸، سورۃ الجمعہ، آیت: ۲)

ترجمہ:- ”وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔“ (کنز الایمان)

ان تینوں آیات میں صاف اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے رسول کو کتاب کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے۔ یعنی حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس صفت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنی امت کو کتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم فرماتے تھے۔ اگر قرآن مجید کو ہر شخص سمجھنے کی لیاقت و صلاحیت رکھتا تو پھر حضور اقدس کا تعلیم فرمانا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سکھانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور قرآن مجید کی مندرجہ بالا آیات میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن مجید کے معلم اعظم کی حیثیت سے کیوں کیا گیا ہے؟ ایک ضروری نکتہ کی طرف توجہ مرکوز کرنا درکار ہے کہ قرآن مجید خالص عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ جزیرۃ العرب کے باشندوں کی مادری زبان بھی خالص عربی ہے۔ یعنی قرآن مجید اہل عرب کی مادری زبان میں نازل ہوا ہے لہذا اہل عرب قرآن مجید کی آیتوں کے ظاہری لفظی معنوں کو سمجھنے کے لیے کسی کے محتاج نہ تھے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

فرماتا ہے کہ میرے محبوب کو لوگوں کو قرآن سکھانے بھیجا ہے۔ اس سکھانے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کی صحیح تفہیم۔ یعنی قرآن مجید کے اسرار و رموز اور مطلب و مراد کی معلومات۔ اگر ہر جاہل اور بے علم قرآن مجید کی آیتوں کے ظاہری لفظی معنوں سے قرآن مجید کو صحیح طور سے سمجھنے کی صلاحیت و لیاقت رکھتا ہے تو صحابہ کرام کو حضور اقدس نے قرآن کی تعلیم کیوں فرمائی اور صحابہ کرام نے حضور اقدس سے قرآن کی آیتوں کی صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے کیوں سوال کیے اور دریافت کیا؟ صحابہ کرام کی مادری زبان عربی تھی اور قرآن بھی عربی میں نازل ہوا تھا۔ پھر بھی انہوں نے از خود قرآن فہمی کی جرأت نہ کرتے ہوئے معلم اعظم قرآن کے سامنے زانوئے ادب کیوں تہ کیے؟ اور حضور اقدس معلم اعظم قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ نہ فرمایا کہ قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے بڑے علم کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باتیں بہت صاف اور صریح بیان فرمائی ہیں، ان کا سمجھنا مشکل نہیں۔ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ہر آیت کی مفصل وضاحت و تفسیر فرما کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سینوں کو علوم و عرفان و حکمت سے متور و لبریز فرمائے۔ پھر صحابہ کرام سے لے کر آج تک کہ ہر دور کے مفسرین کرام، ائمہ دین اور علمائے حق نے ہزاروں کی تعداد میں تفسیر قرآن اور علوم قرآن کے عنوان پر کتابیں کیوں تصنیف فرمائیں؟

◎ قرآن کی تفسیر:-

قرآن مجید کی تفسیر کے مختلف درجات ہیں۔ امام اجل، خاتم الحفاظ، علامہ جلال الدین عبدالرحمن کمال بن ابی بکر سیوطی (المتوفی ۹۱۱ھ) نے اپنی کتاب "طَبَقَاتُ الْمُفَسِّرِينَ" میں اس کی مبسوط بحث فرمائی ہے۔ ہم یہاں اس کا حاصل بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

قرآن مجید کی تفسیر کا درجہ مفسر یعنی تفسیر کرنے والی ذات پر منحصر ہے۔ ذیل میں تفسیر کے درجات مرقوم کیے جاتے ہیں، جس سے اس حقیقت کی تفصیلی معلومات حاصل ہوگی۔

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

(۱) تفسیر قرآن از قرآن :-

قرآن مجید کی بعض آیتوں کی تفسیر قرآن مجید کی بعض آیتوں سے معلوم کی جاسکتی ہے بلکہ درحقیقت واقعی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی آیت کریمہ :-

”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“

ترجمہ :- ”ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا“

(کنز الایمان)

اس آیت میں ”جن پر تو نے احسان کیا“ کا جملہ مبہم ہے اس میں اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ کن پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ لہذا یہ معلوم کرنے کی ضرورت اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ ایک تجسس پیدا ہوتا ہے۔

سورۃ الفاتحہ کی مندرجہ آیت میں جن لوگوں پر احسان کرنے کا ذکر ہے اس کی وضاحت قرآن مجید کی آیت ”فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ“ (پارہ: ۵، سورۃ النساء، آیت: ۶۹) ترجمہ :- ”تو اُسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید“ (کنز الایمان) سے ہوگی۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و احسان فرمایا ہے وہ انبیاء کرام، حضرات صدیقین اور شہداء کرام ہیں۔ گویا یوں کہئے کہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر ۶ کی تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر ۶۹ سے معلوم ہوئی۔

اس تفسیر کو یعنی قرآن کی آیت سے قرآن کی آیت کی تفسیر کو تمام تفسیروں پر اولیت و فوقیت حاصل ہے اور تمام تفاسیر سے ان کا درجہ اعلیٰ ہے۔ کیونکہ قرآن نازل فرمانے والے رب تعالیٰ نے ہی قرآن کی آیت کی قرآن کی آیت سے وضاحت فرمائی ہے۔

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اس تفسیر کو کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے از خود کسی آیت کی وضاحت فرمائی ہو یا کسی صحابی کے دریافت کرنے پر آیت کی وضاحت و تفسیر فرمائی ہو۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر ۱ "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ" ترجمہ:- "انہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بے ہوشوں کا۔" (کنز الایمان)۔ اس آیت میں بھی یہ تجسس ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر غضب ہوا ہے اور وہ بے ہوشے ہوئے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر حدیثوں میں دو طرح سے پائی جاتی ہے۔

اول:- حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے از خود اس آیت کی وضاحت

فرمائی۔ امام احمد اور امام ترمذی روایت فرماتے ہیں کہ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ هُمُ الْيَهُودُ وَإِنَّ الضَّالِّينَ النَّصَارَى" ترجمہ:- "حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ" سے یہود اور "الضَّالِّينَ" سے نصاریٰ مراد ہیں۔"

دوم:- حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے دریافت کرنے پر اس

آیت کی وضاحت و تفسیر بیان فرمائی۔ مثلاً ابن مردودہ نے حضرت ابوذر عقیاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ "سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ قَالِ الْيَهُودُ، قُلْتُ الضَّالِّينَ؟ قَالَ النَّصَارَى" ترجمہ:- "حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا "الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ" سے کون لوگ مراد ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ یہود۔ پھر میں نے عرض کیا کہ "الضَّالِّينَ" سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا نصاریٰ"

تفسیر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عظیم نے روشنی فرمائی ہے اس تفسیر
میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تفسیر کے بعد تفسیر مرفوعہ کو
فرمایا ہے۔ اس سے پہلے تفسیر مرفوعہ کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ عظیم نے روشنی فرمائی ہے
اور اس کے بعد تفسیر مرفوعہ کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ عظیم نے روشنی فرمائی ہے۔
اس تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تفسیر کے بعد تفسیر مرفوعہ کو
فرمایا ہے۔ اس سے پہلے تفسیر مرفوعہ کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ عظیم نے روشنی فرمائی ہے
اور اس کے بعد تفسیر مرفوعہ کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ عظیم نے روشنی فرمائی ہے۔

(۳) تفسیر قرآن از صحابہ کرام :-

آنہی وقت میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر سماعت کی، حضور اقدس سے اس کو اچھی طرح سمجھا، پھر اس
تفسیر صحابہ کرام نے ان صحابہ کرام یا تابعین عظام کے سامنے بیان کیا۔ چاہے از خود بیان
فرمایا ہو۔ ان تفسیر میں انہوں نے بعینہ وہی باتیں بیان فرمائیں جو انہوں نے چشمہ علم نبوت
سے اور راست سماعت کیں۔ تفسیر بالا حدیث نبویہ یعنی تفسیر مرفوعہ کے بعد "تفسیر صحابہ" کا
عبارت ہے۔ صحابہ کرام کی یہاں فرمودہ تفسیر کے مقابلے میں زمانہ صحابہ کرام کے بعد کے مفسرین
کی تفسیر کی افادیت نہیں دی جاسکتی بلکہ زمانہ صحابہ کے بعد کے کسی مفسر کی تفسیر کے مقابلہ
میں صحابہ کرام کی تفسیر کو ترجیح و تفضل حاصل ہے۔

صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں کئی حضرات نے قرآن مجید کی تشریح و توضیح فرمائی
ہے۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے مفسرین کرام کی فہرست بہت طویل ہے۔ لیکن صحابہ
کرام کی جماعت مبارکہ میں دس نفوس قدسیہ مفسر قرآن کی حیثیت سے زیادہ شہرت یافتہ ہیں۔
ان دس حضرات کے اسماہ گرامی حسب ذیل ہیں۔

۱۔ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق ۲۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم ۳۔ امیر

المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان ◉ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب ◉ حضرت عبداللہ بن مسعود ◉ حضرت عبداللہ بن عباس ◉ حضرت ابی بن کعب ◉ حضرت زید بن ثابت ◉ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ◉ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

ان حضرات میں سے (۱) امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب (۲) حضرت عبداللہ بن مسعود اور (۳) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے قرآن عظیم کی تفسیر کے سلسلہ میں کثرت سے روایات وارد ہیں۔ چنانچہ:-

◉ امیر المؤمنین، مولائے کائنات سیدنا مولیٰ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ”خدا کی قسم! تم لوگ مجھ سے جس بات کو دریافت کرو گے اس کی میں تمہیں خبر دوں گا۔ کتاب اللہ کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو کہ وہ آیت رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں، ہموار زمین میں نازل ہوئی ہے یا پہاڑ پر نازل ہوئی۔“

◉ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک قرآن سات حرفوں (قرأت سبعہ) پر نازل کیا گیا ہے۔ ان میں سے کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کا ظاہر و باطن نہ ہو اور بلاشبہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کے ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔“

◉ قرآن مجید کی تفسیر از صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ”ترجمان القرآن“ کے معزز لقب سے نوازا ہے۔ ان کا مختصر تذکرہ ”منافقین آیات تشابہات کے ظاہری معنی کو دیلیل بنا کر گمراہیت پھیلاتے ہیں“ اس عنوان کے تحت صفحہ نمبر ۵۸ پر کیا گیا ہے۔

◉ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی کسی آیت کی وضاحت و تفسیر کے سلسلہ میں اچلے صحابہ کرام کی مجلس منعقد

فرماتے تو حضرت عبداللہ بن عباس کو نو عمری کے عالم شباب میں ہونے کے باوجود بھی اجلہ صحابہ کرام کے ساتھ مدعو فرماتے تھے۔ پہلے آپ اجلہ صحابہ کرام کی رائے معلوم کرتے اور آخر میں حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے طلب فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو رائے پیش فرماتے وہ ایسی جامع اور مانع ہوتی کہ تمام صحابہ کرام ان کی رائے سے اتفاق فرماتے اور امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے کہ "مَنْ يُودِينِي فِي هَذَا كَأَدَاءِ ابْنِ عَبَّاسٍ" یعنی "اس آیت کے ان حقائق کو میرے سامنے اس طرح کون ادا کرے گا جیسا کہ ابن عباس نے ادا کیا ہے"

✪ قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت بلند مقام ہے۔

✪ مذکورہ دس اجلہ صحابہ کرام کے علاوہ ✪ حضرت انس بن مالک ✪ حضرت ابو ہریرہ ✪ حضرت عبداللہ بن عمر ✪ حضرت جابر ✪ حضرت سعید بن عاص ✪ حضرت عبداللہ بن حارث بن ہشام وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلہ میں اپنی بیش بہا خدمات پیش فرمائی ہیں۔

(۴) تفسیر قرآن از تابعین

صحابہ کرام کی مقدس جماعت سے قرآن مجید کی تفسیر سماعت کر کے اور اس کا صحیح مفہوم و مطلب معلوم کر کے تابعین کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تفسیری روایتوں کو نقل فرمایا۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور کوفہ کے مفسرین عظام نے صحابہ کرام سے علم تفسیر سیکھا بلکہ باضابطہ علم تفسیر کی تعلیم لی۔ حضرت مجاہد کہ جن کے علم کا پایہ علم تفسیر کے سلسلہ میں ثبات و اعتماد کے درجہ میں پہنچا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ:-

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

”میں نے تمیں (۳۰) مرتبہ پورے قرآن کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا۔ جس میں سے تین مرتبہ تو اس طرح پڑھا کہ ہر آیت پر ٹھہر کر اس کے متعلق دریافت کیا کرتا تھا کہ یہ آیت کب اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔“

تابعین عظام میں جن حضرات کا شمار معتد، مستند اور ثقہ مفسرین میں ہوتا ہے ان میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی سرفہرست ہے۔ حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ چار شخصوں سے علم تفسیر حاصل کرو۔ (۱) حضرت سعید بن جبیر (۲) حضرت مجاہد (۳) حضرت عکرمہ اور (۴) حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

◎ دورتا بعین کے بعد کے مفسرین :-

صحابہ کرام اور تابعین عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ کے بعد کے جلیل القدر ائمہ و علماء تبع تابعین نے قرآن مجید کی تفسیر کی طرف خصوصی توجہ فرمائی اور تفسیر و فن تفسیر میں کتابیں تصنیف و تالیف کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان حضرات تبع تابعین کی تفسیر عین صحابہ کرام اور تابعین عظام کی تفسیروں کے طرز پر تھیں۔ صحابہ و تابعین سے جو تفاسیر مروی تھیں ان میں انہوں نے ایک حرف کا فرق نہیں کیا بلکہ تقدیم و تاخیر کے ساتھ صحابہ کرام و تابعین عظام کی مرویات قولی کو تحریری جامہ پہنایا لہذا ان حضرات کی تفسیروں کو تفاسیر صحابہ و تابعین کے جامع کی حیثیت سے دیکھا اور تسلیم کیا جاتا ہے۔ تبع تابعین کے دور میں جو حضرات مایہ ناز مفسرین کی شان سے مشہور ہوئے ان میں سے چند شہرہ آفاق مفسرین کرام کے اسماء گرامی یہ ہیں (۱) حضرت سفیان بن عیینہ (۲) حضرت وکیع بن الجراح (۳) حضرت عبدالرزاق ابو بکر بن البہام (۴) حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ (۵) حضرت اسحاق بن راہویہ (۶) حضرت روح بن عبادہ (۷) حضرت عبد بن حمید وغیرہم۔ علیہم الرحمۃ والرضوان۔

حضرات تبع تابعین کے زمانے میں تفسیر اور فن تفسیر پر تصنیف و تالیف کرنے کا جو سلسلہ

اس کے ثمرات کی حیثیت سے سینکڑوں کی تعداد میں صرف تفسیر فہن تفسیر کے عنوان پر کتابیں ارقام ہوئیں۔ جو ملت اسلامیہ کے لیے لازوال سرمایہ علم و فن ہے۔

حضرات تبع تابعین کے زمانہ سے ملحق جو زمانہ تھا یعنی تبع تابعین کے زمانے کے فوراً بعد کا زمانہ اس زمانے میں (۱) حضرت امام شیخ ابو جعفر بن جریر طبری (۲) حضرت ابن ابی حاتم (۳) حضرت عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد نیشاپوری (۴) حضرت محمد بن یزید بن ماجہ فزونی (۵) حضرت ابن مردویہ (۶) حضرت ابو شیخ محمد بن حبان اور (۷) حضرت ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہم نے صحابہ کرام، تابعین عظام اور تبع تابعین کرام کی تفاسیر سے مستند اور منسوب کر کے بلکہ ان حضرات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایسی مبسوط اور جامع تفاسیر لکھیں جو بعد میں آنے والوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئیں۔ ان حضرات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور ان کے طرز تفسیر کو اپناتے ہوئے تفسیریں لکھنی شروع ہوئیں اور فن تفسیر کی کتابیں تصنیف کرنے کا ایک غیر منقطع سلسلہ جاری ہوا اور تفسیر کی کتابیں صرف عربی زبان تک محدود نہ رہتے ہوئے دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن مجید کی تفسیریں زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آئیں۔

ذیل میں ہم صرف عربی زبان کی چند مشہور و معروف اور معتد و معتبر تفاسیر کے نام مع اسماء مفسرین پیش کرتے ہیں۔ تفسیر کے ساتھ فن تفسیر کی کتب بھی شامل ہیں۔

۱	تفسیر ابن جریر	امام علامہ شیخ ابو جعفر بن جریر طبری (المتوفی ۲۱۰ھ)
۲	التقاسم والانواع	ابو الیاس محمد بن حبان (المتوفی ۲۵۴ھ)
۳	الکشف والبیان فی تفسیر القرآن۔	ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم غلبی نیشاپوری (المتوفی ۲۲۷ھ)
۴	تفسیر ابن کثیر	امام حافظ ابو الغدائس سعید قرشی دمشقی (المتوفی ۷۴۳ھ)
۵	تفسیر معالم التنزیل	امام ابو محمد حسین بن بغوی (المتوفی ۵۱۶ھ)
۶	تفسیر بیضاوی	قاضی امام ناصر الدین ابو سعید عبد اللہ بن عمر بیضاوی شافعی (۶۸۵ھ)
۷	تفسیر خازن	امام علاء الدین علی بن محمد بغدادی (المتوفی ۷۲۵ھ)

۸	تفسیر کبیر	امام فخر الدین محمد بن عمر بن عمر رازی شافعی (م ۶۰۶ھ)
۹	تفسیر عارف القرآن المعروف تفسیر خشتاپوری	علامہ نظام الدین حسن خشتاپوری (م ۷۵۰ھ)
۱۰	الاتقان بانواع علوم القرآن	امام اجلال الدین عبدالرحمن بن کمال بن ابی بکر سیوطی (م ۹۱۱ھ)
۱۱	تفسیر مجمع البحرین	امام اجلال الدین عبدالرحمن بن کمال بن ابی بکر سیوطی (م ۹۱۱ھ)
۱۲	الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور	امام اجلال الدین عبدالرحمن بن کمال بن ابی بکر سیوطی (م ۹۱۱ھ)
۱۳	منہجات القرآن فی مبہمات القرآن	امام اجلال الدین عبدالرحمن بن کمال بن ابی بکر سیوطی (م ۹۱۱ھ)
۱۴	ترجمان القرآن	امام اجلال الدین عبدالرحمن بن کمال بن ابی بکر سیوطی (م ۹۱۱ھ)
۱۵	الاکلیل فی استنباط التزیل	امام اجلال الدین عبدالرحمن بن کمال بن ابی بکر سیوطی (م ۹۱۱ھ)
۱۶	ابیاب المنقول فی اسباب النزول	امام اجلال الدین عبدالرحمن بن کمال بن ابی بکر سیوطی (م ۹۱۱ھ)
۱۷	الناسخ والمنسوخ	امام اجلال الدین عبدالرحمن بن کمال بن ابی بکر سیوطی (م ۹۱۱ھ)
۱۸	اسرار التزیل	امام اجلال الدین عبدالرحمن بن کمال بن ابی بکر سیوطی (م ۹۱۱ھ)
۱۹	تفسیر جلالین شریف	امام اجلال الدین عبدالرحمن بن کمال بن ابی بکر سیوطی (م ۹۱۱ھ)
۲۰	البرہان فی علوم القرآن	امام اجلال الدین عبدالرحمن بن کمال بن ابی بکر سیوطی (م ۹۱۱ھ)
۲۱	طبقات المفسرین	امام اجلال الدین عبدالرحمن بن کمال بن ابی بکر سیوطی (م ۹۱۱ھ)
۲۲	خواص الایکار	امام اجلال الدین عبدالرحمن بن کمال بن ابی بکر سیوطی (م ۹۱۱ھ)
۲۳	طلوع النور یا باظہار ما کان خفیا	امام اجلال الدین عبدالرحمن بن کمال بن ابی بکر سیوطی (م ۹۱۱ھ)
۲۴	تفسیر روح البیان	شیخ اسمعیل حقی بردوسی (م ۱۱۳ھ)
۲۵	تفسیر طبری	امام شیخ ابو جعفر بن جریر طبری شافعی (المتوفی ۳۱۰ھ)
۲۶	عنایت القاضی حاشیہ علی البیہاوی	امام علامہ احمد شہاب الدین خفاجی المصری (م ۱۰۶۹ھ)
۲۷	مختارات النوازل	امام شیخ برہان الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغینانی
۲۸	احکام القرآن	شیخ اکبر امام ابو بکر بن العربی
۲۹	الاشارات فی علم القرآن	امام احمد بن محمد خلیل المصری القسطلانی (م ۹۲۳ھ)

۳۰	کتاب النشر	امام ابو الخیر محمد محمد ابن الجزری
۳۱	نہایات الدریات	امام ابو الخیر محمد محمد ابن الجزری
۳۲	تفسیر مدارک التنزیل	امام علامہ ابوالبرکات عبداللہ بن محمود نسفی (المتوفی ۱۰۷۵ھ)
۳۳	تفسیر الوجیز	علامہ امام سمین
۳۴	تفسیر حسینی	علامہ حسین کاشفی حنفی
۳۵	تفسیر لباب التاویل	امام محی السنہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی

تفسیر اور فن تفسیر کے عنوان سے اکابر علماء ملت اسلامیہ کو کتنی دلچسپی تھی اور اس عنوان پر کتابیں لکھنے میں انہوں نے کیسی سعی بلیغ فرمائی ہے، اس کا اندازہ اس حقیقت سے ہو جائے گا کہ اس عنوان میں خاتم المصنفا، امام اجل، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اکیلے کل بتیس (۳۲) کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، جن میں سے چودہ (۱۴) کتابوں کے ہی نام ہم نے مندرجہ فہرست میں درج کیے ہیں۔ الحاصل! اس عنوان میں ملت اسلامیہ کے ائمہ و علماء نے اتنی کثیر تعداد میں کتابیں تصنیف فرمائی ہیں کہ جس کا حصر ممکن نہیں۔

اگر بقول امام منافقینِ زمانہ مولوی اسماعیل دہلوی ”ہر شخص پھر چاہے وہ بے علم اور جاہل ہو، قرآن مجید کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی وضاحت کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے“ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ خیر القرون سے لے کر آج تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، علماء عظام اور مفسرین کرام نے قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے رات دن ایک کر کے اتنی محنت و مشقت کیوں کی؟ تفسیر اور فن تفسیر کے عنوان پر معرکہ الآراء و نادور زمن کتب تصنیف کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کیوں کیا؟ ان کو کیا ضرورت تھی کہ قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اتنی عرق ریزی کرتے؟ بلکہ جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین عظام نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ماہرین علم تفسیر کے سامنے زانوئے تلمذ کیوں کیے؟ صرف اسی لیے کہ قرآن مجید کی آیتوں کے معنی، مطلب اور

میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

”وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعِلْمُونَ“

(پارہ: ۲۰، سورۃ العنکبوت، آیت: ۳۳)

ترجمہ:- ”اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔“
(کنز الایمان)

اس آیت میں صاف اور صریح وضاحت فرمادی گئی ہے کہ قرآن مجید میں جو مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں اسے صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بے علم اور جاہل کے لیے قرآن مجید کی مثالیں سمجھنا مشکل و دشوار ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے علم درکار ہے۔ اسی لیے تو حدیث کا ارشاد ہے کہ:-

حدیث:-

امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ:-

”قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلِمُوا النَّاسَ“

ترجمہ:- ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض اور قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔“ (حوالہ:- مشکوٰۃ شریف، صفحہ: ۳۵)

”قرآن سیکھو“ اس جملہ سے ناظرہ قرآن مجید پڑھنا ہرگز مراد نہیں ہے کیونکہ یہ ارشاد گرامی صحابہ کرام سے ہے۔ کب ہے؟ کہاں ہے؟ جواب یہ ہے چودہ سو (۱۴۰۰) سال پہلے سرزمین عرب پر جلوہ افروز ہوتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اہل عرب کی زبان عربی تھی۔ ہر شخص عربی زبان پڑھ یا بول سکتا تھا۔ ان کی مادری زبان عربی تھی لہذا قرآن شریف ناظرہ پڑھنا ان کے لیے کوئی دشوار کام نہ تھا بلکہ قرآن مجید کی آیتوں کے ظاہری ترجمہ اور الفاظ کے معنی و مطلب سے بھی واقف تھے۔ اس کے باوجود بھی حضور اکرم

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ”قرآن سیکھو اور سکھاؤ“ یعنی قرآن مجید ناظرہ پڑھنا سیکھو مگر ایسی بلکہ تم ناظرہ یا لفظی ترجمہ جانتے ہوئے قرآن مجید پڑھتے ہو لہذا اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کے علوم ظاہری باطنی، اسرار و رموز اور معنی و مطلب سے واقفیت رکھنے والے علماء سے قرآن مجید کی وضاحت و تفسیر کا علم سیکھو اور جب تم اس علم سے واقفیت حاصل کر لو تو دوسروں کو سکھاؤ۔ نروہ منافقین کے بعض جہلاء اس حدیث سے صرف ناظرہ پڑھنا اور آیات کا ترجمہ معلوم کرنا کے معنی اخذ کرتے ہیں۔ جو سراسر غلط ہے۔ جس زمانہ ظاہری میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن سیکھے اور سکھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تب قرآن پڑھنے والے خالص عربی زبان کے ماہر تھے۔ آیت کے لفظی معنی وہ اچھی طرح سمجھ سکتے تھے۔ اس کے باوجود بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے کا حکم فرما کر اشارہ و کنایہ سے فرمادی کہ اے قرآن مجید کے پڑھنے والو! تم قرآن مجید کی آیتوں کے ظاہری اور لفظی معنی پر ہی اکتفاء مت کرو بلکہ قرآن مجید کے صحیح تفہیم کے لیے اہل علم حضرات سے قرآن کی آیتوں کے اسرار و رموز معلوم کرو تا کہ تمہیں قرآن فہمی حاصل ہو اور قرآن کی آیتوں کے مطلب و مراد کو سمجھ سکو۔

در اصل حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ”قرآن سیکھو اور سکھاؤ“ کا جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ ایسا جامع اور مانع ہے کہ صرف ایک جملے میں حضور اقدس نے بہت کچھ فرمادیا ہے۔ پہلی بات تو علم القرآن سیکھنے کے متعلق جو مندرجہ بالا مذکور ہوئی۔ دوسری بات جو بہت ہی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اس مقدس جملے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی رائے کو دخل دینے سے منع فرمادیا ہے۔ کیونکہ قرآن کی آیتوں کے لفظی معنی تو اُس زمانے کے لوگ اچھی طرح جانتے تھے لہذا قرآن مجید کی آیت کے لفظی ترجمہ کے ضمن میں کوئی اپنی ذاتی رائے کو دخل نہ دے اس لیے حکم فرمایا کہ قرآن کی وضاحت پہلے تم سیکھو تا کہ تم اپنی رائے کو دخل نہ دو بلکہ وہ کہو جو تم نے اہل علم حضرات مفسرین سے سنا اور سیکھا۔ بعدہ لوگوں کو بھی وہی سکھاؤ جو تم نے سیکھا ہے تا کہ دوسرے لوگ قرآن میں اپنی رائے کو دخل دینے سے اجتناب و پرہیز کریں۔

قرآن مجید میں اپنی رائے کو دخل دینے کی سخت ممانعت اور وعید وارد ہے "منافقین آیات متشابہات کے ظاہری معنی کو دلیل بنا کر گمراہیت پھیلاتے ہیں۔" اس عنوان کے تحت صفحہ نمبر ۵۶ پر ہم نے تین احادیث کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان تین احادیث میں سے ایک حدیث کا صرف ترجمہ معزز قارئین کرام کی یاد دہانی کے لیے اعادہ پیش خدمت ہے۔

حدیث:-

امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:-
"جو شخص قرآن شریف میں اپنی رائے کے مطابق معنی بیان کرے، وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔"

معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے معنی اور مطلب میں اپنی رائے کو دخل دینا جہنم میں اپنا ٹھکانہ مقرر کرنا ہے۔ بلکہ یہاں تک ارشاد اقدس ہے کہ:-

حدیث:-

امام ترمذی نے حضرت جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

"مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ"

ترجمہ:- "جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور اتفاقاً وہ قول صحیح بھی ہو جب بھی وہ کہنے والا خطا کار ہے۔" (حوالہ:- مشکوٰۃ شریف، ص: ۳۵)

یعنی کسی شخص نے قرآن مجید کی کسی آیت کی وضاحت میں بغیر کسی علم کے صرف اپنی رائے کو دخل دیتے ہوئے اس آیت کی وضاحت و تفسیر بیان کی اور اتفاقاً اس کے بیان کردہ وضاحت تفسیر ماثورہ کے مطابق تھی پھر بھی وہ گنہگار ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اس نے گپ لگائی اور وہ گپ سچ نکلی پھر بھی وہ خطاوار ہے کیونکہ اس نے قرآن میں اپنی رائے

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کو دخل دیا ہے۔ جو ممنوع و مذموم ہے۔

لیکن افسوس! صد افسوس!! ہزار افسوس!! کہ:-

دو روزہ حاضر کے منافقین نے جبلاءِ مبلغوں کی فوجیں کھڑی کر دی ہیں جو فتون قرآنیہ اور قرآنِ فہمی سے یک لخت جاہل ہوتے ہیں۔ دو چار آیتوں کے تراجم رٹ لیتے ہیں اور منبر خطابت و مسند و عظم پر چڑھ جاتے ہیں اور مطلق العنان مقرر و مقرر کی حیثیت سے لٹم پٹم ایسے غلط سلسلے معنی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ ہی کہنا پڑتا ہے۔

یہاں تک کی گفتگو سے قارئین کرام اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہو گئے ہوں گے کہ دو روزہ حاضر کے منافقین قرآن مجید کی منسوخ اور متشابہ آیات کے من گھڑت تراجم اور من چاہی وضاحت کر کے ملت اسلامیہ کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ ہدایت و نجات کی صراطِ مستقیم پر یا ضلالت و گمراہی کی سنگلاخ راہ و شوار پر؟ مثلاً:-

نمبر	اللہ اور رسول کا فرمان ہے کہ:-	منافقین زمانہ کا کہنا ہے کہ:-
۱	قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، ہر شخص میں قرآن مجید کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں بلکہ علم والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ (پارہ: ۲۰، سورۃ العنکبوت، آیت: ۴۳)	اللہ و رسول کے کلام کو سمجھنے کے لیے علم نہیں چاہیے بلکہ ہر نادان اور جاہل بھی سمجھ سکتا ہے۔ عالموں کے سوا اللہ و رسول کا کلام کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ بات حدیث ہے۔ (تقویت الایمان، ص: ۱۳)

۲	جس نے قرآن میں اپنی رائے کو دخل دیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ (مشکوٰۃ شریف)	ہر عام و خاص یعنی ہر جاہل و عالم اللہ و رسول کے کام میں جستجو کریں اور اس کو سمجھیں۔ (تقویت الایمان، ص: ۱۵)
۳	قرآن مجید کی بعض آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں اور بعض آیتوں کے معنوں میں اشتباہ ہے یعنی جن کے معنی صاف اور مراد واضح نہ ہو۔ (پارہ: ۳، سورہ آل عمران، آیت: ۷)	قرآن مجید کی باتیں بہت صاف اور صریح ہیں ان کا سیکھنا مشکل نہیں۔ (تقویت الایمان، ص: ۱۳)

قارئین کرام فیصلہ فرمائیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کا حکم ماننا ہے؟ یا منافقین زمانہ کی بات ماننی ہے؟

قارئین کرام کی خدمت عالی میں فقیر راقم الحروف کی ایک مزید گزارش یہ ہے کہ قرآن
مجید کی آیات کی اقسام میں سے ہم نے صرف چار (۴) اقسام (۱) آیات محکمات (۲) آیات
مشابہات (۳) آیات منسوخات اور (۴) آیات تاخات پر ہی بہت مختصر مگر کافی دانی و شافی
گفتگو کی ہے۔ طول تحریر کے خدشہ و خوف کی وجہ سے دیگر اقسام پر کچھ بھی بحث نہیں کی۔
آیات مبہمات کا عنوان ہی اتنا طویل ہے کہ صرف اسی عنوان کی تفصیلی بحث کے لیے ایک ضخیم
کتاب در کا ہے۔ الحاصل! قارئین کرام کو یہاں تک کی گفتگو سے یقین کے درجہ میں یہ بات
یاور ہو چکی ہوگی کہ قرآن مجید کی آیتوں کی وضاحت اور تفسیر کرنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات
نہیں۔ جب تک اتنا علم نہ ہو کہ آیات کے اقسام کی تمیز، آیت میں جس واقعہ کا اشارہ تذکرہ
ہو اس واقعہ کی تکمیل و اقیقت، حقیقت و مجاز کا فرق، وغیرہ علوم و اسرار کے فہم کی استعداد نہ ہوگی
وہاں تک وہ آیت کے مطلب و مراد کی بوتک نہیں پاسکتا اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ جب خود نہیں
سمجھ سکتا تو دوسروں کو کیا سمجھا سکتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود تو گمراہیت کے دلدل میں پھنستا
ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی پھانستا ہے اور فُضِّلُوا وَ اَضَلُّوا کا مصداق بنتا ہے۔ ایسا
حالیہ روز کم علم شخص جس کو کلمہ پڑھنا اور کلمہ پڑھانے کا جو کلمہ پڑھو کر

کھاتا ہے۔ اور ایسی مہلک اور جان لیوا نئے ایمان ٹھوکریں کھاتا ہے کہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلاً سورۃ الکہف اور سورۃ حم سجدہ کی آیت عظیمہ **قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** اس آیت کے علاوہ دیگر بہت سی آیتوں کے تراجم میں منافقین زمانہ نے وہ افراتفری اور کھلبلی مچائی ہے کہ جس کو سن کر اہل ایمان کی روح ایمانی مجروح ہو جاتی ہے۔ آیت **قَسَابًا** کا مطلب و مراد واضح ہونے کے بجائے مزید دھندلا ہو جاتا ہے۔ ذیل میں ہم دو چند آیات بطور مثال پیش کرتے ہیں جن میں منافقین زمانہ افراط و تفریط سے کام لیتے ہوئے گمراہیت کی آگ لگائے تماشا دیکھے، والی مثل کے مصداق بنے ہوئے ہیں۔

”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کی طرح دیگر آیات قرآنیہ میں بھی منافقین زمانہ کے غلط تراجم

قرآن مجید کو صحیح معنی، مطلب، مفہوم اور مراد میں سمجھنے کے لیے کئی قوانین، اصول اور ضوابط کو ملحوظ رکھنا لازمی ہے اور یہ اس صورت میں ہی ممکن ہے کہ وسیع پیمانے پر علم حاصل ہو خصوصاً قرآن مجید میں مذکور واقعات کی مکمل اور صحیح واقفیت، احکام شریعت مثلاً اوامر و نواہی، فرائض منہیات، حلال و حرام کی بالاستیعاب معلومات وغیرہ لازمی اور ضروری ہے۔ ان لوازمات میں سے یہ بھی ہے کہ آیت کا ترجمہ کرتے وقت ایسے الفاظ کا قطعاً استعمال نہ کیا جائے جن سے بارگاہ الوہیت اور بارگاہ انبیائے کرام اور اولیائے عظام میں کسی قسم کی توہین و بے ادبی نہ ہو، توہین و بے ادبی ہونا تو بہت بڑی بات ہے لیکن ان الفاظ کا استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ، انبیائے کرام اور اولیاء اللہ کی شان کے لیے لائق اور زیانہ ہوں۔

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

علاوہ ازیں ترجمہ اور تفسیر کرنے والے کے لیے اتنا علم ہونا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں کسی کی صفت ذکر کی گئی ہو تو وہ تیز کر سکے کہ یہ حقیقتاً کہا گیا ہے یا مجازاً۔ اگر حقیقت و مجاز کے فرق کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اسے کوئی حق نہیں رہو نچا کہ قرآن مجید کے ترجمہ، تفسیر، تشریح اور توضیح کے سلسلہ میں ہاتھ میں قلم تمام کرا سے ایمان کے لیے مہلک شمشیر بن جائے۔ لہذا لغت کا علم بھی ضروری ہے۔ صرف عربی زبان کی لغت پر ہی اکتفاء نہ کرنے بلکہ جس زبان میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہو اس زبان کی لغت سے بھی کامل طور پر واقفیت کا حامل ہو کیونکہ زبان یعنی بھاشا کے بدلنے سے لفظی ترجمہ میں توپین کا شائبہ ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ یعنی ایک لفظ کسی زبان میں اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہی لفظ دوسری زبان میں بُرے معنی میں مستعمل ہوتا ہے لہذا ایسے الفاظ کے استعمال سے اجتناب و پرہیز بھی لازمی ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ”مکر“ عربی زبان میں ”تختہ پیہ مرن“ اور دشمن کو غافل کر کے اس پر ضرب لگانے کی تدبیر“ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہ معنی مذموم نہیں بلکہ مستحسن ہیں۔ لیکن لفظ ”مکر“ اردو زبان میں بُرے اور قبیح معنیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اور انبیائے کرام کی شان میں ایسے الفاظ کا اردو زبان میں استعمال سخت ممنوع ہے۔ اس کی وضاحت ذیل میں درج ہے۔

مناقضین زمانہ نے قرآن فصیح سے تاواقفیت ہونے کے باوجود بھی ”کو اچھا نہیں کی چوں اپنی ہی بھول گیا“ وہی مثل کے صدق بے ہوشی سے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کرنے کی شوقی اور بے باق کر کے اللہ و رسول کی شان میں ایسے تا زبیا الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس دیکھو نہ ہو مؤمن کے ایمانی جذبات کو شدید غم میں لگتی ہے۔ ایسے جہاں کھلاؤں کے تراجم و علمی ترجمہ اور ان مذاہب کو مفسر اعظم کا لقب دیتے ہوئے مناقضین کی خوبی کے جہاں مبلغین ان تراجم پڑھنے کی تحن درغیب دلا کر قوم کو مرہا سے لے جاں میں پھانسنے کی تیاری کرتے ہیں۔ ان مذاہب تصدی کرنے والوں کے لیے بھی کبر مز سب ہے کہ قواعد و کتاب کو نہیں دیکھتے تو اس کے پیچھے دوڑے جاتے ہیں۔

۱۔ مناقضین زمانہ نے قرآن فصیح سے تاواقفیت ہونے کے باوجود بھی ”کو اچھا نہیں کی چوں اپنی ہی بھول گیا“ وہی مثل کے صدق بے ہوشی سے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کرنے کی شوقی اور بے باق کر کے اللہ و رسول کی شان میں ایسے تا زبیا الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس دیکھو نہ ہو مؤمن کے ایمانی جذبات کو شدید غم میں لگتی ہے۔ ایسے جہاں کھلاؤں کے تراجم و علمی ترجمہ اور ان مذاہب کو مفسر اعظم کا لقب دیتے ہوئے مناقضین کی خوبی کے جہاں مبلغین ان تراجم پڑھنے کی تحن درغیب دلا کر قوم کو مرہا سے لے جاں میں پھانسنے کی تیاری کرتے ہیں۔ ان مذاہب تصدی کرنے والوں کے لیے بھی کبر مز سب ہے کہ قواعد و کتاب کو نہیں دیکھتے تو اس کے پیچھے دوڑے جاتے ہیں۔

◎ آیت ۱:- اللہ تعالیٰ کی شان میں لفظ ”مکر“ کا استعمال:-

”وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ لِلْمُكْرِمِينَ“

(پارہ ۳، سورہ ال عمران، آیت ۵۳)

اس آیت کا ترجمہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے استاذ مولوی محمود حسن دیوبندی نے اس طرح کیا ہے:-

”اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا واؤ سب سے بہتر ہے“

اس ترجمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ ”مکر“ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم اردو نکت میں ”مکر“ کے کیا معنی ہیں وہ منوئیں:-

مکر = دھوکا، فریب، دغا، چال، چالاکی، عیاری، پھال، حیلہ، بہانہ، جھوٹ،

بہروپ، بھیس، ریا، منافق، دورگی، غفاتی، مغلاف، واقع بات۔

(حوالہ: فیروز اللغات، ص ۱۷۷)

مولوی محمود حسن دیوبندی صاحب نے کافروں کی دغا، دھوکا اور فریب پر مشتمل حرکت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور حکمت کو، ایک ہی لفظ ”مکر“ سے تصنف کیا ہے۔ جس لفظ ”مکر“ کا استعمال دغا، دھوکا اور فریب جیسی متضاد صفات کے لیے ہوتا ہے وہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کے لیے استعمال کر کے بارگاہ الوہیت میں بے ادبیاں کی ہے۔

”یہ آیت کا ایمانی و عرفانی ترجمہ دیکھیں:-“

”اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی اور

اللہ سب سے بہتر ہے۔“

(کنز الدیان از:- امام احمد رضا محدث بریلوی)

◎ آیت ۲: - اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ”داؤ“ کا استعمال:-

وَيَعْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

(پارہ ۹، سورۃ الانفال، آیت: ۳۰)

دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی محمود الحسن صاحب دیوبندی نے اس آیت کا

ترجمہ کیا ہے کہ:-

”اور وہ بھی داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا اور اللہ کا داؤ سب سے

بہتر ہے۔“

اس ترجمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس ذات کے لیے ”داؤ کرنا“ کی صفت منسوب

کی گئی ہے۔ ”داؤ کرنا“ مبتذل صفت ہے، جس کی نسبت خدائے تعالیٰ کے لیے جائز نہیں۔

لغت میں ہے کہ:-

⊕ داؤ کرنا = دھوکہ دینا، فریب کرنا، کشتی میں پیچ کرنا۔

(حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۶۱۴)

قارئین کرام انصاف فرمائیں! جو شخص اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ”سُیُوْح“ اور ”قُدُوْس“

مانتا ہو، وہ شخص اللہ رب العزت کے لیے دھوکہ دینا اور فریب کرنا کے لغوی معنوں والی

صفت ”داؤ کرنا“ کا انتساب کر سکتا ہے؟

◎ آیت ۳:- اللہ تعالیٰ کے لفظ ”دعا“ کا استعمال:-

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ

(پارہ ۵، سورۃ النساء، آیت: ۱۳۴)

ترجمہ از مولوی محمود الحسن دیوبندی:-

”البتہ منافق دعا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا“

اس ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ اللہ ان کو ”دغا دے گا“۔ کسی کو دغا دینا

martat.com

فعل تہج اور معیوب ہے۔ لغت میں ”وغا دینا“ کے کیا معنی ہیں وہ دیکھیں:-

⊙ دغادینا = دھوکہ دینا، فریب دینا، (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۶۳۰)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقدس ذات کی صفت میں ایسے الفاظ منسوب کرنا سخت توہین و بے

ادبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دغا، جھوٹ، دھوکہ، فریب اور ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کی تفصیلی وضاحت بخوفِ طوالت تحریر نہیں کرتے۔ جن حضرات کو اس عنوان کی مفصل تشریح

درکار ہو وہ امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ و الرضوان کا رسالہ ”سُبْحَانَ الْمَقْبُوحِ عَنْ عَيْبِ كَذِبِ الْمَقْبُوحِ“ کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔

منافقین زمانہ نے مندرجہ بالا آیت کے ترجمے میں بڑی گڑبڑی کی ہے اور شان

الوہیت میں نادُرست، ناراست، ناشائستہ، نامناسب اور نامعقول الفاظ کا استعمال کر کے سوء ادبی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ سب قرآنِ فہمی اور ادب و احترام کے فقدان کا نتیجہ ہے۔

اب اس آیت کا ایمانی و عرفانی ترجمہ ملاحظہ ہو۔

”بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔“ (کنز الایمان)

⊙ آیت ۴:- حضرت آدم کے لیے ”گمراہ“ اور ”نافرمانی“ کے الفاظ کا

استعمال:

”وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى“ (پارہ: ۱۶، سورہ طہ، آیت: ۱۲۱)

یوہندی مکتبہ فکر کے نامور مصنف اور مورخ جنہوں نے ”تذکرۃ الرشید“ کے نام سے مولوی رشید احمد صاحب ”سنوہی“ کی اور ”تذکرۃ الخلیل“ کے نام سے مولوی خلیل احمد صاحب ”نیٹھوی“ کی سوانح عمریاں لکھی ہیں، وہ مولوی عاشق الہی صاحب میرٹھی نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

”اور آدم نے نافرمانی کی اور اپنے رب کو گمراہ ہو گیا“

حضرت سیدنا ابوالبشر آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے اولوالمرتبہ کا بھی پاس اور لحاظ نہ کرتے ہوئے جناب میرٹھی صاحب نے "نافرمانی" اور "گمراہ" کے توہین آمیز الفاظ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیے۔ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر خدا ہیں۔ تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام "معصوم" ہیں۔ ان سے گناہ کا صادر ہونا ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یقیناً گناہ ہے۔ علاوہ ازیں تمام انبیائے کرام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کا "گمراہ" ہونا محال ہے۔ یہ بات تو بے پڑھے لکھے عوام بھی جانتے ہیں۔ جو بات عوامی سطح کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں ایسی سیدھی بات سے بھی منافقین زمانہ کے بڑے بڑے القاب اور ٹائٹل والے ملا اور مولوی حضرات ناواقف ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔

فارسی زبان کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ "یک من علم زاادۃ من عقل باید" یعنی "ایک من علم کے لیے دس من عقل چاہیے"۔ "وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى" کا ترجمہ کرتے وقت مولوی عاشق الہی میرٹھی صاحب نے عقل پر پردہ ڈال رکھا ہو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کرتے وقت عقل و فہم کو لحظہ بھر بھی زحمت نہیں دی اور آیت کے الفاظ کے ظاہری لغوی معنوں پر اکتفاء کر کے سبکدوش ہو گئے۔ میرٹھی صاحب نے آیت کے الفاظ کا حسب ذیل طریقہ سے ترجمہ کر دیا:-

☉ = اور ☉ عَصَى = نافرمانی کی ☉ آدَمُ = آدم نے ☉ رَبَّهُ = اپنے رب کی ☉ فَغَوَى = پس گمراہ ہوئے۔ اس طرح ترجمہ کرنے سے جملہ بنا "اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی پس گمراہ ہوئے" عربی لغت میں "عَصَى" کے معنی "نافرمانی کی" کے ضرور ہوتے ہیں۔ لفظ "عَصَى" فعل ماضی معروف کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اسی طرح "غَوَى" کے معنی "گمراہ" ہونے کے ہوتے ہیں لیکن عربی زبان کی لغت کی ایسی وسعت ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ "عَصَى" کا صرف ایک معنی ہی نہیں بلکہ کئی معنی ہوتے ہیں۔ ان معنوں میں سے ایک معنی "غزش" بھی ہوتا ہے۔ نافرمانی اور لغزش چونکہ لفظ "عَصَى" کے معنی میں سے ایک معنی ہیں لہذا یہ لفظ "غزش" کے معنی میں بھی استعمال ہونے کے باوجود دونوں

میں معنوی اور عرفی اعتبار سے بہت فرق ہے۔ ”نافرمانی“ اس جرم کو کہتے ہیں کہ جرم کرنے والا حاکم کے حکم اور قانون کو خاطر میں نہ لائے اور بے اعتنائی سے گناہ پر جرأت کرے اور قصداً و عمداً حکم اور قانون کی خلاف ورزی کرے اور اس جرم کے ارتکاب کے وقت اسے معلوم ہو کہ میں حکم اور فرمان قانون کو توڑ رہا ہوں۔ جب کہ لغزش ان قباحتوں سے ملوث نہیں ہوتی۔ لغزش کا اطلاق اس فعل پر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے بہکاوے میں آ کر یا سہواً قانون کی کامل طور پر بجا آوری میں ڈگمگا جائے اور اس کے استقلال میں فرق آ جائے۔ علاوہ ازیں نافرمانی کا اطلاق گناہ کے مستقل عادی، رذیل، جرائم پیشہ اور قصداً قانون توڑنے کی ذہنیت رکھنے والے عوامی اور نیچی و بلکی سطح کے افراد پر ہوتا ہے۔ نیک، پارسا، فرمانبردار، ذی شعور، مطیع، متقی، پرہیزگار، ذی مرتبت، مقرب، معزز، معظم، اولوالعزم اور اعلیٰ درجات کے حامل اشخاص سے جب حکم اور قانون کی کامل طور سے بجا آوری میں فرق واقع ہوتا ہے تو اسے ”لغزش“ کہا جاتا ہے۔

حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر، اولوالعزم، رفیع الدرجات اور ذی مرتبت ”نبی“ تھے۔ علاوہ ازیں نافرمانی کا لفظ حکم نہ ماننے اور سرکشی کرنے کے معنی میں ہے۔ حکم نہ ماننا اور سرکشی کرنا یقیناً گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے تمام نبی گناہوں سے یقینی طور پر ”معصوم“ ہیں۔ لہذا حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مقدس ذات گرامی کو ”نافرمانی“ کی صفت سے متصف و منسوب کرنا بارگاہ نبی میں بے ادبی اور گستاخی ہے۔

مذکورہ آیت میں وارد لفظ ”غوائی“ کا ترجمہ میرٹھی صاحب نے ”گمراہ ہوئے“ کیا ہے۔ لفظ ”غوائی“ پر علم صرف ونحو کے ضوابط و اصول کے تحت بحث نہ کرتے ہوئے اختصاراً عرض کرنا ہے۔ کہ عربی زبان کی وسیع لغت کے اعتبار سے ”غوائی“ لفظ کے متعدد معنی ہیں۔ مثلاً

- ⊗ مقصد پورا نہ ہونا ⊗ مراد و مطلب نہ ہونا ⊗ کسی چیز کا گم ہو جانا ⊗ ہاتھ سے نکل جانا
- ⊗ کسی شئی کا فوت ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام معنوں سے لا ابالی ہو کر میرٹھی صاحب نے صرف ”گمراہ ہوئے“ کا معنی ہی اخذ کیا۔ گمراہیت سے ایسا لگاؤ ہے کہ دیگر موزوں اور واقعے سے مناسبت رکھنے والے معنوں سے انحراف کر کے ”گمراہ ہوئے“ کے گمراہ کن معنی کرنے کی

گمراہیت اپنائی marfat.com

جیسا کہ ہم نے اوراق سابقہ میں عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں زمانہ ماضی کے کسی واقعے کا تذکرہ ہو تو اس آیت کا ترجمہ کرتے وقت مترجم کے ذہن میں اس واقعے کی من و عن تفصیل ہونی چاہیے تاکہ وہ اس واقعہ کی مناسبت سے آیت کا ترجمہ کر سکے۔ اور آیت کا ترجمہ ایسا ہو کہ صرف ترجمے سے ہی اس واقعے کی اصل نوعیت کا نقشہ سامنے آجائے یعنی ترجمہ کرنے والا آیت کی تفسیر کی معلومات اور واقفیت سے مناسب الفاظ میں موزوں ترجمہ کرے یعنی تفسیر سے ترجمہ سمجھے اور ترجمہ پڑھنے والا ترجمہ پڑھ کر ہی تفسیر کی قدرے معلومات حاصل کرے۔ اگر ترجمہ کرنے والا اصل واقعے کو ذہن سے ہٹا کر صرف لفظی ترجمہ کرے گا تو آیت کا مفہوم و مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا اور ایک قسم کا انتشار و تردد قائم ہو جائے گا جیسا کہ اس آیت کے ترجمہ میں مولوی جناب عاشق الہی میرٹھی صاحب نے گڑبڑی برپا کی ہے۔

آیت کریمہ **وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ** میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے گیبوں کا دانہ تناول فرمایا نتیجتاً آپ کو جنت سے عالم دنیا میں تشریف لانا پڑا۔ اب اس واقعہ کی اصل حقیقت کیا ہے وہ معلوم کریں:-

”حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تعظیم کا سجدہ کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے ابلیس رائدہ درگا ہو کر مردود ہوا تھا۔ اسے یقین کے درجے میں معلوم تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سبب ہی مجھ پر تباہی آئی ہے لہذا اس کے دل میں انتقام کی آگ شعلہ زن تھی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کی ان کی طرف عداوت اور اس کے مکر و فریب سے متنبہ و آگاہ فرمادیا تھا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ

”فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ
مِنَ الْجَنَّةِ“ (پارہ: ۱۶، سورہ طہ، آیت: ۱۱۷)

ترجمہ:- ”تو ہم نے فرمایا اے آدم! بے شک یہ تیرا اور تیری بی بی کا دشمن ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے“ (کنز الایمان)

حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے لعنہ کے لیے شیطان نے چین: بے قرار تھا۔

وہ ہر وقت اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ حضرت آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے لہذا میں بھی کوئی ایسی چال چلوں کہ حضرت آدم کو بھی جنت سے نکلنا پڑے۔ لہذا اس نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مکر و فریب کی چال چلی اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت کے ایک درخت کے پاس نہ جانے کی ممانعت فرمائی تھی **وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ** (پارہ: ۱، البقرہ، آیت: ۳۵) ترجمہ:- "اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا" (کنز الایمان)۔ لہذا شیطان نے حضرت آدم کو اس پیڑ کے معاملے میں دھوکہ دینے کی تدبیر و ترکیب کی۔ **فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى** (پارہ: ۱۶، سورہ طہ، آیت: ۱۲۰) ترجمہ:- "تو شیطان نے اُسے دوسرے دیا۔ بولا اے آدم کیا میں تمہیں بتاؤں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے۔" (کنز الایمان) یعنی شیطان نے حضرت آدم سے کہا کہ اگر آپ اس درخت کا پھل یادانہ کھالیں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ شیطان کی اس تجویز کا حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صاف انکار فرمادیا **لَٰلَّذٰلِكَ وَاٰنٰی لَکُمَا لَیْنٌ النَّصِيحِيْنَ** (پارہ: ۸، سورۃ الاعراف، آیت: ۲۱) ترجمہ:- اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔" (کنز الایمان) یعنی شیطان نے خدا کی جھوٹی قسم کھا کر حضرت آدم کو دھوکہ دیا اور پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو گمان بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بول سکتا ہے بایں خیال حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے عالم دنیا میں تشریف لانا پڑا۔ یعنی آپ نے جس مقصد کے لیے درخت سے کھایا تھا وہ مقصد یعنی جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنے کا مقصد پورا نہ ہوا اور آپ کو جنت کی سکونت ترک فرما کر جنت سے باہر تشریف لانا پڑا۔

یہ ہے اصل واقعہ۔ اب اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس واقعہ کا جس آیت میں ذکر ہے یعنی **وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى** اس کا مولوی عاشق الہی میرٹھی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس ترجمے "اور آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی پیش گمراہ ہوئے" کو ملاحظہ فرماؤ اور اصل واقعہ اور میرٹھی صاحب کے ترجمے کا تقابل کرو تو کسی طرح بھی تطبیق و توافق نہیں پایا

جانا کیونکہ:-

○ حضرت آدم نے شیطان کے دھوکہ دینے کی وجہ سے "شجر خلد" (جنتی درخت) کا دانہ یا پھل کھایا۔ اس کو مولوی عاشق الہی صاحب میرٹھی نے "رب کی نافرمانی" سے موسوم کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب نہ جانے کی ممانعت فرمائی تھی اس کے باوجود جی حضرت آدم نے اس درخت سے کھایا اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی اور یہ "رب کی نافرمانی" ہے۔

ہے۔

اس فاسد وضاحت کے رد و ابطال میں دلائل قاہرہ ساطعہ سے بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔ لیکن راہ اختصار اپناتے ہوئے عرض ہے کہ حضرت آدم کو خیال ہوا کہ "لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ" کی جو ممانعت ہے وہ تزیہی ہے تحریمی نہیں۔ اگر آپ اس ممانعت کو تحریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے کیونکہ انبیائے کرام معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی ہے۔ اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ درخت کے قریب جانے کی ممانعت تھی۔ اس درخت سے کچھ کھانا یا نہیں کھانا ایسی کوئی وضاحت حکم میں نہ تھی لہذا حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہی قیاس فرمایا۔ تیسری بات یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تو درخت سے کچھ لے کر نہیں کھایا تھا بلکہ حضرت حوا نے آپ کو جو دیا تھا وہی کھایا تھا۔ بہر صورت ان تینوں صورتوں میں حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عمدًا و مقصدًا اللہ کی نافرمانی کرنے کے ارادے سے کچھ نہیں کیا تھا جو کچھ بھی کیا تھا وہ قیاس کی بناء پر کیا تھا اور آپ سے اجتہاد میں خطا ہوئی تھی اور اجتہادی خطا شرعاً گناہ نہیں۔ لہذا اس اجتہادی خطا کو ہرگز "نافرمانی" نہیں کہا جاسکتا بلکہ اس کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے "اغزش" ہی کہتا پڑے گا۔

○ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جنت میں "دخول ابدی" یعنی ہمیشہ رہنے اور کبھی بھی باہر نہ نکلنے کے مقصد سے ہی "شجر خلد" سے کھایا تھا۔ لیکن آپ کا جنت میں دائمی رہنے کا مقصد پورا نہ ہوا اور آپ کو جنت سے

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

باہر تشریف لانا پڑا۔ اس وقوعہ کو مولوی عاشق الہی صاحب میرٹھی نے ”گمراہ ہوئے“ سے مُعْتَوْن اور تعبیر کیا ہے۔ یعنی ”جنت سے باہر آئے“ کا مطلب ”گمراہ ہوئے“ کیا ہے۔ تو کیا معاذ اللہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام جنت سے عالم دنیا میں تشریف لائے تب گمراہ تھے؟ دور حاضر کے منافقین حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گمراہ ہونے کا قرآن و حدیث سے ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟

حقیقت یہ ہے کہ میرٹھی صاحب نے آیت کا ترجمہ کرتے وقت اصل واقعے کو پیش نظر نہیں رکھا اور ”غوی“ لفظ کا لغوی معنی ”گمراہ“ کر کے بکھیڑا کھڑا کر دیا۔ اس آیت کے لفظ ”غوی“ کا ترجمہ ”گمراہ ہوئے“ کرنا اصل واقعے سے ذرہ بھر بھی مناسبت نہیں رکھتا، علاوہ ازیں اللہ کے مقدس نبی کی شان میں گمراہ ہوئے“ لکھنا یا کہنا سخت گستاخی اور بے ادبی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ منافقین زمانہ کو انبیائے کرام کی شان میں توہین آمیز جملے لکھنے یا کہنے میں کون سا لطف آتا ہے؟ غالباً انہوں نے انبیائے کرام کی شان میں توہین کرنے کا نام ہی ”توحید“ رکھ دیا ہے۔ ہر وقت اس تک و دو میں رہتے ہیں کہ لگ لپٹ کر کسی طرح بھی انبیائے کرام کی شان میں تنقیص کی جائے۔ قرآن مجید کی آیتوں میں بھی یہی جستجو کرتے ہیں کہ انبیائے کرام کی توہین کا پہلو مل جائے۔ حالانکہ پورے قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی بھی لفظ میں کسی بھی نبی و رسول کی توہین و تنقیص تو درکنار بلکہ ان مقدس حضرات کی شان ارفع و اعلیٰ کے لیے موزوں نہ ہو ایسا خطاب بھی نہیں فرمایا گیا۔ اس آیت کے لفظ ”غوی“ کا ”گمراہ ہوئے“ ترجمہ واقعی حیرت انگیز و تعجب خیز ہے۔ اگر منافقین زمانہ سے اس ”گمراہ ہوئے“ کے ضمن میں سوالات کیے جائیں کہ گمراہ ہوئے سے تمہاری مراد کیا ہے؟ کب گمراہ ہوئے؟ کیوں گمراہ ہوئے؟ گمراہی اعتقادی تھی یا عملی تھی؟ اگر اعتقادی تھی تو کن عقائد میں تھی؟ اگر عملی تھی تو اوامر میں تھی یا نواہی میں؟ گمراہی علانیہ تھی یا خفیہ تھی؟ اس گمراہی کا دوسروں پر کیا اثر پڑا؟ یہ گمراہی عارضی تھی یا مستقل؟ عارضی تھی تو کتنے عرصہ تک تھی؟ پھر کب ہدایت حاصل ہوئی؟ اور یہ نکر ہوئی؟ وغیرہ وغیرہ سوالات پیش کر کے قرآن و حدیث کے ثبوت سے جوابات طلب کیے

جائیں تو دن میں تارے نظر آنے لگیں گے۔

اس آیت کا امام عشق و محبت، امام احمد رضا محدث بریلوی نے ایسا ایمان افروز ترجمہ فرمایا ہے کہ اس ترجمہ سے اصل واقعے کو مکمل طور سے مناسبت بھی ہوتی ہے اور اللہ کے مقدس نبی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں ادب کا تقاضا بھی پورا ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:-
”اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔“ (کنز الایمان)

تفسیر:- ”یعنی اس درخت کے کھانے سے دائمی حیات نہ ملی۔“

(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۵۷۶)

الحاصل! قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کی ہر کس و ناکس میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ وسیع پیمانے پر علم ہونے کے ساتھ ساتھ نور ایمان کی بصیرت ہونا بھی لازمی ہے۔ آیت کے الفاظ کے لغوی معنی لکھ دینے سے ترجمے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ صرف لفظی و لغوی ترجمہ کر کے اپنے آپ کو ”ترجمان القرآن“ یا ”مترجم قرآن“ کہلانے والے ”ٹوٹی ٹانگ، ہاتھ نہ پاؤں، کہے چلوں گھوڑوں کے ساتھ“ والی مثل کے مصداق بنتے ہیں۔

اگر کسی شخص نے انگریزی زبان سیکھ لی اور لغت کی بھی اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی پھر وہ بازار سے کسی بک اسٹال سے طبابت یعنی ڈاکٹری کے فن کی دو چار کتابیں خرید لایا اور اس کو پڑھ ڈالا تو ظاہری بات ہے کہ اس کو فن طبابت کی قدرے معلومات حاصل ہوگی۔ وہ شخص صرف اتنی ہی معلومات کے بل بوتے پر دو خانہ کھول کر بیٹھ جائے اور اپنے کو طبیب حاذق سمجھ کر لوگوں کے علاج معالجے شروع کر دے اور رفتہ رفتہ وہ جراحی (Operation) کرنا شروع کر دے تو کیا انجام ہوگا؟ کیا کوئی عقلمند ایسے جعلی جراح (Surgeon) کے پاس آپریشن کرائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ ایسے سرجن کے آپریشن ٹیبل پر لیٹنا اور جنازہ میں لیٹنا دونوں برابر ہے یعنی سامنے سے چل کر موت کی آغوش میں لیٹنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ ”نیم حکیم خطرہ جان“ ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان کے قوانین صرف و نحو اور لغت کی قدرے معلومات حاصل ہونے پر کوئی شخص ایسے نیکو ماہر منہ سوار ترجمہ گروہاں کہتا ہے ان مجید کا ترجمہ اور

تفسیر لکھنے کی جرات کرنے کا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایمان کا طوطا ہی اڑ جائے گا۔ ایسے جفا شعار، کور چشم و باطن، گستاخ و بے ادب کا ترجمہ پڑھنے سے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے کیونکہ ”نیم ملا خطرہ ایمان“ ہوتا ہے۔ دورِ حاضر کے منافقین کے پرانے پرانے چوٹی کے سیانے پیشواؤں کے قرآنی تراجم کا جائزہ لینے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو قرآن فہمی سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کے گمراہ کن تراجم کو دھوم دھام سے روحانی اور عرفانی تراجم میں شمار کرانے اور کرنے کا دھوم دھڑکا مچایا جاتا ہے۔ اہل ایمان ایسے مقصد العقائد اور مہلک الایمان تراجم سے کنارہ کش ہو کر اجتناب و احتراز کریں۔

”اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کے لفظی معنی کو دلیل بنا

کر حضور اکرم کو اپنے جیسا بشر کہنے والے خود اپنی

جال میں پھنستے ہیں

دورِ حاضر کے منافقین حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں اور اپنے اس باطل نظریہ کے ثبوت میں سورۃ الکہف اور حم سجدہ کی آیت مقدسہ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ منافقین زمانہ بارگاد رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو ہیں و بے ادبی کرنے کی غرض سے زمانہ ماضی کے کفار و مشرکین اور منافقین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ اپنے اس باطل عقیدہ کو مناسب ٹھہرانے کے لیے قرآن مجید کی آیت کا ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ بھولے بھالے عوام الناس کو مغالطہ دینے کے

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

لیے اور اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے آیت کا لفظی ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ ﴿قُلْ = کبرو﴾ انا = میں ﴿بَشِّرْ = آدمی (بشر) ہوں﴾ ﴿مِثْلُكُمْ = تمہارے جیسا۔ یعنی ”کہہ دو میں آدمی ہوں تمہارے جیسا“۔ اس طرح قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر کے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم اپنی طرف سے ”اپنے جیسا بشر“ نہیں کہتے بلکہ قرآن مجید نے کہا ہے۔ ہم تو وہی کہتے ہیں جو قرآن میں ہے۔ منافقوں کے اس ٹکر و فریب کے جاں میں بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں اور گمراہیت کی راہ سنگلاخ پر چل پڑتے ہیں۔

پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت آیات متشابہات میں شمار ہوتی ہے لہذا اس کے ظاہری لفظی معنوں کو دلیل بنا کر بطور ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ جس کی تفصیلی وضاحت ہم نے اوراق سابقہ میں کر دی ہے۔ منافقین زمانہ کے جہلاء مبلغین میں سے اکثر و بیشتر کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آیات متشابہات کس کو کہتے ہیں۔ لہذا وہ ہمیشہ علمی بحث سے گریز ہی کرتے ہیں۔ ایسے گریز پا بھگوڑوں کو آسان علمی دلیل سے دو چنا چاہیے۔ بلکہ آیت کے ظاہری لفظی معنوں کو پیش کرنے کا ان کا جو طریقہ ہے، وہی طریقہ بطور حجت اختیار کر کے ”جس کی جوتی اس کے سر“ والی مثل اپنانی چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت کے ظاہری لفظی معنی پیش کر کے منافقین زمانہ کو مات دینے کے لیے ذیل میں چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔ جن کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینے سے منافقین زمانہ دم بخود ہو کر رہ جائیں گے۔ (انشاء اللہ تعالیٰ وحبیبہ)

⑤ دلیل نمبر ۱:-

عام طور سے مسلمان کو ”مؤمن“ کہا جاتا۔ مؤمن کی جمع مؤمنین ہے۔ قرآن مجید میں مسلمان کو ”مؤمن“ اور مسلمانوں کو ”مؤمنین“ کہا گیا ہے۔ مؤمن کا لفظ مسلمان کے معنی میں رائج ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ”مؤمن“ ہوں تو اس سے یہ مراد لی جائے گی کہ میں مسلمان ہوں۔ عوام و خواص لفظ مؤمن کو مسلمان کے معنی اور مطلب میں استعمال کرتے ہوئے بولتے ہیں مثلاً پیارے ”مؤمن بھائیو“ یا ”معزز مؤمن بھائیوں کو معلوم ہو“ وغیرہ۔ الحاصل مسلمان کو قرآنی اصطلاح میں اور عام اصطلاح میں بھی مؤمن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں مسلمان کو مؤمن کہا گیا ہے۔

❶ **وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ**

(پارہ: ۴، سورۃ البقرہ، آیت: ۲۲۱)

ترجمہ:- "اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے۔" (کنز الایمان)

نتیجہ:- اس آیت میں مسلمان کو مؤمن کہا گیا ہے۔

❷ **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ**

(پارہ: ۲۸، سورۃ الحشر، آیت: ۲۳)

ترجمہ:- "وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اللہ ملک ہے، قدوس ہے،

سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے۔"

نتیجہ:- اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت میں لفظ "مؤمن" کا استعمال ہوا ہے
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمن ہے۔

سورۃ حشر کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو "مؤمن" اور سورۃ بقرہ کی آیت: ۲۲۱ میں
مسلمان کو بھی "مؤمن" کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ بھی مؤمن ہے اور مسلمان بھی مؤمن ہے۔
اب ایک مزید آیت کریمہ تلاوت کریں:-

❸ **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ** (پارہ: ۲۶، سورۃ الحجرات، آیت: ۱۰)

ترجمہ:- "مسلمان مسلمان بھائی ہیں" (کنز الایمان) یعنی مؤمن سب آپس میں
بھائی بھائی ہیں۔

اب ہم منافقین زمانہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ:-

سورۃ البقرہ میں مسلمان کو مؤمن کہا گیا ہے۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ کو مؤمن کہا گیا
ہے۔ اور سورۃ الحجرات میں ایسا فرمایا گیا ہے کہ تمام مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جس
صرح تم قرآن مجید سورۃ الکہف اور سورۃ حم سجده کی آیت **إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** کے
ظاہری لفظی معنی اخذ کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو، اسی طرح
سورۃ البقرہ، سورۃ الحشر اور سورۃ الحجرات کی صرح بالائتین آیات کے ظاہری لفظی معنی کی

بناء پر اللہ کو اپنا بھائی کہو گے؟ کیا ان آیات کے ظاہری لفظی معنی کی بناء پر اللہ تعالیٰ کو اپنا بھائی کہنا درست ہے؟ کیا ان آیات کے ظاہری لفظی معنوں کی بناء پر اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو اپنا بھائی کہا تو اس نے شان الوہیت میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے یا نہیں؟ ایسا کہنے والا شخص ایمان کے دائرہ سے خارج ہو جائے گا یا نہیں؟

قارئین کرام سے التماس ہے کہ ہم نے مندرجہ بالا تین آیات مقدسہ لفظ "مؤمن" کے تعلق سے صرف منافقین زمانہ کو ساکت و مبسوت کرنے کے لیے پیش کی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے کے لیے "أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" آیت پیش کر کے اس کے ظاہری لفظی معنی کی بنا پر جو لوگ اُچھل کود کرتے ہیں، ان کے اُچھلنے کودنے کو لگام دینے کے لیے ترکی بہ ترکی جواب دینے کے لیے ہم نے لفظ "مؤمن" کے ظاہری لفظی معنی والی دلیل پیش کی ہے۔ تاکہ ان کے دماغ کی گرمی اتر جائے اور ان کی بے تکی منطق کا استیصال بھی ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مندرجہ آیات کے ظاہری لفظی معنوں کی بناء پر اللہ تعالیٰ کو بھائی کے معنی یا مسلمان کے معنی میں مؤمن کہنا برگز درست نہیں۔ جیسا کہ ہم نے اوراق سابقہ میں معروض کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں حقیقت اور مجاز کا فرق کرنا اشد ضروری ہے، لہذا:-

جب لفظ "مؤمن" کی نسبت مسلمان کی طرف کی جائے گی تو اس کے معنی "ایماندار" یا "ایمان لانے والا" ہوں گے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف "مؤمن" کی صفت منسوب کی جائے گی تو اس کے معنی ہوں گے "ایمان بخشنے والا" یا "ایمان دینے والا"

○ دلیل نمبر ۲:-

اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں میں رَوْفٌ، رَحِيمٌ، شَهِيدٌ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان تینوں صفاتی اسماء کا قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ مثلاً:-

○ "هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ" (پارہ: ۲۸، سورۃ الحشر، آیت: ۲۲)

○ "الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ" (سورۃ الفاتحہ، آیت: ۲)

○ "وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ" (پارہ: ۳، سورۃ آل عمران، آیت: ۳۰)

○ "قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا" (پارہ: ۳، سورۃ آل عمران، آیت: ۳۰)

(پارہ: ۲۱، سورۃ العنکبوت، آیت: ۵۴)

مندرجہ بالا آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین صفاتی نام رحیم، رؤف اور شہید مذکور ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ رحیم سے، رؤف ہے اور شہید ہے۔ شہید بمعنی گواہ کے ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی دیگر دو آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں:-

❖ "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ الرَّحِيمُ"

(پارہ: ۱۱، سورۃ التوبہ، آیت: ۱۲۸)

ترجمہ:- "بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان" (کنز الایمان)

اس آیت کریمہ میں حضور اقدس، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رؤف اور رحیم کی صفت سے متصف کیا گیا ہے۔

❖ "فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا" (پارہ: ۵، سورۃ النساء، آیت: ۴۱)

ترجمہ:- "تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔" (کنز الایمان)

اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو "شہیداً" (گواہ) فرمایا گیا ہے۔

مندرجہ بالا کُل چھ آیات سے ثابت ہوا کہ

❖ اللہ تبارک و تعالیٰ ❖ رحیم ہے ❖ رؤف ہے ❖ شہید ہے

❖ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ❖ رحیم ہیں ❖ رؤف ہیں ❖ شہید ہیں

یہ حقیقت قرآن سے ثابت ہے۔ کسی کے گھر کی ایجاد کردہ بات نہیں بلکہ قرآن کا فیصلہ

ہے۔ جس پر قرآن مجید کی آیات مبینات شاہد عاقل ہیں۔

اب ہم منافقین زمانہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ:-

marfat.com

قرآن مجید کی آیت "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کے ظاہری لفظی معنی کی بناء پر تم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے کی جرأت کرتے ہو، تو کیا اب ان چھ آیات کے ظاہری لفظی معنوں کی بناء پر یہ کہو گے کہ قرآن مجید میں بھی معاذ اللہ شرک کی تعلیم دی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو رؤف، رحیم اور شہید کہا گیا ہے اور اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی رؤف رحیم اور شہید کہا گیا ہے۔ عبد النبی اور عبد الرسول نام رکھنے پر تم نے شرک کا وادیلہ اور غوغا صرف اس لیے مچا رکھا ہے کہ اللہ کا بندہ اور رسول کا بھی بندہ؟ یہ ممکن ہی نہیں کیونکہ اس میں مساوات یعنی اللہ کے ساتھ رسول اللہ کی برابری کی جاتی ہے۔ تو قرآن کی مندرجہ چھ آیات میں جو اللہ کی صفات رؤف، رحیم اور شہید بیان ہوئی ہیں، انہیں صفات سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی متصف کیا گیا ہے، تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ یہاں بھی مساوات اور برابری کا رونا دھونا کرو گے؟ اگر کسی کا نام عبد النبی یا عبد الرسول ہوتا ہے تو تم بلا کسی تاقل، بلا کسی تاخیر، بلا کسی جھجک اور بلا کسی وضاحت کے دھڑا دھڑا شرک کے فتوے صادر کرتے ہو، تو اگر کسی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی رحیم یا نبی رؤف یا رؤف رحیم نبی کے القاب سے ملقب کیا تو ان القاب میں اللہ تعالیٰ کی صفات سے مساوات ہوتی ہے یہ بہانہ کر کے اور حیلے حوالے کر کے شرک کے فتوے کے پتھر برساؤ گے؟

قارئین کرام کی خدمت عالی میں وضاحت پیش کرتے ہوئے عرض ہے کہ:-

بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ رؤف و رحیم و شہید ہے۔ اور بے شک اللہ کے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رؤف و رحیم و شہید ہیں۔ لیکن یہاں حقیقت و مجاز اور ذاتی و عطائی کا فرق کرنا ضروری ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رؤف و رحیم و شہید ذاتی ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطائی رؤف و رحیم و شہید ہیں۔ نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ حقیقی اور ذاتی رؤف و رحیم و شہید رب تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم کو اپنی عطا سے رؤف و رحیم و شہید بنایا۔ اگر حقیقت و مجاز اور ذاتی و عطائی کا فرق سمجھ میں آ گیا تو توحید و رسالت کے تعلق سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے مثلاً علم غیب، حاضر و ناظر، تصرف و اختیارات وغیرہ کے تعلق سے جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں وہ باسانی سمجھ میں آ جائیں گے اور نور ایمان کی ضیاء و جلالت حاصل ہوگی

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اور اگر حقیقت و مجاز اور ذاتی و عطائی کا فرق کرنے کی صلاحیت نہیں تو ہر معاملہ میں شرک کے شرارے ہی نظر آئیں گے اور رفتہ رفتہ وہ شرارے کو آتش فشاں بن کر ایوانِ ایمان کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔

○ دلیل نمبر ۳:-

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ”رَبُّ“ ہے۔ رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، پروردگار، مالک وغیرہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا کثرت سے ذکر ہے:-

○ **”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“** (سورۃ التاٰتھ، آیت: ۱)

ترجمہ:- ”سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔“ (کنز الایمان)

○ **”رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ“**

(پارہ: ۲۷، سورۃ الرحمن، آیت: ۱۷)

ترجمہ:- ”دونوں پورب کا رب اور دونوں بچھتم کا رب“ (کنز الایمان)

○ **”وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ“** (پارہ: ۲۷، سورۃ نوح، آیت: ۲۶)

ترجمہ:- ”اور نوح نے عرض کی اے میرے رب“ (کنز الایمان)

○ **”قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي“** (پارہ: ۱۶، سورۃ طہ، آیت: ۲۵)

ترجمہ:- ”عرض کی اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے“ (کنز الایمان)

اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کی حیثیت سے اور اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر قرآن مجید میں ”رب“ کا لفظ وارد ہے۔ اسی طرح ماں باپ کو بھی قرآن میں ”رب“ کہا گیا ہے۔

○ **”وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا“**

(پارہ: ۱۵، سورۃ بنی اسرائیل، آیت: ۲۳)

ترجمہ:- ”اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن

میں پالا“ (کنز الایمان)

اس آیت میں ماں باپ کے لئے ”رَبِّ“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

اب ہم منافقین کو مانہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ:-

قرآن مجید کی آیت مقدسہ "قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کے ظاہری لفظی معنی کی بناء پر تم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو، تو کیا سورہ بنی اسرائیل کی مندرجہ بالا آیت کی بناء پر اپنے والد کو "ربی" یعنی "میرا رب" کہہ سکتے ہیں؟ کیا اپنے ماں باپ کے لیے مطلق رب کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ جس معنی میں اللہ تعالیٰ کو "رب" کہتے ہیں، اسی معنی میں اپنے ماں باپ کو "رب" کہہ سکتے ہیں؟ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تیرا رب کون ہے؟ اور وہ یہ جواب دے کہ میرا رب میرا باپ ہے اور وہ اپنے باپ کو اپنا رب ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی مذکورہ آیت کو بطور دلیل پیش کر سکتا ہے؟ کیا اس کی دلیل مانی جائے گی؟ اگر ہاں میں جواب ہے تو سوال ہے کہ کیوں مانی جائے گی؟ اور "نا" میں جواب ہے تو یہ بتائیں کیوں نہیں مانی جائے گی؟ تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کے دلائل سے مرحمت کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔

قارئین کرام کی خدمت میں وضاحتاً عرض ہے کہ:-

اس آیت میں ماں باپ کو ضرور رب کہا گیا ہے لیکن مجازاً کہا گیا ہے۔ کیونکہ رب لفظ کے لغوی معنی ہیں پالنے والا یا پرورش کرنے والا۔ چونکہ ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں، اس معنی میں ماں باپ کو رب کہا گیا ہے یعنی پالنے والے یا پرورش کرنے والے اور یہ معنی مجاز پر محمول ہیں۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی پالتا ہے۔ اس حقیقت کی بناء پر اللہ تعالیٰ رب ہے اور یہ معنی حقیقت پر محمول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذاتی اور حقیقی رب یعنی پالنے والا ہے اور رب حقیقی کی عطا سے ماں باپ مجازی اور عطائی رب یعنی پرورش کرنے والے ہیں۔ حقیقت و مجاز اور ذاتی و عطائی کا فرق کرنے سے آیت کا مفہوم، مطلب اور مراد اچھی طرح سمجھ میں آجائے گا۔

◎ دلیل نمبر ۴:-

جیسا کہ ہم نے اوراق سابقہ میں عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی خالص عربی زبان کی لغت کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور کئی لفظ کے ایک معنی بھی

ہوتے ہیں۔ جس لفظ کے کئی معنی ہوتے ہوں اس لفظ کا معنی واقعے کی نوعیت، محل و موقعہ، انداز بیان، مخاطب اور مخاطب کی حیثیت، حقیقت و مجاز، طنز و استقبہام، مبتداء و خبر، شرط و جزاء، اطناب و ایجاز، تذلیل و تکریم، وعید و بشارت، زجر و تنبیہ، تشبیہ و استعارہ، وغیرہ جیسے ضروری امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور آیت کی تفسیر میں وارد اصل واقعے کی مکمل واقفیت رکھ کر اس سے مناسبت رکھنے والے موزوں طور پر ہی کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر لفظ ”کریم“۔ قرآن مجید میں لفظ ”کریم“ اتنے متعدد اور مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ اگر ترجمہ کرنے والا بالغ النظر اور وسیع علم کا حامل نہیں تو وہ ترجمہ کرنے میں ٹھوکر یں کھائے گا۔ حیرت اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ ”کریم“ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کی حیثیت سے وارد ہے اور یہی لفظ کریم سے ابو جہل جیسے کافر کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ اور دونوں جگہ لفظ ”کریم“ کا صحیح صحیح استعمال ہوا ہے لیکن معنی، مطلب اور مراد کا فرق عظیم ہے۔ قارئین کرام کی فرحت طبع کے خاطر لفظ ”کریم“ کے تعلق سے ہم قرآن مجید کی مختلف آیات بطور مثال پیش کر کے اس پر بہت ہی اختصاراً بحث کرتے ہیں:-

❶ ”کریم“ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات کے ساتھ اس کی اضافت کر کے عام بول چال میں بھی یہ لفظ رائج اور مستعمل ہے۔ مثلاً اللہ کریم، رب کریم وغیرہ۔ قرآن مجید میں لفظ ”کریم“ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے طور پر وارد ہے:-

”يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ“

”(پارہ: ۳۰، سورۃ الانشقاق، آیت: ۶)“

ترجمہ:- ”اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے“ (کنز الایمان)
اس آیت میں ”کرم والے“ کے معنی میں لفظ ”کریم“ کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے طور پر ہوا ہے۔

اب ہم ناظرین کرام سے مؤدبانہ التماس کرتے ہیں کہ اپنی تمام توجہات براہ کرم مرلوز فرمائے اور مطالعہ فرمائیں اور ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن مجید میں لفظ ”کریم“ کتنے مختلف معنوں میں

marfat.com

اور متفرق انداز میں استعمال ہوا ہے۔

❖ لفظ ”کریم“ کا استعمال قرآن مجید کی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔

إِنَّا لَقَرَّانٌ كَرِيمٌ (پارہ: ۲۷، سورۃ الواقعة، آیت: ۷۷)

ترجمہ:- ”بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت میں ”عزت والا“ کے معنی میں لفظ کریم کا استعمال قرآن مجید کی صفت و تعریف کے طور پر ہوا ہے۔

❖ جلیل القدر نبی و رسول حضرت سیدنا موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو

لفظ ”کریم“ کی صفت سے موصوف کیا گیا ہے۔

وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (پارہ: ۲۵، سورۃ الدخان، آیت: ۱۷)

ترجمہ:- ”اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لایا۔“ (کنز الایمان)

تفسیر:- ”یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۸۹۳)

اس آیت میں ”مُعَزَّزٌ“ یعنی عزت دار، باوقعت، بڑا شریف، بزرگ کے معنی میں لفظ

کریم کا استعمال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں وارد ہے۔

❖ لفظ ”کریم“ کا استعمال خسرو خیز ملک، خادم سلطان عرب، جلیل القدر

ملائکہ حضرت سیدنا جبرئیل علیہ السلام کی مدح و ثنا کے طور پر بھی ہوا ہے۔

إِنَّا لَقَوْلٌ رَسُولٍ كَرِيمٌ (پارہ: ۳۰، سورۃ التکویر، آیت: ۱۹)

ترجمہ:- ”بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے۔“ (کنز الایمان)

تفسیر:- ”یعنی حضرت جبرئیل علیہ السلام“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۱۰۵۷)

نوٹ:- اس آیت میں رسول بمعنی فرشتہ کے ہے۔

اس آیت میں ”عزت والے“ کے معنی میں لفظ ”کریم“ کا استعمال حضرت سیدنا جبرئیل

علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں کیا گیا ہے۔

❖ قارئین کرام کو تعجب ہوگا کہ قرآن مجید میں خیرات کرنے والے مرد

و عورت کو جو ثواب ہوگا، اس ثواب یعنی اجر بدلے اور اجر کو بھی لفظ

marfat.com

”کریم“ سے متصف فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ الْمُضْطَّيْقِينَ وَالْمُضْطَّيْقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

(پارہ: ۲۷، سورۃ الحدید، آیت: ۱۸)

ترجمہ:- ”بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا۔ ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت میں لفظ ”کریم“ کا استعمال صدقہ اور خیرات کرنے والے مؤمنین کے اجر و ثواب کو ”عزت والے“ ثواب سے سراہنے کے لیے کیا گیا ہے۔

✪ خدائی کا دعویٰ کرنے والے مغرور فرعون کی فوج کے ہلاک ہونے والے فرعونی سپاہیوں کے عمدہ مکانات یعنی آراستہ پیراستہ اور مزین گھروں کو بھی قرآن مجید میں لفظ ”کریم“ سے متصف کیا گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام قوم بنی اسرائیل کے فرمانبردار افراد کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے روانہ ہوئے اور راہ میں دریائے نیل واقع اور حائل ہوا تو حالت یہ تھی کہ آگے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تعاقب کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ آپ کے تمام ہمراہی گھبرا گئے، تب آپ نے عظیم معجزہ ظاہر کرتے ہوئے دریا پر اپنا مقدس عصا یعنی ڈنڈا مارا تو دریا میں بارہ راستے بن گئے۔ ان راستوں پر چل کر قوم بنی اسرائیل پار ہونے لگی۔ قوم بنی اسرائیل کو دریا میں تراشیدہ راستوں میں چل کر جاتی ہوئی دیکھ کر فرعون کا لشکر بھی قوم بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے ان راستوں پر چل پڑا۔ قوم بنی اسرائیل دریا پار کر کے جب سامنے والے کنارے پر پہنچی تب فرعون کا لشکر بیچ دریا میں تھا۔ قوم بنی اسرائیل کے سامنے والے کنارے پر پہنچتے ہی حکم آیا۔ سر دریا پھر اپنی سابقہ حالت پر

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

آگیا اور دریا میں جو راستے تھے وہ ہموار پانی کی شکل میں تبدیل ہو گئے اور فرعون کا پورا لشکر غرق دریا ہو کر ہلاک ہو گیا۔ فرعون کا مع اپنے لشکر کے ہلاک ہو جانے پر ان کے ہرے بھرے باغات، سرسبز و شاداب کھیت، چشمے اور عیش و آرام کے سامان سے آراستہ اور عالی شان مزین مکانات اور دیگر مال و متاع مندر شہر میں دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اس واقعہ کا قرآن مجید میں اس طرح بیان ہے کہ:-

وَإِنَّكَ الْبَاحِرَ رَهْوًا ط إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُفْرَقُونَ ۝ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ وَزُرُوعٍ وَ مَقَامٍ كَرِيمٍ ۝

(پارہ: ۲۵، سورۃ الدخان، آیت: ۲۳ تا ۲۶)

ترجمہ:- ”اور دریا کو یونہی جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دے، بے شک وہ لشکر ڈبو یا جائے گا، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے، اور کھیت اور عمدہ مکانات“ (کنز الایمان)

تفسیر:- ”تا کہ فرعون کی راستوں سے دریا میں داخل ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا اور فرعون اور اس کا لشکر دریا میں غرق ہو گیا اور ان کا تمام مال و متاع اور سامان بہیں رہ گیا۔ عمدہ مکانات یعنی آراستہ پیراستہ مزین مکانات۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۸۹۳)

اس آیت میں فرعون اور فرعونوں کے ”عمدہ مکانات“ یعنی آراستہ پیراستہ اور مزین مکانات کو ”مقام کریم“ کہہ کر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی قوم فرعون کے ”عمدہ مکانات“ کے لیے بھی لفظ ”کریم“ کا استعمال کیا گیا ہے۔

⊕ رئیس الکفار والمشرکین، عدوتی، ابو جہل العین اور دیگر کفار کو بھی طنزاً یعنی طعنہ دیتے ہوئے لفظ ”عزیز“ ”کریم“ سے مخاطب کیا گیا ہے۔

ذُوقْ طَافَانِكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

(پارہ: ۲۵، سورۃ الدخان، آیت: ۴۹)

ترجمہ:- ”چکھ، ہاں ہاں تو ہی عزت والا کریم“ (کنز الایمان)

تفسیر:- ”ابو جہل کو ملائکہ یہ کلمہ ابانت اور تذلیل کے لیے کہیں گے کیونکہ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ بطحا میں میں بڑا عزت والا کرم والا ہوں۔ اس کو عذاب کے وقت یہ طعنہ دیا جائے گا اور کفار سے بھی یہ کہا جائے گا“

(تفسیر خزائن العرفان ص: ۸۹۵)

اس آیت میں ابو جہل و دیگر کفار کے لیے لفظ ”عزیز اور ”کریم“ کا استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ ”عزیز“ کا ”عزت والا“ اور لفظ ”کریم“ کا ”کرم والا“ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ ”کریم“ کی طرح ”عزیز“ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔

”وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ (پارہ: ۲۵، سورۃ الجاثیہ، آیت: ۳۷)

ترجمہ:- ”اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔“ (کنز الایمان)

تو جو لفظ ”عزیز“ اللہ تعالیٰ کے لیے ”عزت والا“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہی لفظ عزیز کا ”عزت والا“ کے ہی معنی میں ابو جہل اور دیگر کفار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح جو لفظ ”کریم“ اللہ تعالیٰ کے لیے ”کرم والا“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وہی لفظ ”کریم“ کا ”کرم والا“ کے ہی معنی میں ابو جہل اور دیگر کفار کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

ابو جہل اور کفار کو ”عزیز“ یعنی ”عزت والا“ کہا گیا ہے۔ بظاہر تو یہ بات بڑی تعجب اور حیرت کی ہے۔ کیونکہ ان کفار کے لیے اللہ کے یہاں کسی بھی قسم کی کوئی عزت نہیں بلکہ ان کے لیے کسی قسم کی عزت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ قرآن مجید میں تو صاف اور صریح طور پر وضاحت فرمادی گئی ہے کہ عزت صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہے:-

”وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ“ (پارہ: ۲۸، سورۃ المنافقون، آیت: ۸)

ترجمہ:- ”اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔“

(کنز الایمان)

جب عزت اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنین کے لیے ہے تو یقیناً کفار دنیا و آخرت کی عزت سے محروم ہیں تو یہ کلمہ کیا جیسے کہ کفار اور کفار کے سردار ابو جہل سے ”اَنْتَ الْعَزِيزُ“

الْكَرِيمُ کہہ کر کیوں خطاب کیا جائے گا؟ جو اباً عرض ہے کہ یہ جملہ طنزیہ ہے۔ یعنی ابو جہل کو طعنہ دینے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کو اپنی عزت کا بہت غرور گھمنڈ تھا۔ وہ اپنے آپ کو کچھ کا کچھ سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ پورے مکہ معظمہ میں سب سے زیادہ عزت اور کرم والا میں ہی ہوں لیکن جب قیامت میں اُسے عذاب کے فرشتے ذلیل و خوار کرتے ہوئے گھسیٹیں گے اور اس کی ہتک عزت اور بات و حقارت کریں گے تب اسے اس کے غرور و شوخی کو یاد دلاتے ہوئے طعنہ دیں گے کہ دنیا میں تو اپنے کو عزت و کرم والا سمجھتا تھا۔ تو لے آج تو اپنی شوخی کا نتیجہ دیکھ لے اور ”ذوق“ یعنی چکھ، دردناک عذاب چکھ۔ اس آیت کے ظاہری لفظی معنی کی بناء پر ابو جہل دو غیر کفار کو ”عزت والا“ اور ”کرم والا“ ہرگز نہیں کہا جائے گا۔

اس جملہ طنزیہ کو آسان مثال سے یوں سمجھو کہ اگر کوئی شخص اپنے کونیک، متقی، پرہیزگار، عابد و زاہد سمجھتا ہو اور ہر جگہ اپنے زہد و تقویٰ کا فخر یہ ڈھنڈورا پیٹتا پھرتا ہو اور چند دنوں بعد وہ کسی طوائف کے کوٹھے پر نشہ کی حالت میں کسی رنڈی کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور لوگ اس کی پٹائی کریں اور اس کو اپنے زہد و تقویٰ کا غرور یاد دلاتے ہوئے کہیں کہ لے اب ذلت و رسوائی کا مزہ چکھ، تو تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ یعنی تو وہی تو ہے جو اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار کہتا تھا لیکن آج تیری قلعی کھل گئی ہے۔ اب ذرا کہہ تو سہی کہ میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اس وقت اس نام نہاد متقی اور بناوٹی پرہیزگار کو اپنی اصلیت کا احساس ہوگا اور متقی ہونے کی جو شوخی مارتا تھا اس پر ندامت ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح ابو جہل اور دیگر کفار کو قیامت میں طعنہ دیتے ہوئے اور عار دلاتے ہوئے، ذلیل و خوار کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ ”أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ“ یعنی ”ہاں ہاں! تو ہی بڑا عزت والا کرم والا ہے۔“ اس آیت میں لفظ ”عزیز“ اور لفظ ”کریم“ کا استعمال ابو جہل کی تعظیم و تکریم کے مطلب اور مراد میں نہیں کیا گیا بلکہ تذلیل و توہین کے مطلب و مراد میں استعمال کیا گیا ہے۔

❶ قرآن مجید میں لفظ ”کریم“ کا استعمال اعلیٰ درجے کی سبزیاں یعنی عمدہ ترکاریوں کی تعریف میں ”نفس“ کے معنی میں بھی ہوا ہے۔

”وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُرًا لِيُخْرِجَ بِهِ الْبَلَاطِخَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ“

(پارہ: ۲۱، سورۃ لقمان، آیت: ۱۰)

ترجمہ: "اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفس جوڑا اُگایا۔"

(کنز الایمان)

تفسیر: "یعنی عمدہ اقسام کے نباتات پیدا کیے۔" (تفسیر خزائن العرفان)

حل لغت:

⊙ نباتات = سبزیاں، ترکاریاں (حوالہ: فیروز اللغات، ص: ۱۳۲۹)

⊙ نفیس = عمدہ، اعلیٰ درجہ کی، قیمتی، پاکیزہ، (حوالہ: فیروز اللغات، ص: ۱۳۶۹)

⊙ جوڑا = ایک سی دو چیزیں، ہفت، (حوالہ: فیروز اللغات، ص: ۲۸۳)

اس آیت میں لفظ "کریم" کا استعمال زمین سے اُگنے والی سبزیوں اور ترکاریوں کی

"نفاست" یعنی عمدگی اور پاکیزگی کے اظہار کے لیے کیا گیا ہے۔

⊙ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بے مثل اور نادار زمین

حسن و جمال اور خیرہ چشم کردینے والی خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی عورتوں

نے آپ کے لیے "مَلِكٌ كَرِيمٌ" کا جملہ استعمال کیا تھا۔ جس کا بیان

قرآن مجید میں اس طرح ہے کہ:-

"إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلِكٌ كَرِيمٌ" (پارہ: ۱۲، سورۃ یوسف، آیت: ۳۱)

ترجمہ: "یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔" (کنز الایمان)

اس آیت میں حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بے مثال خوبصورتی اور حسن و جمال

کا وصف بیان کرنے کے لیے "معزز" کے معنی میں لفظ "کریم" کا استعمال کیا گیا ہے۔

⊙ قرآن مجید میں لفظ "کریم" کا استعمال جنت کو عزت کی جگہ کے وصف

سے متصف کرنے کے لیے "عزت" کے معنی میں بھی کہا گیا ہے:-

"وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا" (پارہ: ۵، سورۃ النساء، آیت: ۳۱)

ترجمہ: "اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں" (کنز الایمان)

اس آیت میں جنت کو عزت کی جگہ متصف کرنے کے لیے "عزت" کے معنی میں

لفظ "کریم" کا استعمال ہوا ہے۔

صرف لفظ "کریم" کے تعلق سے کل بارہ (۱۲) آیات قرآنیہ تلاوت ہوئی ہیں۔ ایسی تو کئی آیات پیش کی جاسکتی ہیں جن میں لفظ "کریم" کا مکمل و موبہدہ کے اعتبار سے مختلف معنی مطلب اور مراد میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن طول تحریر کے خوف سے اس بحث کو اطناب نہیں دیتے۔ ﴿ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾ (پارہ: ۱۸، سورۃ النور، آیت: ۱۱۶) ﴿ لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (پارہ: ۱۰، سورۃ الانفال، آیت: ۷۴) وغیرہ آیات کے ضمن میں تفصیلی وضاحت نہ کرتے ہوئے اب ہم منافقین زمانہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ:-

(۱) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ - آیت کریمہ کے ظاہری لفظی معنی کی بناء پر تم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو، تو کیا سورۃ الدخان کی آیت تَذُقُ مَا فَايَنَّا أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ کے ظاہری لفظی معنی کی بناء پر ابو جہل اور دیگر کفار کو اللہ تعالیٰ جیسا عزت والا اور کرم والا مانو گے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر ثابت کرنے کے لیے تم یہ کہتے ہو کہ حضور کو قرآن نے جب بشر کہا ہے، تو ہم کہیں تو اس میں کونسی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ تمہارے اس نظریہ کی بناء پر تمہارے نقش قدم پر چل کر کوئی سر پھرا اور عقل کا مارا یہ کہے کہ اللہ "عزیز" اور "کریم" ہے اور قرآن نے ابو جہل اور دیگر کفار کو "عزیز" اور "کریم" کہا ہے لہذا وہ اللہ تعالیٰ جیسے عزت اور کرم والے ہیں، تو ایسا کہنا بے ادبی اور گستاخی ہے یا نہیں؟ ایسے شخص کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ حالانکہ وہ یہ بات قرآن مجید کی آیت کے ظاہری لفظی معنی کو دلیل بنا کر کہہ رہا ہے۔ کیا اس طرح کسی آیت کے ظاہری لفظی معنی کو بطور سند و دلیل پیش کر کے اتنی بڑی بات کہنا مناسب ہے؟

(۲) قرآن مجید میں ﴿ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ﴾ ﴿ حضرت جبرئیل علیہ السلام ﴾ ﴿ جنت کو ﴾ ﴿ عرش کو ﴾ ﴿ رزق کو ﴾ ﴿ اجر و ثواب کو ﴾ ﴿ فرعون کی قوم کے آراستہ و مزین مکانوں کو ﴾ ﴿ زمین سے اگنے والی ترکاریوں اور سبزیوں کو لفظ "کریم" سے متصف کیا گیا ہے اور اللہ جل جلالہ کے منہا ہونے کی حیثیت سے بھی لفظ

”کریم“ کا استعمال ہوا ہے۔ لفظ کریم کا ظاہری لغوی معنی کرم والا ہوتا ہے۔ کیا ظاہری لغوی معنی کو دلیل و سند بنا کر اللہ تعالیٰ کی صفت ”کریم“ کا دوسروں پر اسی معنی میں اطلاق کیا جاسکتا ہے؟ اگر کیا جاسکتا ہے تو کیوں؟ اور اگر نہیں کیا جاسکتا تو کیوں نہیں کیا جاسکتا؟ اگر اسی معنی میں اطلاق نہیں کیا جاسکتا تو پھر قرآن مجید میں مختلف افراد اور اشیاء کو ”کریم“ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وضاحت و تاویل کرنی ضروری ہے یا نہیں؟ حقیقت و مجاز اور ذاتی و عطائی کا فرق کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر تاویل اور حقیقت و مجاز کا فرق کرنا ضروری ہے تو پھر ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کی بھی وضاحت و تاویل کرنی بھی لازمی اور ضروری ہے یا نہیں؟ ”ہاں“ اور ”نا“ دونوں صورتوں میں وجہ کیا ہے؟ تمام جوابات قرآن و حدیث کی دلیل پیش کر کے دیں۔

ناظرین کرام سے التماس ہے کہ ہم نے منافقین زمانہ کے سامنے صرف دو ہی سوال رکھے ہیں۔ حالانکہ اس ضمن میں کثیر تعداد میں سوال قائم کیے جاسکتے ہیں لیکن ہم نے صرف دو سوال پر ہی اکتفا اس لیے کیا ہے کہ ان دونوں سوالات کے جوابات دینے میں ان کا پسینہ چھوٹ جائے گا اور یقینی طور پر وہ جواب دینے سے عاجز و قاصر رہیں گے۔ کیونکہ اگر لفظ ”کریم“ کی تاویل کرتے ہیں تو ان کو ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کی بھی تاویل کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا اور اگر لفظ ”کریم“ کی تاویل نہیں کرتے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اور ”سانپ کے منہ میں چھچھوند، نکلے تو اندھا، اُگلے تو کوڑھی“ جیسی صورت درپیش ہوگی اور ”نہ اُگلے بنے، نہ نکلے بنے“ جیسی حالت ہوگی۔

دلیل نمبر: ۵

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ”علیم“ ہے۔ ”علیم“ کے معنی ہوتے ہیں ۵ جاننے والا ۵ علم والا ۵ واقف ۵ صاحب علم وغیرہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ”عَلِيمٌ“ کا متعدد مقاموں پر ذکر ہے مثلاً

marfat.com

❖ **وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** ترجمہ:- ”اور وہی ہے سنا جانتا“ (کنز الایمان)

(۱ پارہ: ۸، سورۃ انعام، آیت: ۱۱۵، اور ۲ پارہ: ۱، سورۃ الانبیاء، آیت: ۳)

❖ **وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** (پارہ: ۱۸، سورۃ التور، آیت: ۲۱)

ترجمہ:- ”اور اللہ سنا جانتا ہے۔“ (کنز الایمان)

❖ **اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** (پارہ: ۲۵، سورۃ الشوری، آیت: ۱۲)

ترجمہ:- ”بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے۔“ (کنز الایمان)

❖ **وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيمٌ** (پارہ: ۶، سورۃ المائدہ، آیت: ۱۱۳)

ترجمہ:- ”اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔“ (کنز الایمان)

مذکورہ آیات میں ”جانتے والا“ اور ”علم والا“ کے معنی میں لفظ ”علیم“ کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے طور پر ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ایسی کئی آیتیں بھی ہیں جن میں لفظ ”علیم“ کا اطلاق اللہ کے سوا دوسروں پر بھی کیا گیا ہے۔ مثلاً:-

❖ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مصر کے اقتصادی اور انتظامی امور

کے سلسلہ میں مصر کے بادشاہ سے فرمایا کہ خزانوں کو میرے حوالے کر دیا

جائے کیونکہ:-

اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلِیْمٌ (پارہ: ۱۳، سورۃ یوسف، آیت: ۵۵)

ترجمہ:- ”بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔“ (کنز الایمان)

اس آیت میں حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقولہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام ”بے شک“ کی قید اور تاکید جملہ کی ابتدا میں لگا کر فرما رہے ہیں کہ بے شک میں ”علیم“ یعنی علم والا ہوں۔

❖ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ بھی عطا

فرمایا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا یعنی لکڑی کا ڈنڈا رہتا تھا، اسے آپ زمین

پر ڈال دیتے تھے تو وہ زندہ اثر دہا یعنی زبردست سانپ بن جاتا تھا۔ فرعون نے

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے

سے تعبیر کیا۔ فرعون کے زیر دست بے شمار ساحر اور جادوگر تھے لہذا اس نے یہ سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقابلہ میں ملک کے تمام ماہرین جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر غلبہ اور فتح حاصل کر لوں۔ لہذا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو چیلنج (Challenge) دیتے ہوئے جو کہا اس کا بیان قرآن مجید میں اس طرح ہے کہ:-

”يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ“ (پارہ ۹، سورۃ الاعراف، آیت: ۱۱۲)

ترجمہ:- ”کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔“ (کنز الایمان)

اس آیت میں ”علم والا“ کے معنی میں لفظ ”عَلِيمٌ“ کا استعمال حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقابلہ میں جمع ہونے والے فرعون کے جادوگروں کے لیے کیا گیا ہے۔ آیت میں ”سَاحِرٍ عَلِيمٍ“ کے الفاظ وارد ہیں یعنی علم والے جادوگر۔ مندرجہ دونوں آیات کے ضمن میں کسی صاحب کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے اپنے آپ کو ”علیم“ کہا ہے، اسی طرح فرعون نے اپنے جادوگروں کی اہمیت جتانے کے لیے اپنے جادوگروں کو ”علیم“ کہہ کر سراہا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں ماضی میں وقوع پذیر واقعہ کا ذکر ہے اور اس کے ضمن میں حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام اور فرعون کے مقولے نقل کیے گئے ہیں۔ اللہ نے تو ان کو ”علیم“ نہیں کہا ہے۔ ایسے معترض صاحب کی تسکین اور اطمینان کے لیے:-

⊙ اب ہم قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہے ہیں، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم والے بندوں کو ”علیم“ فرمایا ہے۔ یعنی اس آیت میں ماضی کے کسی واقعہ کے ضمن میں کسی کا مقولہ نقل نہیں کیا گیا بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کا صاف اور صریح مقدس ارشاد ہے، جو رب تعالیٰ نے اپنے علم والے بندوں پر انعام و اکرام کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

”تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ“

(پارہ ۱۳، سورۃ یوسف، آیت: ۷۶)

marfat.com

ترجمہ:- "ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔" (کنز الایمان)

تفسیر:- "حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہر عالم کے اوپر اس سے زیادہ علم رکھنے والا عالم ہوتا ہے۔" (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۴۴۱)

اس آیت اور اس کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ ہر عالم سے بڑھ چڑھ کر زیادہ علم والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ اور اس سے زیادہ علم والے عالم کو قرآن میں "عَلِيمٌ" فرمایا گیا ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو "عظیم" ہے وہ عظیم رب ہی اپنے علم والے بندوں کو "عَلِيمٌ" فرما رہا ہے۔ نیز اس آیت میں "علم والا" کے معنی میں زیادہ علم والے عالم کے لیے لفظ "عظیم" کا استعمال کیا گیا ہے۔

اب ہم منافقین زمانہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ:-

(۱) قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے "جاننے والا" اور "علم والا" کے معنوں میں لفظ "عظیم" کا استعمال ہوا ہے اور اسی معنی میں دوسروں کے لیے بھی لفظ "عظیم" کا استعمال ہوا ہے۔ جس طرح تم قل اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ آیت کے ظاہری لفظی معنی کی بناء پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو، اسی طرح سورہ یوسف کی دو اور سورہ اعراف کی ایک یعنی مذکورہ تین آیات کے ظاہری لفظی معنوں کی بناء پر تم یہ کہو گے کہ زیادہ علم والے عالم کا علم اللہ تعالیٰ جیسا ہے؟ کیا ایسا کہنا جائز ہے؟

قارئین کرام کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ بے شک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام "عظیم" مذکور ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو بھی ضرور عظیم کہا گیا ہے۔ لیکن اس میں فرق عظیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عظیم یعنی جاننے والا اور علم والا ہے۔ یعنی اس کا علم ذاتی اور حقیقی ہے۔ وہ حقیقی عظیم ہے۔ کیونکہ اس کا علم ابدی، ازلی، اور سرمدی ہے۔ مخلوق میں سے بعضوں کو "عظیم" کہا گیا ہے۔ یعنی اس کا علم عطائی ہے۔ عظیم ذاتی و حقیقی رب تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے علم عطا فرما کر "عظیم" بنایا ہے۔ لہذا وہ بپا زبی اور عطائی عظیم ہے۔ جب کہ

اللہ تعالیٰ حقیقی اور ذاتی علیم ہے۔ آیت کے لفظ ”علیم“ کے ظاہری اور لفظی معنی کی بناء پر ہرگز برتر مساوات و برابری ثابت نہیں کی جاسکتی۔

○ دلیل نمبر: ۶

اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار صفاتی ناموں سے دو نام (۱) سَمِيعٌ یعنی سننے والا اور (۲) بَصِيرٌ یعنی دیکھنے والا بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دونوں صفاتی ناموں کا قرآن مجید کی متعدد آیات میں ذکر ہے مثلاً:-

○ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (پارہ: ۲۸، سورۃ المجادلہ، آیت: ۱)
(پارہ: ۱۷، سورۃ الحج، آیت: ۷۵)

ترجمہ:- ”بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔“ (کنز الایمان)

○ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (پارہ: ۳، سورۃ آل عمران، آیت: ۳۵)

ترجمہ:- ”بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے“ (کنز الایمان)

○ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (پارہ: ۱۵، سورۃ بنی اسرائیل، آیت: ۹۶)

ترجمہ:- ”بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا دیکھتا ہے۔“ (کنز الایمان)

○ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرٌ (پارہ: ۱۶، سورۃ طہ، آیت: ۳۵)

ترجمہ:- ”بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔“ (کنز الایمان)

مندرجہ بالا آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ”سَمِيعٌ“ اور ”بَصِيرٌ“ مذکور ہوئے ہیں۔ ان آیات میں ”سننے والا“ کے معنی میں لفظ ”سَمِيعٌ“ کا اور ”دیکھنے والا“ کے معنی میں لفظ ”بَصِيرٌ“ کا استعمال کیا گیا۔ لیکن ان دونوں صفات سے عام انسان کو بھی قرآن میں متصف کیا گیا ہے۔ جیسا کہ:-

○ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ

سَمِيعًا بَصِيرًا (پارہ: ۲۹، سورۃ الدھر، آیت: ۲)

ترجمہ:- ”بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا مٹی ہوئی مٹی سے کہ وہ اسے جانچیں تو

اسے سنا دیکھتا کر دیا۔“ (کنز الایمان)

سورۃ الدھر کی اس آیت میں ”سنتا“ اور ”دیکھتا“ کے معنی میں عام انسان کو ”سَمِيعٌ“ اور ”بَصِيرٌ“ کہا گیا ہے۔

اب ہم منافقین زمانہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ:-

(۱) قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ”سَمِيعٌ“ اور ”بَصِيرٌ“ بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الدھر کی آیت نمبر ۳ میں مطلق انسان کو بھی ”سَمِيعٌ“ اور ”بَصِيرٌ“ کہا گیا ہے۔ لہذا جس طرح تم آیت مبارکہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کے ظاہری لفظی معنی کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمسری اور مساوات ثابت کرتے ہو، کیا سورۃ الدھر کی آیت نمبر ۳ کی بنا پر بھی انسان مطلق کے لیے اللہ تعالیٰ سے مساوات اور برابری ثابت کرو گے؟ اگر کوئی عقل کا مارا تمہارے نقش قدم پر چل کر سورۃ الدھر کی آیت نمبر ۳ کے ظاہری لفظی معنی کی بناء پر یہ کہے کہ انسان دیکھنے اور سننے کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی مثل ہے، معاذ اللہ جیسے کہ تم کہتے ہو کہ ”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کی بنا پر ہم بشر ہونے کے معاملے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح ہیں۔ تو جو شخص عام انسان کے دیکھنے اور سننے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مساوات اور برابری ثابت کرے، اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟

(۲) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو ”سَمِيعٌ“ اور ”بَصِيرٌ“ کہا گیا ہے، اسی طرح عام

انسان کو بھی ”سَمِيعٌ“ اور ”بَصِيرٌ“ کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ”سَمِيعٌ“

اور ”بَصِيرٌ“ ہونے میں اور انسان کے ”سَمِيعٌ“ اور ”بَصِيرٌ“ میں کیا فرق ہے؟

(۳) اگر فرق ہے تو سورۃ الدھر کی آیت نمبر ۳ کی کیا تاویل و توضیح ہوگی؟ اگر سورۃ الدھر کی

مذکورہ آیت کی تاویل کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے ”سَمِيعٌ“ اور ”بَصِيرٌ“

ہونے میں انسان کی مساوات اور برابری ناممکن، محال، اور خارج از امکان ثابت

کی جائے گی۔ تو پھر ”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کی بھی تاویل کر کے حضور اقدس

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بشر ہونے کے معاملہ میں ہمسری اور برابری محال اور غیر ممکن کیوں ثابت نہیں کی جائے گی؟

(۳) جب سورۃ الدھر کی آیت نمبر ۲ کے ظاہری لفظی معنی کو سند اور دلیل بنا کر سننے اور دیکھنے کے معاملہ میں اللہ کے ساتھ انسان کی مساوات و ہمسری ثابت نہیں کی جاسکتی تو پھر کیا وجہ ہے کہ "أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کے ظاہری لفظی معنی کو دلیل بنا کر بشر ہونے کے معاملہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرتے ہو؟ اور حضور اکرم کو اپنے جیسا بشر کیوں ثابت کرتے ہو؟

ناظرین کرام توجہ فرمائیں کہ سورۃ الدھر میں انسان کو "سَمِيعٌ" اور "بَصِيرٌ" کہا گیا ہے۔ وہ مجازاً کہا گیا ہے۔ اس آیت کو سند یا دلیل بنا کر قطعاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی مساوات ثابت نہیں کی جاسکتی۔ سورۃ الدھر کی مذکورہ آیت کی تاویل کرنا ضروری اور لازمی ہے اور حقیقت و مجاز کا فرق کرنا اشد ضروری ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور اس کی عطا اور فضل و کرم سے انسان بھی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی صفت "سَمِيعٌ" اور "بَصِيرٌ" اس کی مقدس ذات کی طرح ازلی، ابدی، سرمدی، دائمی، باقی، غیر فانی، حقیقی، ذاتی، دوامی، جاودانی، قدیمی، مستقل، غیر حادث، برقرار، کامل، اکمل، اور غیر منقصت ہے جب کہ انسان کی سماعت و بصارت غیر ازلی، غیر ابدی، غیر سرمدی، غیر دائمی، غیر باقی، فانی، مجازی، عطائی، غیر دوامی، غیر جاودانی، عارضی، حادث ناقص، اور منقصت ہے۔

اگر قرآن مجید کی آیات کے صرف ظاہری معنی اور لفظی ترجمہ کو ہی آدمی لپٹا اور چپٹا رہے گا تو بجائے ہدایت کے گمراہیت کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ لہذا قرآن مجید کی آیات کے انداز بیان، حقیقت و مجاز کا فرق اور دیگر ضروری امور جو بالتفصیل اوراق سابقہ میں مذکور و بیان ہوئے ہیں ان کا التزام ضروری ہے۔ صحیح قرآن نہیں کے بغیر قرآن بیانی کے جوہر دکھانا ایمان کے لیے مہلک ہے۔ اگر ایمان اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ سے قرآن پڑھا جائے گا تو نور ایمان کی ضائیں حاصل ہوں گی۔ اور عداوت رسول کی فاسد نظر اور نقص

جوئی کی قبیح نیت سے اگر قرآن پڑھا جائے گا تو ایمان کا چراغ گل ہو جائے گا اور گمراہیت و بے دینی کی تاریکی و ظلمت میں بھٹکتا رہے گا۔ بے شک! قرآن مجید ہدایت ہے۔ لیکن جو محبت رسول کی نگاہ سے قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہی قرآن ہدایت ہے اور جو رسول دشمنی اور نبی کی عداوت کی حاسد اور فاسد نظر سے قرآن پڑھتے ہیں ان کو قرآن سے ہرگز ہدایت نہیں مل سکتی بلکہ وہ قرآن سے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:-

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

(پارہ: ۱، سورۃ البقرہ، آیت: ۲۶)

ترجمہ:- ”اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے۔“

(کنز الایمان)

تفسیر:- ”یعنی قرآن میں دی گئی مثالوں سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے جن کی عقلوں پر جہل نے غلبہ کیا ہے اور جن کی عادت مکابرد و عناد ہے اور جو امر حق اور کھلی حکمت کے انکار و مخالفت کے خوگر ہیں اور باوجودیکہ یہ مثل نہایت ہی بر محل ہے پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ اور اس سے اللہ بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے سے مراد یہ ہے کہ جو غور اور تحقیق کے عادی ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے۔ وہ جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کو تمثیل کسی قدر والی چیز سے دی جائے اور حقیر چیز کی تمثیل کسی ادنیٰ چیز سے دی جائے۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۸)

سورۃ البقرہ کی مندرجہ بالا آیت کی تفصیلی وضاحت نہ کرتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ قرآن مجید کو صحیح معنی، مطلب اور مراد میں سمجھنے کے لیے وسیع علم درکار ہے۔ صرف لفظی ظاہری معنی کی معلومات حاصل ہو جانے پر آدمی یہ گمان کرے کہ میں قرآن فہمی کے فن میں ماہر اور کامل ہو گیا ہوں۔ تو ایسا شخص گمراہ ہو جائے گا جیسا کہ دور حاضر کے منافقین گمراہ ہوئے ہیں۔ دور حاضر کے منافقین کی گمراہیت، ضلالت اور بے دینی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہر معاملے کو تنگ نظری سے دیکھا اور اسلام کے وسیع النظر و کثیر النعم کے کئی تنگ نظر بن گئے۔ حقیقت اور مجاز

کافرق کرنے کے بجائے ہر معاملے کو حقیقت پر محمول کیا اور توحید پرستی کے غلط وہم و گمان میں انبیائے کرام اور خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین کی عالی بارگاہ میں توہین و تنقیص کر کے خود ہی دائرۃ اسلام سے باہر ہو گئے۔ مثلاً انبیائے کرام اور خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین علیہ وسلم الصلوٰۃ والسلام کے علم، اختیارات، تصرف، خبر گیری، دستگیری، حاضر ناظر وغیرہ خصائش سے صرف اس بناء پر منکر و منحرف ہوئے کہ اگر اللہ کے لیے بھی علم غیب مانا جائے اور رسول اللہ کے لیے بھی علم غیب مانا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مساوات و ہمسری ہو گئی اور یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ انہوں نے حقیقت و مجاز کا فرق نہیں سمجھا اور نہ ہی اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کی بلکہ صرف حقیقت پر معاملہ محمول کر کے شرک کا بے دھڑک فتویٰ صادر کر دیا۔ اگر ہر معاملہ کو حقیقت پر ہی محمول کرنے کی تنگ نظری اور عصبیت سے کام لیا جائے تو پھر کسی شخص کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ کیونکہ:-

قرآن مجید میں ہے کہ:-

- اللہ بھی "مُؤْمِنٌ" ہے اور مسلمان بھی "مُؤْمِنٌ" ہے (دیکھو دلیل نمبر ۱، ص: ۲۴۳)
- اللہ "رَوْفٌ" اور "رَحِيمٌ" ہے اور رسول اللہ بھی "رَوْفٌ" اور "رَحِيمٌ" ہیں۔ (دیکھو دلیل نمبر ۲، ص: ۲۴۵)
- اللہ تعالیٰ "شَهِيدٌ" (گواہ ہے اور رسول اللہ بھی "شَهِيدٌ" (گواہ) ہیں۔ (دیکھو دلیل نمبر ۳، ص: ۲۴۵)
- اللہ تعالیٰ "رَبٌّ" ہے اور ماں باپ کو بھی "رَبٌّ" کہا گیا ہے۔ (دیکھو دلیل نمبر ۳، ص: ۲۴۷)
- اللہ تعالیٰ "كَبِيرٌ" ہے اور قرآن میں (۱) حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام، (۲) حضرت جبرئیل علیہ السلام، (۳) اجر و ثواب، (۴) فرعونوں کے آراستہ پیرا ستہ اور مزین مکانات، (۵) ابوجہل اور کفار، (۶) عمدہ اقسام کی سبزیاں اور ترکاریاں، (۷) فرشتے، (۸) جنت، (۹) عرش اعظم، (۱۰) رزق وغیرہ کو بھی "كَبِيرٌ" کہا گیا ہے۔

(دیکھو دلیل نمبر ۳، ص: ۲۴۹، ۲۵۸)

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

○ اللہ تعالیٰ "عَلِيمٌ" (جاننے والا، علم والا) ہے۔ اور قرآن مجید میں
(۱) حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام (۲) فرعون کے جادوگروں
(۳) بڑے علم والے وغیرہ کو بھی "عَلِيمٌ" کہا گیا ہے۔

(دیکھو۔ لیل نمبر ۵ ص: ۲۵۸/۲۶۱)

○ اللہ تعالیٰ "سَمِيعٌ" (سننے والا) اور "بَصِيرٌ" (دیکھنے والا) ہے۔ لیکن
قرآن مجید میں مطلق انسان کو "سَمِيعٌ" اور "بَصِيرٌ" کہا گیا ہے۔
علاوہ ازیں چند ان امور کی طرف بھی توجہ فرمائیں کہ ہم روز مرہ کی بول چال میں اللہ
تعالیٰ کی چند صفات کا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں پر بلا جھجک اطلاق کرتے ہیں۔ مثلاً:۔ (بہت
بی اختصاراً)

○ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو "مولانا" کہا گیا ہے۔

(۱) "أَنْتَ مَوْلَانَا" (پارہ: ۳، سورۃ البقرہ، آیت: ۲۸۶) ترجمہ:۔ "تو
ہمارا مولیٰ ہے" (کنز الایمان)

(۲) "هُوَ مَوْلَانَا" (پارہ: ۱۰، سورۃ التوبہ، آیت: ۵۱) ترجمہ:۔ "وہ
ہمارا مولیٰ ہے۔" (کنز الایمان)

(۳) "ذَٰلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا" (پارہ: ۳۶، سورۃ محمد، آیت: ۱۱،
ترجمہ:۔ "یہ اس لیے کہ مسلمان کا مولیٰ اللہ ہے۔" (کنز الایمان)

لیکن ہم مسجد کے امام کو، مدرسے کے معلم کو، وعظ کہنے والے مقرر کو، نکاح پڑھانے
والے کو، اور دیگر اشخاص کو "مولانا" یا "مولانا صاحب" کہہ کر پکارتے ہیں یا مخاطب کرتے
ہیں۔

○ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام "حَيٌّ" (زندہ) بھی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ:۔

(۱) "هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" (پارہ: ۳، سورۃ البقرہ، آیت: ۲۵۵)

(پارہ: ۳، سورۃ ال عمران، آیت: ۳) ترجمہ:۔ "وہ آپ زندہ اور اوروں

کا قائم رکھنے والا" (کنز الایمان)

marfat.com

لیکن ہر جاندار جو موت کی آغوش میں نہیں گیا اور بقید حیات ہے اس کو ہم "حی" بمعنی زندہ کہتے ہیں۔ مثلاً میں زندہ ہوں، میرے دادا بزرگوار زندہ ہیں، بکری کا بچہ زندہ ہے وغیرہ وغیرہ۔

ایسی تو متعدد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ جیسے کہ (۱) اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام "حَلِيمٌ" ہے لیکن مریضوں اور بیماروں کا علاج کرنے والے کو ہم "حَلِيمٌ" یا "حَلِيمٌ صَاحِبٌ" کہتے ہیں۔ (۲) اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام "حَاكِمٌ" (حکومت والا) ہے لیکن ہم حکومت کے صاحب اقتدار افسران اور عہدہ داروں کو "حَاكِمٌ" کہتے ہیں۔ (۳) اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام "مُصَوِّرٌ" (صورت دینے والا) ہے لیکن جانداروں کی تصویریں بنانے والے چیمٹر (Painter) کو ہم "مُصَوِّرٌ" کہتے ہیں۔ (۴) اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام "نَاصِرٌ" (مددگار) ہے لیکن کسی کی مدد کرنے والے اخی اور فیاض شخص کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص غریبوں کا "نَاصِرٌ" یعنی مددگار ہے۔ وغیرہ وغیرہ

جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان صفات عالیہ سے مخلوق کی طرف منسوب کرتے ہیں تب ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ مخلوق کی یہ صفات عطائی اور مجازی ہیں۔ حقیقت و مجاز اور ذاتی و عطائی کا فرق کرنے سے تمام اعتراضات و اختلافات رفع و نفع ہو جاتے ہیں۔ حقیقی اور مجازی کا فرق کر دینے سے شرک کے خطرے کی گھنٹی نہیں بجے گی۔ تو اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم غیب کا جاننے والا ہے۔ اس کا علم ذاتی ہے اور اللہ نے اپنے محبوب اعظم کو اپنی عطا و کرم سے غیب کا علم عطا فرمایا ہے اور اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی عطائے خاص سے "عَالِمٌ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ" بنایا ہے تو اس میں شرک کا الارم (Alarm) اور گھنٹا بجا کر شور و غوغا کیوں مچایا جاتا ہے؟

الحی نسل! اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مثلاً: علیم، کریم، مؤمن، رؤف، رحیم، سمیع، بصیر، مولانا، حی، حکیم، حاکم، ناصر وغیرہ کا مخلوق پر مجازاً اطلاق کرنے کے باوجود بھی خالق اور مخلوق میں کسی قسم کی مساوات و ہمسری ثابت نہیں کی جاسکتی۔ ہمسری ثابت کرنا تو دُر کی بات ہے ایسا گمان بھی نہیں کیا جاسکتا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا بندوں پر قرآن میں ہی اطلاق

کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمسری اور برابری کا کوئی امکان بلکہ امکان کا بلکہ سا شاہجہ بھی نہیں بلکہ حقیقت و مجاز اور ذاتی و عطائی کے فرق کے تحت ان آیات کی مناسب تاویل کی جائے گی۔ اسی طرح قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ آیت کے ظاہری اور لفظی معنی کی بنا پر برگزبرگز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمسری اور برابری کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔

حضور اقدس ﷺ کیسے بشر تھے؟

حضور اقدس، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یعنی اے محبوب! تم فرماؤ کہ ظاہری صورت بشری میں یعنی انسان ہونے میں یعنی آدمی ہونے میں تو میں تم جیسا ہوں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم کے حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے ضروری فرمایا ہے کہ "أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" لیکن یہ ارشاد کیوں فرمایا، کن کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اس کی کیا وجہ تھی، ان تمام باتوں کی تفصیلی بحث ہم نے اوراق سابقہ میں کر دی ہے۔ اوراق سابقہ میں ہم نے ایک ضروری وضاحت یہ بھی کر دی ہے کہ یہ آیت کریمہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ جس کے ظاہری لفظی معنوں کو سند یا دلیل نہیں بنا سکتے بلکہ اس کی مناسب تاویل و توضیح کہنی ضروری ہے۔ لیکن دو پر حاضر کے

martat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

مناقضین بارگاہ رسالت میں بے ادبی اور گستاخی کرنے کے لیے ہمیشہ آیاتِ مشابہات ہی پیش کرتے ہیں اور ان کے من گھڑت معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں اور یہاں تک لکھ دیتے ہیں کہ:-

”انبیاء و اولیاء و امام زادے، پیر و شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور عاجز بندے ہیں۔“

حوالہ:- ”تقویۃ الایمان“ مصنف:- مولوی اسماعیل دہلوی،

ناشر:- دارالسلفیہ، ممبئی ص: ۹۹

مناقضین زمانہ کے امام اول فی الہند ملا اسماعیل دہلوی نے تمام انبیاء و اولیاء یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام مقرب بندوں کے لیے یہ کہا کہ ”وہ سب انسان ہیں اور عاجز بندے ہیں۔“ اس جملے کو غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ تمام انبیائے کرام میں حضور اقدس، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی شمار ہو گیا۔ امام المناقضین کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”بشر“ یعنی انسان کہنے کا کتنا شوق ہے کہ صرف ”انسان ہیں“ نہیں لکھا بلکہ ”انسان ہی ہیں۔“ کا جملہ لکھا ہے۔ لفظ انسان کے ساتھ ”ہی“ کی اضافت کر کے انسان ہونے کی بات کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ بلکہ آگے چل کر بے ادبی کی جرأت و بے باکی کرتے ہوئے یہاں تک لکھ دیا کہ ”اور عاجز بندے ہیں“ اب ہم لفظ ”عاجز“ کے معنی لغت میں دیکھیں:-

○ عاجز:- ○ کمزور ○ بے بس ○ مجبور ○ لاچار ○ جس سے کچھ نہ ہو سکے

○ مغلوب ○ تھکا ماندہ ○ غریب ○ مسکین ○ مایوس ○ ناامید

(حوالہ:- (۱) فیروز اللغات، ص ۸۸۷ (۲) لغات کشوری، ص ۲۸۹ (۳) کریم

اللغات، ص: ۱۰۷)

لفظ ”عاجز“ کے جتنے بھی معنی ہم نے لغات سے نقل کیے ہیں، ان میں سے کسی ایک معنی میں بھی لفظ ”عاجز“ کو انبیائے کرام اور سید الانبیاء والمرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام

marfat.com

کے لیے استعمال کرنا گستاخی اور بے ادبی ہے۔ دورِ حاضر کے منافقین تو ہیں و تنقیص انبیائے کرام کے معاملے میں زمانہ ماضی کے منافقین پر بھی سبقت لے گئے ہیں۔ زمانہ ماضی کے صرف منافقین ہی نہیں بلکہ زمانہ ماضی کے کفار، مشرکین، یہود و نصاریٰ سے بھی دو قدم آگے بڑھ گئے، ہیں۔ کیونکہ زمانہ ماضی کے گستاخ انبیائے کرام کو صرف ”بشر“ کہتے تھے جب کہ دورِ حاضر کے گستاخ ”عاجز بشر“ کہتے ہیں۔

اب ہم ناظرین کرام کی خدمت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ”بشریت“ کے تعلق سے ایمان افروز بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک بشکل بشری دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے بشر ہونے کا اہل سنت و جماعت کو قطعاً انکار نہیں۔ لیکن آپ کی ذات مقدسہ کوئی معمولی بشریت کی متحمل نہ تھی بلکہ آپ ”نوری بشر“ تھے۔ آپ کی نوری بشریت پر نوع بنی آدم کو ناز ہے۔ آپ کی پیدائش نور سے ہے بلکہ آپ سراپا نور ہیں لیکن آپ کا بنی نوع انسان پر احسان و کرم ہے کہ آپ نے اپنے نورانی وجود کو بشریت کے جامے میں مستور فرما کر بشکل انسان ہمارے درمیان جلوہ فرما ہو کر اپنے نورانی جلوے سے بہرہ مند فرمایا۔

”حضور اقدس کی نورانی بشریت“

حضور اقدس رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشکل انسان دنیا میں ضرور تشریف لائے لیکن آپ ہمارے تمہارے جیسے بشر نہ تھے بلکہ آپ ایسے نوری بشر تھے کہ آپ جیسا بشر اللہ نے دوسرا کوئی نہ پیدا فرمایا ہے اور نہ پیدا فرمائے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب اکرم کے نور کو پیدا فرمایا ہے ذیل میں ایک طویل حدیث پیش خدمت ہے:-

حدیث:-

امام اجل سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ اور امام بخاری و امام مسلم کے استاذ الاستاذ یعنی حافظ الاحادیث، احد الاعلام، محدث عبدالرزاق ابوبکر بن ہمام نے اپنی مشہور کتاب ”معتمد“ میں حضرت سیدنا و ابن سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ:-

”قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي أَخْبَرْنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ الْأَشْيَاءِ ۝ قَالَ يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ ۝ فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورَ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ۝ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَ لَا قَلَمٌ وَ لَا جَنَّةٌ وَ لَا نَارٌ وَ لَا مَلَكٌ وَ لَا سَمَاءٌ وَ لَا أَرْضٌ وَ لَا جَنِّيٌّ وَ لَا إِنْسِيٌّ ۝ فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَمَ ذَلِكَ النُّورَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ ۝ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ الْقَلَمَ وَ مِنَ الثَّانِي اللُّوحَ وَ مِنَ الثَّلَاثِ الْعَرْشَ ۝ ثُمَّ قَسَمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ ۝ فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَ مِنَ الثَّانِي الْكُرْسِيَّ وَ مِنَ الثَّلَاثِ بَاقِيَ الْمَلَائِكَةِ ۝ ثُمَّ قَسَمَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ ۝ فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ السَّمَوَاتِ وَ مِنَ الثَّانِي الْأَرْضِيْنَ وَ مِنَ الثَّلَاثِ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ ۝ ثُمَّ قَسَمَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ ۝ (الخ الحديث بطوله)

ترجمہ:- حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ! میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے بتا دیجئے کہ سب سے

پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی؟ ۝ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرمایا اے جابر! بے شک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے

تیرے نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔

۝ وہ نور قدرت الہیہ سے جمال رحمت نے جاہ اور رو کر تار ہا۔ اس وقت لوح

و قلم، جنت و دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن، آدمی کچھ
نہ تھا۔ ۵ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمانا چاہا تو اس نور کے چار
حصے کیے۔ ۵ پہلے حصے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش
بنایا۔ ۵ پھر چوتھے حصے کے چار حصے کیے۔ ۵ پہلے حصے سے عرش کو
اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی اٹھانے والے فرشتے اور
تیسرے سے باقی تمام فرشتے بنائے۔ ۵ پھر اس چوتھے حصے کے چار
حصے بنائے ۵ پہلے حصے سے آسمانوں کو، دوسرے سے زمینیں اور تیسرے
سے جنت و دوزخ بنائے۔ ۵ پھر اس چوتھے حصے کے چار حصے کیے =
آخر حدیث تک =

(بحوالہ:- "صِلَاكُ الصَّفَاءِ فِي نُوْرِ الْمُصْطَفَى" مصنف:- اعلیٰ حضرت، امام

احمد رضا محدث بریلوی، ص: ۳)

اس حدیث کو مندرجہ ذیل جلیل القدر ائمہ ملت اسلامیہ نے اپنی معرکہ الآراء اور
معتد و مستند کتب میں صحیح اسناد سے روایت کیا ہے اور اس حدیث کو حسن، صالح، مقبول اور
معتد کہا ہے۔

(۱) امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی شافعی نے "دَلَائِلُ النَّبُوَّةِ" میں،

(۲) امام احمد بن محمد المصری القسطلانی نے "مَوَاهِبُ اللَّذْنِيَّةِ عَلَي
الشُّعَائِلِ الْمُحَمَّدِيَّةِ" میں،

(۳) امام ابوالفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی مکی نے "أَفْضَلُ
الْقُرَى" میں،

(۴) امام علامہ الشمس محمد بن عبدالباقی زرقانی مالکی نے "شَرْحُ مَوَاهِبِ
اللَّذْنِيَّةِ" میں،

(۵) علامہ حسین بن محمد بن حسن دریا بکری نے "الْخَمِيسُ فِي احوال

النفس، نَفْسُكَ

- (۶) علامہ فاسی نے "مَطَالِعُ الْمَسْرَاتِ" میں،
(۷) شیخ محقق، شاہ محمد عبدالحق بن سیف الدین بن سعد اللہ ترک محدث دہلوی نے "مَدَارِجُ النَّبُوَّةِ" میں،

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اور پوری کائنات کو حضور اقدس کے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اس حدیث کا ما حاصل یہ ہے کہ جب لوح، قلم، جنت، دوزخ، فرشتے، چاند، سورج، زمین، آسمان، جنات، انسان، وغیرہ یعنی کائنات کی کسی بھی چیز کا وجود نہ تھا اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی تھی۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ جس کا صاف اور صریح مطلب یہ ہے کہ نور مصطفیٰ کی تخلیق نور الہی سے ہوئی۔ اللہ کی ذات کے سوا جب کچھ نہ تھا اور خالق کائنات، رب تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اپنے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اس لیے پیدا فرمایا کہ:-

حدیث قدسی:- اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ:-

"كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ"

ترجمہ:- "میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پس مجھے اس امر سے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا"

اس حدیث قدسی کی تشریح میں علامہ امام عبدالکریم الجلی لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تب یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی کہ حادث ہونے کی وجہ سے مخلوق میرے ذات کی معرفت حاصل نہ کر سکے گی، لہذا:-

"فَخَلَقَ مِنْ تِلْكَ الْمَحَبَّةِ حَبِيبًا اخْتَصَّهُ التَّجَلِّيَاتِ ذَاتِهِ
وَخَلَقَ الْعَالَمَ مِنْ ذَلِكَ الْحَبِيبِ لِنَصْحِ النِّسْبَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
خَلْقِهِ فَخَرَفَهُ بِطَبَقِ النُّبُوَّةِ"

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ترجمہ:- ”تو اس نے اس محبت سے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کو اپنی ذات کی تجلیوں کے فیض سے مخصوص فرمایا۔ اور اپنے حبیب سے تمام عالم کو پیدا فرمایا تاکہ وہ حبیب خالق اور مخلوق کے درمیان نسبت (واسطہ) بن جائے اور مخلوق اس حبیب کی نسبت سے اپنے خالق کی معرفت پاسکے۔“

(حوالہ:- جواہر البحار، (عربی) جلد: ۱، ص: ۲۳۹)

حدیث:- امام ابوالحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس، جان عالم و رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

”أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِيَّ وَمِنْ نُورِيَّ خَلَقَ جَمِيعَ الْكَائِنَاتِ“

ترجمہ:- ”سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، پھر میرے نور سے تمام کائنات کو پیدا کیا۔“ (حوالہ:- بیان المسائل والنہی (عربی) ص: ۲۳)

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا گیا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے پوری کائنات پیدا کی گئی ہے۔ مندرجہ بالا حدیث نبوی کے قبل جو حدیث شریف پیش کی گئی ہے اس حدیث نبوی شریف میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا کیا چیزیں اور کس طرح پیدا کی گئی ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اس کو ایک نظر میں سمجھنے کے لیے ذیل کا نقشہ ملاحظہ فرمائیں:-

نورِ مصطفیٰ

(۳)	(۳)	(۲)	(۱)
چار حصے کے لیے	عرش	لوح	قلم

(۳)	(۳)	(۲)	(۱)
چار حصے کے لیے	باقی تمام فرشتے	قلم اٹھانے والے فرشتے	عرش اٹھانے والے فرشتے

(۳)	(۳)	(۲)	(۱)
چار حصے کے لیے	جنت اور دوزخ	تمام زمینیں	تمام آسمان

آخری حدیث تک یعنی اسی ترتیب سے ہر چوتھے حصہ کے چار حصے ہوتے گئے اور پوری کائنات وجود میں آئی

اس نقشے سے قارئین کرام اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ نورِ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کس طرح حصص ہوئے اور کون سے حصہ سے کیا چیز بنی، الغرض لوح و قلم، عرش و کرسی، جنت و دوزخ، زمین و آسمان، چاند، سورج و ستارے، فرشتے اور تمام مخلوق حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نورِ پاک کے صفت میں ظہور میں آئی ہے۔ بقول:-

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ہے انہیں کے نور سے سب عیاں، ہے انہیں کے جلوہ میں سب نہاں
بنے صبح تابش مہر سے ، رہے پیش مہر یہ جاں نہیں
(از:- امام عشق و محبت، حضرت رضا بریلوی)
کائنات کی کوئی بھی شئی اپنے وجود میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیلی اور
خیراتی ہونے سے خارج نہیں۔ پوری کائنات حضور اقدس کے نور کے طفیل و بدولت ہی وجود
میں آئی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہی
کائنات کو وجود بخشا ہے۔

حدیث قدسی:- حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور
اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا
ارشاد گرامی ہے کہ ”مجھے اپنی ذات کی قسم! میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اسی
لیے پیدا کیا ہے کہ:-

لَا عَرَفَهُمْ كِرَامَتِكَ وَمَنْزِلَتِكَ عِنْدِي وَلَوْ لَاكَ مَا خَلَقْتُ
الْأَنْبِيَا

ترجمہ:- ”تا کہ انہیں آپ کی اس عظمت و کرامت اور منزلت و مرتبت سے آگاہ
کروں جو میرے یہاں ہے، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا پیدا نہ
کرتا۔“ (حوالہ:- ”خصائص کبریٰ فی المعجزات خیر الوری“ (عربی)
از:- علامہ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی، جلد: ۱، ص: ۱۹۳)

حدیث قدسی:- حضرت علامہ علی بن سلطان محمد ہروی قاری مکی حنفی المعروف بہ ملا علی
قاری اپنی کتاب میں ”دیلمی“ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرئیل آئے اور انہوں نے اللہ

تعالیٰ کا یہ پیغام لایا کہ:-
marfat.com

”يَا مُحَمَّدُ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ النَّارَ

وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ عَسَاكِرَ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا

ترجمہ:- ”اے حبیب! اگر آپ نہ ہوتے تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا اور اگر آپ نہ

ہوتے تو میں دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔“ اور ابن عساکر کی روایت میں ہے

کہ ”اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔“

(حوالہ:- موضوعات کبیر، ص: ۵۹)

مذکورہ روایت سے ملتی جلتی بہت سی روایت ملت اسلامیہ کے جلیل القدر ائمہ اور علماء کی

کتب معتمدہ و معتبرہ مثلاً ① علامہ زرقانی کی ”شرح المواهب اللدنیہ“ ② قاضی

ابوالفضل عیاض بن عمرو اندلسی کی ”الشفاء بتعريف حقوق المصطفى“ ③ امام جلال

الدین سیوطی کی ”الخصائص الكبرى“ ④ شاہ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ”مدارج

النبوة“ ⑤ شرح الشفاء ⑥ مکتوبات امام ربانی ⑦ عرائس البیان ⑧ جواہر البحار وغیرہ کتب

میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک وارد ہے کہ:-

”لَوْلَاكَ لَمَّا أَظْهَرْتُ الرَّبُّوْبِيَّةَ“ یعنی ”اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونے

کا اظہار نہ کرتا۔“

المختصر! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس نور ہی کی پوری کائنات میں ضیا

باریاں ہیں۔ کائنات کی ہر شئی اپنے وجود اور بقا کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

نور کی مرہون منت اور احسان مند ہے۔ اگر حضور اقدس کی ذات گرامی نہ ہوتی تو کائنات کا

وجود تک نہ ہوتا۔ بقول:-

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے

(از:- امام عشق محبت، حضرت رضا بریلوی)

◎ قرآن میں حضورِ اقدس کو ”نور“ کہا گیا ہے:-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ آیت کریمہ کے ظاہری لفظی معنی سے غلط استدلال کر کے حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں میں غیرت کا ذرہ برابر بھی شائبہ ہوتا تو وہ برگرز ایسے ناشائستہ جملے کبھی نہ کہتے کیوں کہ ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کا خطاب کفار اور مشرکین سے ہے کیونکہ کفار و مشرکین کا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ وہ ہر زمانہ میں اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے آئے ہیں۔ لہذا ان سے ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ فرمایا گیا ہے۔ کسی بھی نبی کے کسی بھی مؤمن امتی نے اپنے نبی کو ”بشر“ نہیں کہا لہذا مؤمنین سے یہ فرمایا گیا ہے کہ:-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

(پارہ: ۶، سورۃ المائدہ، آیت: ۱۵)

ترجمہ:- ”بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب“
(کنز الایمان)

تفسیر:- اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین محمد بن عمر بن عمر رازی شافعی المتوفی ۶۰۶ھ فرماتے ہیں کہ:-

”الْمُرَادُ بِالنُّورِ مُحَمَّدٌ وَبِالْكِتَابِ قُرْآنٌ“ یعنی ”اس آیت میں نور سے مراد حضرت محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہیں اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔“ (تفسیر کبیر، پارہ: ۶، ص: ۱۸۹)

اس آیت کے علاوہ دیگر آیت میں بھی حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”نور“ فرمایا گیا ہے۔ اہل ذوق حضرات مندرجہ ذیل آیات کی تفسیر کی طرف رجوع فرمائیں:-

◎ پارہ: ۱۰، رکوع: ۱۱، سورۃ التوبہ، آیت: ۳۲،

◎ پارہ: ۱۸، رکوع: ۱۱، سورۃ النور، آیت: ۳۵،

◎ پارہ: ۲۲، رکوع: ۳، سورۃ الاحزاب، آیت: ۳۵ و ۳۶،

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

قرآن میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی واضح دلیل

ہیں:-

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ -

(پارہ: ۶، سورۃ المائدہ، آیت: ۱۷۳)

ترجمہ:- ”اے لوگو! بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی۔“
(کنز الایمان)

تفسیر:- واضح دلیل سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، جن کے صدق پر ان کے معجزے شاہد ہیں اور منکرین کی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں۔“ (تفسیر حزان العرقان، ص: ۱۹۰)

اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بُرْهَانٍ رَبِّیَّ - یعنی ”اللہ کی دلیل“ کے معزز، مقرب اور معظم لقب سے ملقب فرمایا گیا ہے۔ اسی ایک لقب سے ہی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اختیارات و کمالات ثابت ہو جاتے ہیں۔ اہل دانش اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ دلیل کا قوی یعنی مضبوط ہونا یا دلیل کا ضعیف یعنی کمزور ہونے کا انحصار دلیل والے یعنی صاحب دلیل پر ہے یعنی دلیل کرنے والا جتنا قوی ہوگا، اتنی ہی قوی اس کی دلیل ہوگی اور اگر صاحب دلیل ضعیف ہے تو اس کی دلیل کمزور یعنی عاجز ہوگی۔ مشرکوں کے طور پر بڑے اور نامور وکیل کی دلیلیں قوی اور مضبوط ہوتی ہیں۔ اس وکیل کے وسیع علم کی بناء پر اس کی دلیلیں اتنی زیادہ قوی اور مضبوط ہوتی ہیں کہ مقدمہ میں کامیابی اور فتح حاصل ہوتی ہے جب کہ چھوٹے اور ناتجربہ کار تو تعلیم یافتہ کی دلیلیں کمزور اور عاجز ہوتی ہیں۔ بڑے و تجربہ کار بہت مشق و کسب کے متعلق کوئی نہیں کہتا کہ اس کی دلیل کمزور یعنی عاجز ہیں۔ بلا مثال

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وتمثيل جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم "اللہ کی دلیل" ہیں، تو اللہ کی دلیل کبھی بھی "عاجز" نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے۔ وہ "عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ہے۔ اس کی قدرت اور طاقت سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کی قدرت اور طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا قادر مطلق ہے کہ اس کے ایک حکم "کن" سے یعنی "ہو جا" فرمانے سے ہی "فَتَكُونُ" یعنی "سب کچھ ہو جاتا ہے۔" اس رب الغلیمین، رب قدیر، قادر مطلق، قوی، بَاسِطٌ، حَافِظٌ، حَافِظٌ، نَاصِرٌ، نَصِيرٌ، حَيٌّ، قَيُّومٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ، أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور مالک و مولیٰ کی دلیل کبھی "عاجز" ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی سر پھر اثر اللہ کی دلیل کو "عاجز" کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین اور گستاخی کرتا ہے۔ کیونکہ دلیل کو "عاجز" کہنا صاحب دلیل کو عجز سے معیوب کرنے کے مترادف ہے۔

امام منافقین زمانہ مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی رسوائے زمانہ اور مہلک ایمان کتاب "تقویۃ الایمان" کے صفحہ نمبر ۹۹ پر تمام انبیائے کرام کو معاذ اللہ "عاجز" لکھ کر انبیائے کرام کی شان و عظمت گھٹانے کے زعم اور مخالطہ میں درحقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں گستاخی و بے ادبی کر ڈالی ہے۔ کیونکہ تمام انبیائے کرام میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آگے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں "بِذَٰلِكَ نَدْعُكُم" یعنی "تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل" فرمایا ہے۔ رب کی دلیل اس کی قدرت کے مطابق قوی ہی ہوتی ہے۔ رب قوی کی دلیل کبھی بھی کمزور اور عاجز نہیں ہو سکتی۔ رب کو عاجز کہنے والا درپردہ اور فی الحقیقت رب قوی و قدیر کو ہی عاجز کہہ رہا ہے۔ بلکہ رب تعالیٰ کو ناراض کر کے اس کے قہر، عذاب، غضب اور عتاب کا مستحق بن رہا ہے۔ منافقین زمانہ کا یہ دتیرہ اور طریقہ ہمیشہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کی شان گھٹانا اور ان کی شان گھٹا کر یہ اطمینان باطل حاصل کرنا کہ ہم نے اللہ کی شان بہت بڑھا دی اور اللہ کی تعریف کرنے کا حق ادا کر دیا لیکن یہ سب ان کا خوابی خیال ہے۔ جو ہباء منشوراً کی طرح کافور ہو جائے گا۔ کیونکہ کسی کی دلیل کو عاجز کہنا اور پھر یہ گمان کرنا کہ میں

نے اس کی تعریف کر دی نری بے وقوفی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ماہر اور کہنے مشق تجربہ کار وکیل سے یہ کہے کہ جناب میں آپ کے علم اور آپ کی ذہانت کا قائل ہوں لیکن آپ کی دلیلیں کمزور و عاجز ہیں، تو کیا اس نے اس ماہر وکیل کی تعریف کی ہے یا توہین؟ اس شخص کی زبانی ایسی بات سن کر وہ وکیل اس سے خوش ہوگا؟ بلا مثال و تمثیل اگر کوئی منافق اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور لامحدود طاقت کا تو اعتراف کرتا ہو مگر اللہ کی ”دلیل“ کو کمزور اور عاجز کہتا ہو تو اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کی ہے یا توہین و گستاخی و بے ادبی کی ہے؟ کیا ایسے منافق کی ایسی بات سے اللہ تعالیٰ کبھی خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں بلکہ اس پر اپنا غضب و عتاب نازل فرمائے گا۔

ایک اہم نکتہ کی جانب بھی قارئین کرام کی توجہ ملتفت کرنا بھی ضروری ہے کہ سورۃ المائدہ کی مذکورہ آیت کی ابتداء میں ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ کا کلمہ وارد ہے یعنی ”اے لوگو!“ یعنی یہ خطاب تمام انسانوں سے ہے۔ تمام انسانوں میں مؤمن، کافر، مشرک، مرتد، منافق، یہود، نصاریٰ وغیرہ سب آگئے۔ یہ خطاب صرف مؤمنین سے نہیں بلکہ تمام نوع بنی آدم سے ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ”عَلِيمٌ بِمَا فِي الصُّدُورِ“ ہے۔ سینہ میں چھپی ہوئی مخفی بات سے بھی وہ خبردار ہے اور قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کے ہر ہر حال سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات پہلے سے تھی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ بظاہر کلمہ پڑھنے والے اور حقیقت میں گستاخ ایسے منافق بھی پیدا ہوں گے، جو میرے حبیب اکرم اور محبوب اعظم کو ”عاجز بندہ“ کہیں گے۔ میرے محبوب اعظم کو کوئی بھی ایمان والا ”عاجز“ بندہ نہیں کہے گا بلکہ کفار، منافقین و مشرکین ہی ایسے توہین آمیز کلمات کہہ کر اور لکھ کر گستاخی کریں گے لہذا اس آیت کی ابتداء میں ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ کے بجائے ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ کا جملہ ارشاد فرمایا گیا ہے اور تمام لوگوں کو آگاہ اور متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ“ یعنی ”اے لوگو! بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی“ (کنز الایمان)۔ اس آیت سے یہ مفہوم بھی اخذ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”عاجز“ بندہ کہنے والوں کی سرکش زبانوں پر لگام ڈالی گئی ہے کہ اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”عاجز بندہ“ کہنے والو! ہوش میں آؤ،

وہ اللہ کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر و قادرِ قوی ہے، اور اللہ کی دلیل بھی قوی ہے، اللہ کی دلیل کبھی بھی کمزور و عاجز نہیں ہو سکتی۔ خلیہ و ازیں اس آیت میں "ذَلِيلٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ" نہیں فرمایا گیا بلکہ "بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ" فرمایا گیا ہے۔ "دلیل" اور "برہان" کے معنی میں بہت فرق ہے۔

دلیل = اس حجت (Argument) اور وضاحت (Explanation) کو کہتے ہیں جو قبول بھی کی جاسکتی ہے اور رد بھی کی جاسکتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں زیادہ مضبوط حجت پیش کر کے اس کو توڑا جاسکتا ہے اور یہ حجت ہمیشہ غالب نہیں ہوتی بلکہ کبھی مغلوب بھی ہو جاتی ہے۔

برہان = اس حجت کو کہتے ہیں جو ایسی واضح ہوتی ہے کہ اس کو رد نہیں کیا جاسکتا اور اس کو قبول کرنے میں کسی قسم کا تامل نہیں ہوتا۔ اس دلیل کے مقابلہ میں اس سے زیادہ قوی حجت پیش نہیں کی جاسکتی کیونکہ یہ حجت ایسی قوی اور مضبوط ہوتی ہے کہ اس میں شک و شبہ نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ غالب رہتی ہے اور مغلوب نہیں ہوتی۔

دلیل اور برہان کے فرق کے تعلق سے بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے لیکن ہم نے صرف اشارہ کر دیا ہے تاکہ اہل ذوق حضرات تحقیق و توضیح کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر آبِ حیات و جواہر برآمد کرنے پر مستعد ہوں۔

"إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" آیت کے ظاہری لفظی معنی کو سند اور دلیل بنا کر حضورِ اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا "بشر" کہنے کا شور و غوغا مچانے والے منافقین کو قرآن مجید کی آیت "قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ" اور "قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ" کیوں نظر نہیں آتی؟ کیا ان آیات کے دیکھنے سے ان کی بصارت زائل ہو گئی ہے؟ یا پھر جذبہ بغض و عناد کی وجہ سے قصدِ اعدا و گردانی و انحراف کرتے ہیں؟

”ایک اہم سوال؟“

ہوسکتا ہے کہ کسی صاحب کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا وجہ ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن میں کبھی نور کہا گیا ہے، کبھی اللہ کی برہان کہا گیا ہے، اور کبھی یہ حکم بھی فرمایا گیا ہے کہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی ذات گرامی کی اس طرح مختلف کیفیتیں کیوں بیان فرمائی گئی ہیں؟ واقعی یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس کا جواب دوچار سطور میں دے کر سمجھایا نہیں جاسکتا بلکہ تفصیل درکار ہے۔ تسلی بخش جواب حاصل کرنے کے لیے اوراق آئندہ کا مطالعہ کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ امید ہے کہ اس سوال کا شافی و روانی و کافی جواب حاصل ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ و حبیبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

”حضور اقدس ﷺ کی تین حیثیتیں“

مندرجہ بالا جو سوال پیدا ہوا ہے، اس کا جواب عرض خدمت ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے

کہ:-

- ⊗ قرآن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی ”بشر“ فرمایا گیا ہے۔
- ⊗ قرآن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”اللہ کی دلیل“ اور ”نور“ بھی فرمایا گیا ہے۔

اسی طرح احادیث کریمہ میں بھی یہ صورت درپیش ہوتی ہے کہ:-

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بعض احادیث میں حضور اقدس نے اپنی شانِ عبودیت اور بشریت کا اظہار فرمایا ہے۔

بعض احادیث میں اپنی شانِ نورانیت ظاہر کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا ہے کہ میں اللہ کے نور سے ہوں۔

بعض احادیث میں اپنی شانِ محبوبیت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔

بعض احادیث میں اپنی شانِ تقرب الی اللہ کی نشاندہی میں فرمایا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔

بعض احادیث میں بارگاہِ الہی میں اپنی وجاہت و منزلت کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا ہے کہ "أَنَا أَكْرَمُ وُلْدِ آدَمَ عِنْدَ رَبِّي" یعنی "میرا مقام میرے رب کے ہاں تمام اولادِ آدم سے بڑھ کر ہے۔"

(ترذی عن ابن عباس جلد: دوم، ص: ۲۰۱)

پہلے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صورت و شکل انسانی میں دنیا میں تشریف لائے ہیں لیکن آپ کے ذاتِ اقدس صرف بشری کیفیت تک ہی محدود نہ تھی بلکہ آپ بظاہر انسان یعنی بشر ہونے کے باوجود تین کیفیتوں کے حامل تھے وہ کیفیات کیا تھیں؟

علامہ، شیخ اجل، حضرت اسمعیل حقی برہسوی (المتوفی ۱۱۳۷ھ) علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی شہرہ آفاق اور مشہور و معروف "تفسیر روح البیان" میں پارہ: ۱۶، سورہ مریم، آیت: "كَهَيْعَصَ" کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تین کیفیتیں ہیں (۱) صورت بشری (۲) صورت حقی اور (۳) صورت ملکی۔ حضور اقدس کی ان تینوں حیثیتوں کو بالتفصیل سمجھنے کی کوشش کریں:-

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

◎ حضورِ اقدس کی کیفیت صورت بشری :-

یعنی انسانوں جیسی کیفیت۔ یعنی ظاہری شکل و صورت میں آپ انسان ہی ہیں اور عام انسانوں کے ساتھ مل جل کر انسانی زندگی بسر فرماتے ہیں۔ مثلاً مذہبی زندگی، سماجی زندگی، خاندانی زندگی، ازدواجی زندگی، تجارتی زندگی، مجاہدانہ زندگی، عابدانہ زندگی، وغیرہ، یعنی آپ نے تمام نوعِ انسانی پر احسان و کرم فرماتے ہوئے انسانوں کے درمیان بشکل انسان جلوہ فرما رہے اور انسانیت کے اہم تقاضوں کو پورا فرمایا یعنی آپ نے انسانوں کو انسانی اخلاق حسنہ اور اللہ کی توحید کی صرف زبانی تعلیم ہی پر اکتفا نہ فرمایا بلکہ اس پر عمل فرما کر انسانوں کو صحیح معنی میں انسان بننے کی عملی تعلیم فرمائی۔ آپ نے مکہ معظمہ میں اپنے بچپن اور جوانی کے ایام اس نفاست اور پاکیزگی سے بسر فرمائے کہ آپ کے دامنِ عصمت پر کبھی بھی کسی امر مکروہ کی گرد تک نہ آئی۔ آپ نے رشتہ داروں کی معیت میں خاندانی اور گھریلو زندگی بسر فرمائی۔ نکاح فرمایا اور ازدواجی زندگی کو حسنِ اسلوب کی زینت بخشی، آپ نے تجارت فرمائی اور تاجروں کو دیانت داری اور ایمانداری کا درس دیا، آپ نے ظالموں کے ظلم و ستم بھی برداشت فرمائے اور مظلوموں کو صبر و تحمل کا دامن تھامے رہنے کی نصیحت و تلقین فرمائی، دشمنوں کی ستم ظریفیوں کا خند و پیشانی نیک سلوک سے جواب دیا، اپنے وطن مالوف کو خیر باد کہہ کر مدینہ طیبہ ہجرت بھی فرمائی اور وقت کے تقاضا کے پیش نظر "إِعْلَاءُ كَلِمَةِ الْحَقِّ" اور "انساؤ ظلم و ستم" کے لیے جہاد بھی فرمایا لیکن کسی بھی حالت میں حق و ہدایت کی راہ استوا سے عدول و انحراف نہ کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی توحید اور عبادت میں منہمک رہے اور انسانوں کو یہ درس دیا کہ سچا انسان وہ ہے جو اللہ کا بندہ اور پرستار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی آپ نے اتم و اکمل طریقہ سے بجا آوری فرمائی اور لوگوں کو عملی تعلیم دی۔ آپ نے اپنے نوری وجود کو بشری قالب میں مستور فرما کر، دونوں جہاں کے شہنشاہ اور کائنات کے مالک ہونے کے باوجود سادہ اور بے ریا زندگی کو پسند فرمایا۔ عیش و آرام اور تکلفات کو ترک فرما کر سادگی کو اختیار فرمایا۔ یہ سب آپ نے لوگوں پر احسان فرماتے ہوئے اور رویہٴ انسانیت کو جلا بخشنے اور کرم فرماتے ہوئے کیا اور

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

لوگوں کو یہ حقیقت باور کرا دی کہ میں خدا کا محبوب ہونے کے باوجود انسانوں کے بیچ میں شانِ عبدیت سے متمکن ہو کر اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا ہوں تاکہ تم بھی میرے نقش قدم پر چل کر توحیدِ خاص پر استقلال و استحکام سے گامزن ہو کر اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت بنا لو۔

آپ کی ہدایت و نصیحت لوگوں پر اثر پذیر تب ہی ہو سکتی تھی کہ خود آپ اس پر عمل فرمائیں۔ اگر آپ نے انسانی شکل و صورت اختیار نہ فرمائی ہوتی اور بصورت فرشتہ بذات خود ان اعمالِ حسنہ پر عمل فرماتے تو لوگ یہی کہتے کہ یہ عمل ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ لہذا آپ نے انسانی شکل و صورت اختیار فرما کر تمام اعمالِ حسنہ پر عمل کر کے لوگوں کو یقین دلادیا کہ یہ سب کام انسانوں کو کرنے کے ہیں اور انسانوں سے یہ کام ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بصورتِ انسان دیکھ کر لوگوں کو ایک اُنس بھی ہوا اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے مشکل نظر آنے والے کام آسان محسوس ہوئے۔ انسان کی دنیوی حیات **مَزْرِعَةُ الْأَخْرَةِ** یعنی آخرت کی کھیتی ہے اور یہاں جتنا بویا جائے گا اسی کے مطابق آخرت میں پھل و ثمرات حاصل ہوں گے۔ اس حقیقت کو لوگوں کو عملی طور پر سمجھانے اور اس حقیقت کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے آپ نے بھی کثرت سے عبادت و ریاضت فرمائی۔ شب بھر نماز میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ طولِ قیام کی وجہ سے آپ کے پائے اقدس میں ورم آجاتا۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے کہ آپ کے قدم ہائے مبارک میں شگاف پڑ جاتے۔ الغرض آپ نے شانِ عبدیت کے تمام تقاضوں کی تکمیل اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں حد درجہ سعی فرمائی۔

علاوہ ازیں گاہے گاہے عظیم معجزات کا بھی ظہور فرمایا۔ آپ کے عظیم الشان معجزات دیکھ کر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم آپ کو تعظیم کا سجدہ کریں، تب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہود و نصاریٰ کی طرح قومِ مسلم بھی اپنے نبی کی محبت میں غلو کرتے ہوئے حدودِ شرع کو متجاوز نہ کر جائیں۔ اس دوران دہلیشی کو ملحوظ فرماتے ہوئے اور ہمیشہ کے لیے شرک کی نجاست کا سدباب فرمانے کے لیے آپ نے

ہوں لہذا یہ کہو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول“ (بخاری و مسلم عن عمر بن الخطاب)
آپ نے لوگوں کو اس بات کا احساس دلادیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب اعظم اور بے شمار
فہائل و خصائص و کمالات کا حامل ہونے کے باوجود خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ اور رسول ہوں
بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ”آنا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ اسی طرح آپ نے لوگوں کے سامنے
اپنی صورت بشری اور شانِ عبدیت کا اظہار فرمایا۔

◎ حضورِ اقدس کی کیفیتِ صوری تھی :-

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا تقرب اور بارگاہِ الہی میں آپ کی قدر و منزلت اور
عزت و وضاحت اور مرتبہ و رسائی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ہی اپنی زبانِ اقدس سے
ارشاد فرمایا کہ :- ”مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ“ یعنی ”جس نے مجھ کو دیکھا، اس نے حق کو
دیکھا۔“ (الحدیث)

اس حدیث کے ضمن میں امام اجل، علامہ بیہانی قدس سرہ اپنی معرکہ الآراء و شہرہ آفاق
تصنیف، کتاب مستطاب ”حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْعَالَمِينَ فِي مُعْجَزَاتِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ“
میں امام احمد بن ادریس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کہ ”مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ
تَعَالَى“ یعنی ”جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا“ اس طرح آپ نے آئینہ حق نما
کی حیثیت سے اپنے چہرہ پر نور میں ”اللہ کے نور“ کا جلوہ دکھایا اور اپنی صورتِ حقی ظاہر فرمائی۔

◎ ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ ”كَمْ يَغْرِفُنِي حَقِيقَةً غَيْرُ
رَبِّي“ یعنی مجھے میرے رب کے سوا کسی نے بھی حقیقتاً نہیں پہچانا۔“

ایسی کئی روایات کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں کہ جن سے حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی صورتِ حقی کی کیفیت نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے۔

◎ حضورِ اقدس کی کیفیتِ صورتِ ملکی :-

یعنی وہ کیفیت کہ ہاں تک کہ نچنے کا پلاکڑا کو کیفیت سے واقف ہونے کی بلکہ اس

کیفیت کی حقیقت کا تصور کرنے کی بھی کسی انسان یا فرشتے میں استطاعت و صلاحیت نہیں۔
کیونکہ اس ملکی صورت کی کیفیت کے متعلق خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:-

”لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْبَعُ فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ“

ترجمہ:- ”میرے لیے اپنے رب سے قربت حاصل کرنے کے کچھ اوقات ہیں۔ ان

اوقات میں مجھے میرے رب سے جو نزدیکی حاصل ہوتی ہے اس مقام پر

نہ کوئی فرشتہ مقرب پہنچ سکتا ہے نہ کوئی نبی مرسل پہنچ سکتا ہے۔“

یعنی اس اعلیٰ مقام و منزل تک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کسی کی بھی

رسائی نہیں ہے۔ صرف حضور اقدس کی ہی اس مقام رفیع تک رسائی ہے۔ یہ ہے صورت ملکی کی

کیفیت جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہر فرمائی۔

قارئین کرام! غور فرمائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت بشری کے علاوہ

دیگر دو کیفیات یعنی (۱) صورت حقیقی اور (۲) صورت ملکی بھی ہیں۔ یہ دونوں کیفیتیں صورت

بشری سے کئی درجہ افضل و اعلیٰ اور ارفع و بالا ہیں۔ بلکہ یہ دونوں کیفیات صرف حضور اقدس صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ”خصائص کبریٰ“ میں سے ہیں۔ حضور اقدس کے سوا مخلوق میں سے کسی کو

بھی یہ دونوں کیفیتیں میسر نہیں ہوئیں، نہ ہو سکتی ہیں بلکہ ان حیثیات کی صحیح کیفیات سے بھی ہم

واقف نہیں ہو سکتے لہذا ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبہ

عظمتی اور مرتبہ عالی کو کما حقہ سمجھنے سے ہم عاجز و قاصر ہیں۔ حضور اقدس کے مرتبہ و مرتبہ کو،

حضور اقدس کو اپنے فضل و کرم اور نعم و عطا کی بے شمار نعمتوں اور عظمتوں سے نوازانے والا خدا ہی

جانتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت حقیقی اور صورت ملکی تو بہت دور کی بات

ہے بلکہ حضور اقدس کی صورت بشری کو بھی ہم کما حقہ نہیں پہچان سکتے اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ

تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی بے مثل و مثال نوری بشریت عطا

فرمائی ہے کہ:-

تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا

marfat.com

(از: - امام عشق و محبت، حضرت رضا بریلوی)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ”بشریت“ کیسی ”نوری بشریت“ تھی اور آپ صغیر ہستی میں بلکہ پوری کائنات میں کیسے بے مثل نوری بشریت تھے۔ وہ دیکھیں:-

”حضور اقدس کی تابناک اور درخشاں نوری بشریت اور صورت بشری کے اعجاز و کمالات“

بے شک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانی شکل و صورت میں دنیا میں تشریف لائے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی صورت خاصہ سے نوازا ہے کہ ولادت باسعادت سے لے کر دنیا سے ظاہری پرورد فرمانے تک کی آپ کی ظاہری حیات طیبہ کی ہر ہر ادا اور جسم اقدس کی نوری خصوصیت میں آپ کا مثل و ثانی نہیں۔ امام جلیل، قاضی ابوالفضل عیاض بن عمرو اندلسی اپنی کتاب ”الشیفاء بتغریف حقوق المصطفیٰ“ میں فرماتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حسن اور صورت میں بھی سب سے اعلیٰ و بالا کیا ہے اور حقیقت روح و باطن کے اعتبار سے تو تمام انبیائے کرام بشری اوصاف سے اعلیٰ ہیں۔“

شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ ”اشیعة اللغات شرح مشکوٰۃ“ میں فرماتے ہیں کہ ”انبیائے کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے اجسام و ظواہر چونکہ ظاہراً حد بشریت پر متمکن ہوتے ہیں لیکن ان کے ارواح و بواطن بشریت سے بالا اور طاء اعلیٰ سے متعلق ہیں۔“

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ ”تفسیر فتح العزیز المعروف بہ تفسیر عزیزئی“ میں سورۃ الواضحیٰ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”آپ کی بشریت کا وجود اصلاً نہ رہے اور غلبہ انوار حق آپ پر علی الدوام (ہمیشہ) حاصل ہو۔ بہر حال آپ کی ذات

marfat.com

ایسے ایمان افروز اقوال زریں سے ائمہ طہارت اسلامیہ کی کتابیں لبریز ہیں۔ یہاں اتنی گنجائش نہیں کہ ان تمام اقوال کو یہاں نقل کریں۔ اہل ذوق و شوق حضرات مندرجہ ذیل کتب کی طرف رجوع فرمائیں:-

(۱) "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"

از:- قاضی ابوالفضل عیاش بن عمرو اندلسی (المتوفی ۵۴۳ھ)

(۲) "شواهد النبوة"

از:- علامہ نورالدین عبدالرحمن جامی بن احمد محمد ایرانی (المتوفی ۸۹۸ھ)

(۳) "نسيم الریاض شرح شفاء قاضی عیاش"

از:- علامہ امام احمد شہاب الدین خفاجی المصری (المتوفی ۱۰۶۹ھ)

(۴) "الخصائص الكبرى في المعجزات خیر الوری"

از:- خاتم الحقاظ، امام جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی (المتوفی ۹۱۱ھ)

(۵) "مناهل الصفاي تخريج احاديث الشفا"

از:- خاتم الحقاظ، امام جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی (المتوفی ۹۱۱ھ)

(۶) "خلاصة الوفاي اخبار دار المصطفى"

از:- امام علامہ نورالدین عبداللہ سمہوری شافعی مدنی بن علی بن احمد سمہوری (المتوفی ۹۱۱ھ)

(۷) "وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى"

از:- امام علامہ نورالدین عبداللہ سمہوری شافعی مدنی بن علی بن احمد سمہوری (المتوفی ۹۱۱ھ)

(۸) "شفة السقام في زيارة خير الانام"

از:- محقق، بقی الدین ابوالحسن علی بن عبدالکافی سبکی

(۹) "موجبك الرحمة وعتائم المغفرة"

از:- امام ابوالعباس احمد بن ابی بکر روادیمنی صوفی

(۱۰) "شرح شفاء امام قاضی عیاش"

از:- علی بن سلطانی محمد ہروی کلبی المعروف ملا علی قاری (م ۱۰۱۴ھ)

(۱۱) قُوَّةُ الْقُلُوبِ فِي مَعَامَلَةِ الْمُخْبُوبِ

از: - امام عارف باللہ سیدی ابوطالب کی (المتوفی ۵۳۸۶ھ)

(۱۲) الْمَوَاهِبُ اللَّذِيَّةُ عَلَى الشَّمَائِلِ الْمُحَمَّدِيَّةِ

از: - امام اجل احمد بن محمد خطیب مصری قسطلانی (المتوفی ۵۹۲۳ھ)

(۱۳) مَدَارِجُ النَّبُوَّةِ

از: - شیخ ثقف شاد محمد عبدالحق بن سیف الدین ترک محدث دہلوی (المتوفی ۱۰۵۲ھ)

(۱۴) تَجَلَّى الْيَقِينِ بِأَنَّ نَبِيَّنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ

از: - امام اہلسنت، مجدد دین و ملت امام احمد رضا بن نقی علی بن رضا علی محدث بریلوی (المتوفی ۱۳۳۰ھ)

(۱۵) الْأَمْنُ وَالْعَلَىٰ لِنَاعِي الْمُصْطَفَىٰ بِدَافِعِ الْبَلَاءِ

از: - امام اہلسنت، مجدد دین و ملت امام احمد رضا بن نقی علی بن رضا علی محدث بریلوی (المتوفی ۱۳۳۰ھ)

اب ہم مندرجہ بالا کتب سے چند اقتباسات قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوری بشریت کو ہم الگ الگ عنوان سے بیان کریں گے۔ امید ہے کہ قارئین کرام ایمان کی تازگی محسوس کریں گے۔ (انشاء اللہ وجیبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

”بے مثل ولادت باسعادت“

ویسے تو اس دنیا میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہرز چہ خانہ نو وارد اطفال سے بھرا ہوتا ہے۔ آج تک کروڑوں، اربوں اور کھربوں کی تعداد میں انسان پیدا ہوئے ہیں اور انسانوں کی آمد کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بے شمار پیدا ہونے والے انسانوں میں کچھ افراد اپنے زمانہ کے منفرد شخص کی حیثیت سے شہرت یافتہ بھی ہوئے۔

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

حیثیت سے مشہور و معروف ہوا۔ بے شمار ماہرین فن، ادیب، تاجر، حکماء، موجد، فائق، مقتدا، رہبر و غیرہ پیدا ہوئے لیکن تولد ہونے کے معاملہ میں سب کا حال یکساں تھا۔ بلکہ بعض ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بین الاقوامی پیمانہ پر شہرت پائی لیکن ان کی پیدائش، ایام طفلی و غیرہ کے حالات سے ان کے اعزاء و اقربا بھی ناواقف تھے۔ الحاصل! ہر پیدا ہونے والا عام انسان حسب معمول طریقہ پر ہی پیدا ہوتا ہے لیکن اس کائنات میں ایک ذات گرامی ایسی ہے کہ جن کی ولادت اقدس ایسی باسعادت، نفیس، پاکیزہ، صاف، ستھری، مقدس اور پر نور ہوئی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہ کبھی پیش کی گئی ہے اور نہ کی جائے گی۔ کیونکہ اس مقدس ذات گرامی کی تخلیق خالق کائنات کا عظیم شاہکار اور نوع انسانی پر احسان عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا بے مثل و مثال بنایا ہے کہ اس محبوب اکرم کی زندگی کا ہر پہلو اور جسم اقدس کا ہر عضو مقدس بھی بے مثل و مثال ہے، حتیٰ کہ ان کی ولادت باسعادت بھی ایسی بے مثل و مثال ہوئی ہے کہ ایسی ولادت نہ کبھی کسی کی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔

● ولادت کے وقت ہی معجزات کا ظہور:-

حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے وقت میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر تھی۔ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس کا نور چراغ کی روشنی کو مات کر رہا ہے۔ اس رات میں نے چند علامات کا مشاہدہ کیا:-

اول:- جب حضور اقدس پیدا ہوئے تو آپ نے فوراً سجدہ فرمایا۔

دوم:- جب آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا تو بزبان فصیح فرمایا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ

سوم:- پورے گھر کو میں نے آپ کے چہرہ انور کے نور سے روشن اور منور پایا۔

چہارم:- میں نے چاہا کہ آپ کو نہلاؤں لیکن ہاتھ بھی نے آواز دی کہ اے

صغیر! اپنے آپ کو زحمت مت دے کیونکہ ہم نے اپنے محبوب کو پاک
وصاف پیدا کیا ہے۔

پھر میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ مولد لڑکی ہے لڑکا؟ تو میں نے دیکھا کہ
حضور اقدس ختنہ کیے ہوئے اور ناف بریدہ پیدا ہوئے ہیں۔

(حوالہ: شواہد النبوة اردو ترجمہ، ص: ۶۸)

ابن عدی اور ابن عساکر نے یہ روایت حضرت عطاء بن عباس رضی اللہ
تعالیٰ عنہ روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناف بریدہ اور
مختون (ختنہ) کیے ہوئے پیدا ہوئے۔

(حوالہ: خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۳۶)

◎ جسم اقدس کے ساتھ کسی قسم کی آلودگی نہ تھی:-

حضرت عبداللہ بن عمر نے عمر بن عاصم کلابی سے روایت کی کہ ہم سے ہمام بن یحییٰ نے
اسحاق بن عبداللہ سے بیان کیا کہ حضور اقدس کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
فرماتی ہیں کہ:

”حضور اقدس پاک و صاف پیدا ہوئے یعنی آپ کے جسم اقدس کے ساتھ کسی
بھی قسم کی کوئی آلودگی نہ تھی اور جب آپ کو زمین پر رکھا تو آپ اپنے دست
مبارک کے سہارے سے بیٹھ گئے۔“

(حوالہ: خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۴۰)

◎ ولادت کے وقت نور کی بارش:-

(۱) ”بیہقی، طبرانی، ابونعیم اور ابن عساکر نے حضرت عثمان بن ابی العاص، رضی اللہ
تعالیٰ عنہم سے روایت کی کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمنہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھی جس رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پائی اور محسوس کرتی تھی، گویا ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ ستارے میرے اوپر گر پڑیں گے۔ پھر جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وضع حمل کیا تو ایک نور برآمد ہوا، جس کی وجہ سے برشے روشن ہو گئی۔ یہاں تک کہ نور کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔“

(حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۱۸)

(۲) ”ابو نعیم نے بہ روایت عطاء بن یسار اُم سلمہ سے اررا انہوں نے حضرت آمنہ سے روایت کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ شب ولادت جب مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے ایک نور دیکھا جس سے محلات شام (یعنی ملک شام کے محل) روشن ہو گئے۔ اور میں نے ان کو دیکھ لیا“

(حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۱۹)

◎ ولادت کے وقت ہی پوری دنیا حضور کے قبضے میں :-

امام احمد و ابو یعلیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ:-

لَمَّا خَرَجَ مِنِّي بَطْنِي فَنظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا أَنَا بِهِ سَاجِدًا ثُمَّ رَأَيْتُ سَحَابَةً بَيْضَاءَ قَدْ أَقْبَلَتْ مِنِّي السَّمَاءَ حَتَّى غَشِيَتْهُ فَغُيِّبَ عَنِّي وَجْهِي ثُمَّ تَجَلَّتْ فَإِذَا أَنَا بِهِ مُدْرَجٌ فِي ثَوْبِ صُوفٍ أَيْصُ وَتَحْتَهُ حَرِيرَةٌ خَضْرَاءُ وَقَدْ قَبِضَ عَلَيَّ ثَلَاثَةَ مَفَاتِيحَ مِنَ اللَّوْلُؤِ الرَّطْبِ وَإِذَا قَائِلٌ يَقُولُ قَبِضْ مُحَمَّدٌ عَلَيَّ مَفَاتِيحَ النُّصْرَةِ وَمَفَاتِيحَ الرِّيحِ وَمَفَاتِيحَ النَّبُوءَةِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ سَحَابَةٌ أُخْرَى غَشِيَتْهُ فَغُيِّبَ عَنِّي ثُمَّ تَجَلَّتْ فَإِذَا أَنَا بِهِ قَدْ قَبِضَ عَلَيَّ حَرِيرَةٌ خَضْرَاءُ مُطَوَّيَةٌ وَإِذَا قَائِلٌ يَقُولُ بَخَّ بَخَّ قَبِضْ مُحَمَّدٌ عَلَيَّ الذَّنِيَا كُلَّهَا لَمْ يَبْنُ

martat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

خَلَقَ مِنْ أَهْلِهَا إِلَّا دَخَلَ فِي قَبْضَتِهِ

ترجمہ:- ”جب حضور میرے شکم سے پیدا ہوئے میں نے دیکھا کہ سجدے میں پڑے ہیں۔ پھر ایک سفید بادل نے آسمان سے آ کر حضور کو ڈھانپ لیا کہ حضور میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ پھر وہ بادل بنا تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور ایک اونی سفید کپڑے میں لپیٹے ہیں اور سبز ریشمی بچھوتا بچھا ہے۔ اور گوبر شاداب کی تین کنجیاں حضور کی مٹھی میں ہیں اور ایک کنبے والا کہہ رہا ہے کہ نصرت کی کنجیاں، نفع کی کنجیاں، نبوت کی کنجیاں، سب پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبضہ فرمایا۔ پھر اور ایک بادل نے آ کر حضور کو ڈھانپ دیا کہ میری نگاہ سے چھپ گئے۔ پھر جب روشن ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سبز ریشم کا کپڑا لپٹا ہوا حضور کی مٹھی میں ہے اور کوئی منادی پکار رہا ہے کہ واہ! واہ! ساری دنیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مٹھی میں آئی۔ زمین و آسمان کی کوئی مخلوق ایسی نہ رہی جو ان کے قبضے میں نہ آئی ہو۔“

(حوالہ:- الامن والعلی، از:- امام احمد رضا ص: ۵۸)

یہ حدیث خاتم الحفاظ، صاحب تفسیر جلالین، امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور اور مستند کتاب ”الخصائص الكبرى فی المعجزات خیر السوری“ اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۲۳ تا ۱۲۵، پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔

○ خانہ کعبہ سجدہ میں جھکا:-

”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں تھا۔ سحری کے وقت جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش شریف کی گھڑی آئی تو خانہ کعبہ میں جڑے ہوئے تمام بت اوندھے ہو کر گر پڑے اور

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کعبہ نے مقام ابراہیم یعنی جس سمت مولد النبی (جس گھر میں حضور کی ولادت ہوئی) تھا اس طرف سجدہ کیا، میں حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ دفعتاً دیوار کعبہ سے یہ آواز آئی کہ:-

وَلَدَ الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارُ الَّذِي تَهْلِكُ بِيَدِهِ الْكُفَّارُ

وَيَتَطَهَّرُونَ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ وَيَأْمُرُ بِعِبَادَةِ الْمَلِكِ الْعَلَامِ

ترجمہ:- ”مصطفیٰ مختار کی ولادت ہوگئی آپ کے ہاتھوں کفر ہلاک ہوگا، اور خانہ

کعبہ کو بتوں کی پرستش سے پاک کریں گے اور صرف مالک حقیقی کی

عبادت کا حکم فرمائیں گے۔“ (حوالہ:- حاشیہ سیرۃ النبی ص: ۴۲)

”خانہ کعبہ کا یہ حال تھا کہ بہت دنوں تک لوگوں نے اس سے یہ آواز سنی کہ اب اللہ

تعالیٰ میرے نور کو لوٹا دے گا اور جوق در جوق توحید پرست میری زیارت کو آئیں

گے۔ اب اللہ تعالیٰ مجھ کو جاہلیت (شرک کے کاموں) سے پاک کر دے گا۔ اے

عزیز! تو ہلاک ہو گیا اور تین شب و روز بیت اللہ کا زلزلہ نہڑکا۔“

(خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۳۲)

گہوارے میں سے جدھر انگلی کا اشارہ فرماتے ادھر چاند ٹھک جاتا:

امام بیہقی ابن عساک، صابونی اور خطیب نے حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ

تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے عرض کیا:-

”یا رسول اللہ! آپ کی نبوت کی نشانیوں نے مجھے آپ کے دین میں داخل

ہونے کی دعوت دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے میں چاند سے باتیں

کرتے تھے اور اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے تو جس طرف اشارہ

فرماتے چاند ادھر ٹھک جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا

میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے سے

بہناتا تھا اور میں عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتے وقت چاند کی تسبیح کرنے کی آواز

سن رہا ہوں۔“

marfat.com

(حوالہ:- (۱) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۳۷

(۲) شواہد النبوة، اردو ترجمہ، ص: ۸۰

چاند جھک جاتا جدھر اُنکی اٹھاتے مہنڈ میں
کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا

(از:- امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی)

آپ مختون پیدا ہوئے:-

طبرانی نے اوسط اور ابو نعیم و خطیب اور ابن عساکر نے بروایت مختلف
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

”میرے رب کا مجھ پر جو انعام و اکرام ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں
ختنہ شدہ پیدا ہوا اور میرے ستر کو کسی نے نہ دیکھا“

(خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۳۶)

اس روایت کو ایضاً نے ”المختارہ“ میں بیان کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔

(۲) ابن عدی اور ابن عساکر نے بروایت عطا حضرت عبد اللہ بن عباس رضی

اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناف بریدہ

اور مختون پیدا ہوئے۔“ (خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۳۶)

عالم شیر خواری میں گہوراہ میں کلام فرماتا:-

امام ابوالفضل، احمد بن علی بن حجر مکی عسقلانی المتوفی ۸۵۳ھ قدس سرہ اپنی مشہور اور

معتبر کتاب "ارشاد الساری شرح صحیح بخاری" میں فرماتے ہیں کہ "یہ واقعہ اقدس میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوائل عمر میں پیدا ہوتے ہی کلام فرمایا۔ اور ابن سبغ نے "الخصائص" میں بیان کیا کہ آپ کے گہوارے (ہنڈولے) کو فرشتے بلاتے تھے اور سب سے پہلا کلام جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ "اللہ اکبر کبیراً و الحمد لله کثیراً" (خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد ۱، ص ۱۳۷)

◎ بے مثل ایام طفلی :-

"حضور اقدس کی رضائی والدہ محترمہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ◎ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو ماہ کے ہوئے تو لڑکوں کی طرح سرین کے بل چلنے لگے ◎ جب پانچ ماہ کی عمر شریف ہوئی تو اٹھ کر پاؤں پر آہستہ آہستہ چلنے لگے ◎ چھ ماہ کی عمر شریف ہوئی تو تیز تیز چلنے لگے ◎ عمر شریف جب سات ماہ کی ہوئی تو آپ جدھر چاہتے خوشی سے اکیلے چلے جاتے ◎ جب نو ماہ کی عمر شریف ہوئی تو فصیح زبان میں گفتگو فرمانے لگے اور جب عمر شریف دس ماہ کی ہوئی تو لڑکوں کے ساتھ تیر اندازی فرمانے لگے۔" صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (شواہد النبوة، اردو ترجمہ، ص: ۵۷)

"جسم اقدس کا سایہ نہ تھا"

حضرات صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین عظام، ائمہ دین، علمائے کرام، اور ملت اسلامیہ کے تمام اولیاء، صلحاء، صوفیاء وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس بات میں بلا کسی شک و تردد متفق ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے "نوری جسم پاک" کا سایہ نہیں

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

تھا۔ سورج کی دھوپ میں، چاند کی چاندی میں اور چراغ کی روشنی میں بھی آپ کے جسم اقدس کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ آج بھی اپنی آن، بان اور شان و شوکت کے ساتھ روشن و ظاہر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے شریف (بال مبارک) آج بھی دنیا میں کئی مقامات میں بطور تبرک محفوظ ہیں۔ الحمد للہ! ہمارے شہر پور بند میں بھی اکثر مساجد میں ”موئے مبارک“ کی عظیم نعمت جلوہ گر ہے۔ ان مقدس موئے مبارک کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ حقیر فقیر سر اپنا تقصیر راقم الحروف احقر العباد کو اتنی مرتبہ موئے مبارک کو غسل دینے کی خدمت کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور فقیر کا ذاتی تجربہ ہے کہ تیز لائٹ (Powerful Light) میں بالکل صاف اور سفید کاغذ پر بھی موئے اقدس کا سایہ نہیں پڑتا بلکہ خوردبین (Microscop) سے دیکھنے پر بھی موئے اقدس کا سایہ نظر نہیں آتا۔ ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر ہر شہر میں موئے مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ جو صاحب مشاہدہ کرنا چاہیں وہ آج بھی اس عظیم معجزہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ غلا وہ ازیں ہمارے حیات النبی آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک آج بھی حیات ہیں کیونکہ موئے مبارک زندہ آدمی کے بال کی طرح بڑھتے ہیں بلکہ عجیب خصوصیت سے بڑھتے ہیں یعنی موئے مبارک میں شاخیں پھوٹی ہیں جس طرح درخت کی ڈالی میں شاخیں پھوٹ کر اوپر ادھر برست پھیلتی ہیں اسی طرح سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے اقدس میں ہر طرف شاخیں پھیلتی ہیں اور بڑھ کر لمبی ہوتی ہیں۔ اس عظیم معجزہ کا آج بھی عینی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

خیر! جسم اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، اس عظیم معجزہ کے ثبوت میں کثرت سے احادیث صحیحہ اور ائمہ دین کے اقوال صادقہ موجود ہیں۔ جن کا علی الاستیعاب بیان کرنا یہاں ممکن نہیں۔ لہذا چند احادیث کریمہ اور چند اقوال ائمہ قارئین کرام کی ضیافت طبع کی خاطر پیش خدمت ہیں۔

احادیث کریمہ:-

(۱) امام الحدیث، امام محمد بن حنفیہ ترمذی (المتوفی ۲۷۹ھ) رضی اللہ تعالیٰ عنہ

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کی معرکہ الآراء اور معتقد کتاب "نوادیر الاحول" میں حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ:-

عَنْ ذُكْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُرَى لَهُ ظِلٌّ فِي شَمْسٍ وَلَا قَتَرٌ

ترجمہ:- "حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک جسم کا سایہ نہ سورج کی

دھوپ میں نظر آتا نہ چاندنی میں"

(حوالہ:- (۱) المواہب اللدنیہ علی الشماہل الحمدیہ، عربی، مطبوعہ مصر، ص: ۳۰،

(۲) الزرقانی علی المواہب، عربی، مطبوعہ مصر، جلد: ۲، ص: ۲۲۰)

(۲) حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک اور حافظ ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرمایا ہے کہ:-

لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ وَ لَمْ يَقُمْ مَعَ شَمْسٍ إِلَّا غَلَبَ ضَوْؤُهُ ضَوْءَهَا وَ لَمْ يَمَعَ السِّرَاجُ إِلَّا غَلَبَ ضَوْؤُهُ

ترجمہ:- "رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ نہ سورج کی دھوپ میں نہ چراغ کی روشنی میں اور آپ کا نور سورج اور چراغ کے نور پر غالب رہتا تھا۔"

حوالہ:- (۱) خصائص کبریٰ، عربی، جلد: ۱، ص: ۶۸،

(۲) جمع الوسائل، از امام علی بن سلطان محمد بروی قاری مکی المعروف بہ ملا

علی قاری، جلد: ۱، ص: ۲۰۶)

(۳) امام اجل، علامہ ابوالبرکات عبد اللہ بن محمود نسفی (المتوفی ۷۱۷ھ) قدس

سرفہ "مدارک التنزیل" میں امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان بن

marfat.com

قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا أَوْقَعَ ظِلُّكَ عَلَى الْأَرْضِ لِئَلَّا يَضَعَ إِنْسَانٌ قَدَمَهُ عَلَى ذَلِكَ الظِّلِّ

ترجمہ:- "حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر پڑنے نہیں دیا تاکہ اس پر کسی انسان کا قدم نہ پڑ جائے۔"

حوالہ:- (۱) تفسیر مدارک التنزیل، جلد: ۲، ص: ۱۰۳،

(۲) مدارج النبوة فارسی رکن ۲، ص: ۱۰۰،

(۳) مدارج النبوة، اردو ترجمہ جلد: ۲، ص: ۱۶۱

(۴) حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے کہ:-

قَالَ ابْنُ سَبْعٍ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ظِلُّهُ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ لِأَنَّهُ كَانَ نُورًا إِذَا مَشَى فِي الشَّمْسِ أَوْ الْقَمَرِ لَا يَنْظُرُ لَهُ ظِلٌّ

ترجمہ:- "ابن سبع نے فرمایا کہ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ کیوں کہ آپ نور تھے۔ سورج اور چاند کی روشنی میں جب چلتے تھے تب آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔" (خصائص کبریٰ، عربی، جلد: ۱، ص: ۶۸)

اقوال انمہ دین:-

(۱) امام الزماں، علامہ قاضی عیاض بن عمرو اندلسی (المتوفی ۵۴۳ھ) قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

وَمَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّهُ لَا ظِلَّ لِشَخِصِهِ فِي شَمْسٍ وَلَا فِي قَمَرٍ لِأَنَّهُ كَانَ نُورًا وَأَنَّ الذُّبَابَ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى جَسَدِهِ وَلَا يُتَابَهُ

ترجمہ:- "جس کا سایہ نہ تھا نہ سورج اور نہ چاند کی روشنی میں جب چلتے تھے تب آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔"

تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نور تھے اور آپ کے جسم اطہر اور کپڑوں پر کبھی نہیں بیٹھتی تھی۔“

(الثناء بتریف حقوق المصطفیٰ، عربی، جلد: ۱، ص: ۳۳۲)

(۲) امام جلیل، حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی مصری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

مَا جُرِّبِظِلَّ أَحْمَدَ أُخْرِيَالِ ۝ فِي الْأَرْضِ كَرَامَةٌ كَمَا قَدْ
قَالُوا ۝ هَذَا عَجَبٌ وَلَمْ يَه مِنْ عَجَبٍ ۝ وَالنَّاسُ بِظِلِّهِ
جَمِيْعًا قَالُوا ۝ وَقَدْ نَطَقَ الْقُرْآنُ بِأَنَّهُ النُّورُ الْمُبِينُ
وَكُوْنَهُ بَشَرًا لَا يُنَافِيهِ

ترجمہ:- ”غظمت اور احترام کے باعث حضور اقدس کے جسم کا سایہ دامن زمین پر رگڑتا ہوا نہیں چلتا تھا، حالانکہ حضور کے سایہ کرام میں تمام انسان چین کی نیند سوتے ہیں، اس سے حیرت انگیز بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس امر کی شہادت قرآن دیتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”نور مبین“ ہیں اور حضور کا سایہ نہ ہوتا بشر ہونے کے منافی نہیں“

(نسیم الریاض، مطبوعہ مصر، جلد: ۳، ص: ۳۱۹)

(۳) امام اجل، شیخ شہاب الدین، ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی، مکی، ہاشمی (المتوفی ۸۵۳ھ قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

وَمَا يُؤَيِّدُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارَ نُورًا إِنَّهُ
إِذَا مَشَى فِي الشَّمْسِ أَوْ الْقَمَرِ لَا يُظْهِرُ لَهُ ظِلٌّ لِأَنَّهُ لَا يُظْهِرُ
إِلَّا لِكَشْفٍ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَلَصَ اللَّهُ تَعَالَى
مِنْ سَائِرِ الْكَثَافَاتِ الْجِسْمَانِيَّةِ وَيَسْرَهُ نُورًا صَرَفًا لَا
يُظْهِرُ لَهُ ظِلٌّ أَصْلًا

ترجمہ:- ”اس بات کی تائید میں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر اپا نور تھے،

www.marfat.com

میں نظر آتا تھا اور نہ چاندنی میں نظر آتا تھا۔ اس لیے کہ سایہ کثیف (وبیز۔
Thick) چیز کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس کو تمام جسمانی
کثافتوں سے پاک کر کے انہیں ”نور محض“ بنا دیا تھا اور اتنی بے حضور
اقدس کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔“ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

(افضل القریٰ، ص: ۷۲)

(۴) شیخ محقق، شاہ محمد عبدالحق بن سیف الدین بن سعد اللہ ترک محدث و بلوچی
المتوفی ۱۰۵۲ھ قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

”وَنَبُوذُ أَنْ حَضَرَتْ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسًا يَتِيه
نَه دَرُ آفْتَابُ وَ نَه دَرُ قَمَرُ“

ترجمہ:- ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ آفتاب کی روشنی میں پڑتا تھا
اور نہ ماہتاب کی چاندنی میں پڑتا تھا۔“

(مدارج النبوة، فارسی، جلد: ۱، ص: ۲۱)

(۵) امام ربانی، مجدد الف ثانی، حضرت شیخ فاروق نقشبندی سرہندی علیہ الرحمۃ
والرضوان اپنے مکتوبات عالیہ جلیلہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

”أَوْ رَأَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَائِيه نَبُوذُ دَرُ عَالَمُ
شَهَادَتِ سَائِيه هَرُ شَخْصِ لَطِيْفِ تَرَأْسَتِ چُونِ لَطِيْفِ تَرُ
أَزْوَمِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرُ عَالَمُ نَبَأَشُدُ أَوْ رَأَى
سَائِيه چِه صُورَتِ دَارِدُ“

ترجمہ:- ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ
عالم شہادت میں ہر چیز (شخص) سے اس کا سایہ لطیف (باریک و
Delicate) ہوتا ہے اور حضور اقدس کی شان یہ ہے کہ کائنات میں ان
سے زیادہ لطیف کوئی چیز ہے ہی نہیں پھر حضور کا سایہ کیوں کر پڑتا۔“

(مکتبہ طبعیہ، لکھنؤ، ص: ۱۳۷)

◎ علاوہ ازیں ملت اسلامیہ کے جلیل القدر ائمہ و علماء مثلاً ◎ امام اجل علامہ احمد بن محمد خطیب المصری القسطلانی ◎ امام جلیل محقق تقی الملک والدین علامہ ابو الحسن علی سبکی ◎ علامہ امام علی بن سلطان محمد ہروی قاری مکی حنفی المعروف بہ ملا علی قاری المتوفی ۱۰۱۳ھ ◎ علامہ حسین بن محمد دیار بکری ◎ علامہ جلال الدین رومی ◎ علامہ سلیمان جمل ◎ استاذ العلماء ومرجع علماء، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ◎ امام راغب اصفہانی وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اپنی معتبر و مستند کتب معتمدہ میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا۔

◎ ”نورانی چہرہ کا بے مثل جمال“

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی نورانیت اور روشنی کے سامنے آفتاب اور ماہتاب کی روشنی کی بھی کوئی بساط نہیں۔ بلکہ چاند اور سورج میں جو روشنی اور تابانی ہے وہ بھی اسی رخ انور کی روشنی کا صدقہ اور طفیل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور بالخصوص آپ کا نورانی چہرہ اقدس جمال الہی کا مظہر اور ”ید اللہ“ کا سب سے بہترین شاہکار تخلیق ہے۔ چند حوالے پیش خدمت ہیں:-

◎ جس نے آپ کو دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا:-

حضور اقدس، باعث ایجاد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ”مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ“ یعنی ”جس نے مجھ کو دیکھا، اس نے حق کو دیکھا“۔ امام جلیل، علامہ نبہانی نے حضرت احمد بن اوریس کے حوالے سے مذکور حدیث شریف میں وارد لفظ ”الحق“ کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ تَعَالَى“ یعنی ”جس نے مجھ کو دیکھا، اس نے حق تبارک و تعالیٰ کو دیکھا“

◎ چہرہ اقدس انوار الہیہ کا آئینہ marfat

عاشق رسول، حجۃ اللہ فی البند، محقق علی الاطلاق، حضرت شیخ، شاد عبدالحق محدث دہلوی
قدس سرہ چہرہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جمال الہی کا آئینہ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ
”أَمَّا وَجْهَةٌ شَرِيفٌ وَعِنْدَ صَلَّى إِلَهٍ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرْآةٌ جَمَالِ الْإِلَهِيِّ وَ
مَظْهَرِ أَنْوَارِ نَامَتْنَاهِي وَعِنْدَ بُؤَدٍ لَيْعَنِي” آپ کا چہرہ انوار الہیہ کا آئینہ اور لامتناہی انوار
الہیہ کا مظہر ہے“ (مدارج النبوة، فارسی، جلد: ۱، ص: ۳)

● چہرہ انور سورج کی طرح درخشاں :-

حضرت امّ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی
زیارت کے بعد اپنے تاثرات کا ان الفاظ میں اظہار فرماتی ہیں کہ ”رَأَيْتُ رَجُلًا ظَاهِرَ
الْوَضَاءَةِ مَتَّبِعُ الْوَجْهِ“ یعنی ”آپ کے چہرہ اقدس میں سورج کی سی تابانی اور درخشندگی
تھی۔“ (سبیل الہدیٰ، عربی، جلد: ۲، ص: ۵۶)

● چہرہ انور چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن :-

”حضرت ابن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْمًا مَفْخَمًا يَتَلَا لِأُوجْهِهِ وَتَلَا لِقَمَرِ لَيْلَةٍ
الْبَدْرِ“ ترجمہ:- ”مشاہدہ کرنے والوں کی نظر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عظیم
بزرگ، معظّم اور مہیب تھے۔ گویا کہ آپ کا چہرہ انور چودھویں رات کے چاند کی مانند روشن اور
تاباں تھا۔“ (مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۳)

● آفتاب کی طرح چمکنے والا چہرہ انور :-

”ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت ابو عبیدہ نے
حضرت ربیعہ بنت مسعود کے جو صحابیہ تھیں، ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے حضور اقدس صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں کچھ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ يٰنَابِئِي لَوْ

وَأَيْتَهُ لَقُلْتُ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ - ترجمہ: "اے بیٹے! اگر تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھتا، تو پکار اٹھتا کہ جیسے سورج چمک رہا ہے۔"

(الدارمی، عربی، جلد: ۱، ص: ۳۳)

چاند سے بھی زیادہ منور چہرہ انور:-

"حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاندنی راتوں میں دیکھا ہے۔ اس وقت آپ کے جسم اقدس پر سرخ جوڑا تھا۔ میں کبھی آپ کے روئے انور کو دیکھتا اور کبھی چاند کی تابانی کو۔ خدا کی قسم! میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ بہتر آپ معلوم ہوتے تھے۔ (مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۴)

چہرہ انور کی روشنی سے گم شدہ سوئی مل گئی:-

"ابن عسا کرنے حضرت ام المؤمنین، محبوبہ محبوب رب العالمین، حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ میں رات میں سحری کے وقت سی رعی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی (Needle) گر گئی۔ میں نے چراغ کی روشنی میں گم شدہ سوئی تلاش کی مگر نہ ملی۔ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے چہرہ انور کی روشنی سے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ اور اسی روشنی کے اُجالے میں میں نے اپنی گم شدہ سوئی ڈھونڈ لی۔"

(خصائص کبریٰ فی معجزات خیر الوری، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۵۹)

سب سے زیادہ حسین اور جمیل:-

"بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ہمام بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

www.mawana.com

لوگوں میں سب سے زیادہ خوب اور خوش خوتھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ "مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ترجمہ:- "میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور بہتر کسی چیز کو نہیں دیکھا۔"

(مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۱)

◎ "پسینہ مبارک کی خوشبو سب سے اعلیٰ مہک"

حضور اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے ایسی دل کش اور نرالی خوشبو آتی تھی کہ اس خوشبو کے سامنے مشک و عنبر کی خوشبو کی کوئی حیثیت و وقعت نہ تھی بلکہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو اور دنیا کے سب سے قیمتی اور عمدہ عطر کی خوشبو بھی حضور اقدس کے عرق اطہر یعنی مبارک پسینے کی خوشبو کے سامنے ہیج تھی۔ کتب احادیث میں اس عنوان سے متعلق متعدد روایات منقول ہیں۔ ان تمام روایات کا یہاں پر بیان کرنا ممکن نہیں۔ لہذا چند روایات احادیث پیش خدمت ہیں:-

☆ تمام خوشبوؤں سے بہترین پسینہ اطہر کی خوشبو:-

"امام مسلم اور ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک روز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور دوپہر کے وقت قیلو فرمایا۔ چونکہ حضور اقدس کو نیند کی حالت میں پسینہ بہت آتا تھا۔ تو جب آپ کو پسینہ آنے لگا تو میری والدہ ماجدہ "ام سلیم" ایک شیشی میں آپ کا پسینہ جمع کرنے لگیں۔ اسی دوران حضور کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے میری والدہ سے فرمایا کہ اے ام سلیم! تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں تاکہ اسے میں بطور خوشبو استعمال کروں

کیونکہ اس کی خوشبو سب سے زیادہ بہتر ہے"

(حوالہ:- ① مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۳۷)

② خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۶۶)

⑤ دہن کے لیے پسینہ اطہر کی خوشبو لگانے سے پورا شہر مہک اٹھا:-

”ابو یعلیٰ اور طبرانی نے اوسط میں اور ابن عسا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، آپ براہ کرم تھوڑی خوشبو عطا فرما کر میری مدد فرمائیں، حضور اقدس نے فرمایا کہ اس وقت تو کچھ موجود نہیں، لیکن تم کھلے منہ کی شیشی اور درخت کی ٹہنی لے آؤ۔ چنانچہ وہ شخص دونوں چیزیں لایا۔ حضور اقدس نے دونوں کلائیوں سے مبارک پسینہ پونچھ کر شیشی کو بھر دیا۔ اور اس شخص کو شیشی عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شیشی اپنی بیٹی کو دے دو اور اس سے کہو کہ یہ ٹہنی (لکڑی) کو شیشی میں ڈبو کر خوشبو لگائے۔ اس لڑکی نے جب پسینہ اطہر کی خوشبو لگائی تو پورا مدینہ منورہ شہر اس کی خوشبو سے مہک اٹھا اور اس شخص کے گھر کو ایسی شہرت حاصل ہوئی کہ اس کے گھر کو ”بَيْتُ الْمُطِيبِينَ“ یعنی ”خوشبوؤں کا گھر“ کے نام سے شہرت ہو گئی اور اس کے گھر کا یہی نام رکھ دیا گیا۔“

(حوالہ:- ① خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۶۸)

② مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۳۷)

☆ حضور اقدس جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ مہک اٹھتا تھا:-

”دارمی، بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چند مخصوص علاقے تھے۔ حضور جب کوئی

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

راستہ طے فرماتے تو وہ راستہ جسم اطہر کی خوشبو سے مہک جاتا اور لوگ جان لیتے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں۔“

”ابن سعد اور ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے تشریف لانے سے پہلے ہی ہم جسم اقدس کی خوشبو سے آپ کو پہچان لیتے تھے کہ حضور تشریف لارہے ہیں۔“

”بزاز اور ابو یعلیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ مدینہ طیبہ کے راہ گیر راستوں کی خوشبو سے جان لیتے تھے کہ حضور ادھر سے گزرے ہیں۔“

”دارمی نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں آپ کے جسم اطہر کی خوشبو سے ہم پہچان لیتے تھے۔“

”ابو نعیم نے اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کا پسینہ موتی کی طرح تھا اور خوشبو میں مثل مشک خشن تھا۔“

(حوالہ: - (۱) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ۱۶۷، اور ۱۶۸)

(۲) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۲۸)

جس کے بدن کو حضور ہاتھ سے مس فرماتے، اس میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی:

”حضرت عتبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت اُمّ عاصم بیان کرتی ہیں کہ ہم چار (۳) عورتیں عتبہ کی زوجیت میں تھیں اور ہم میں سے ہر ایک یہی کوشش کرتی کہ زیادہ سے زیادہ خوشبو میں بس کر عتبہ کے قریب جائیں۔ ہم سب اس کوشش میں بہت زیادہ خوشبو کا استعمال کرتیں لیکن ہم میں سے کسی کی خوشبو ہمارے شوہر عتبہ کی خوشبو تک نہ پہنچتی تھی حالانکہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف روغن (تیل) کو اپنے ہاتھوں سے چھواتے اور اسے اپنی ڈاڑھی

marfat.com

پر مل لیتے تھے مگر اس کی خوشبو ہم سب پر غالب رہتی تھی۔ اور حضرت عتبہ جب باہر جاتے تو لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کرتے ہیں لیکن کوئی خوشبو عتبہ کی خوشبو سے تیز نہیں۔

اُمّ عاصم فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت عتبہ سے کہا کہ ہم سب خوشبو کے استعمال میں خوب کوشش کرتے ہیں لیکن تمہاری خوشبو تک ہماری خوشبو نہیں پہنچتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عتبہ نے جواب میں فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے ”شری“ یعنی گرمی کے دانے نکل آئے تھے۔ (اس مرض میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سارے بدن میں چنگاریاں لگی ہوئی ہیں) تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنے مرض کی شکایت کی تاکہ علاج فرمادیں۔ اس پر حضور اقدس نے فرمایا کہ اپنے اوپر کے بدن کے کپڑے اتار دو۔ میں اپنے بدن کے اوپر کے حصہ کے کپڑے اتار کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر حضور اقدس نے میری پشت اور شکم پر اپنا دست اقدس (مبارک ہاتھ) ملا۔ اس وقت سے یہ خوشبو مجھ میں پیدا ہو گئی ہے۔

اس روایت کو امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد ایوب طبرانی (المتوفی ۳۶۰ھ) قدس سرہ نے اپنی کتاب ”معجم صغیر“ میں نقل فرمایا ہے۔

(حوالہ مدارج النبوة اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۴۷)

☆ مشک و عنبر سے جسم اقدس کی خوشبو عمدہ اور بہتر:-

”حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ہر خوشبو خواہ مشک ہو یا عنبر ہو، سونگھی ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو اطہر سے عمدہ اور بہتر کوئی بھی خوشبو نہ تھی۔“ (مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۴۷)

نوٹ:-

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہہ کر ہمسری کا دعویٰ کرنے والے اپنی نعل (Annpit) میں اپنا ہاتھ رٹا کر، پسینہ سے تر کر کے، پھر ناک پر رکھ کر ہاتھ کو گہری سانس لے کر سوتا ہیں اور تجربہ کریں کہ ہاتھ سے خوشبو آتی ہے یا دماغ پھٹ جائے ایسی بد بو آتی ہے؟ تعجب تو ان لوگوں پر ہے جو نیل اور نیشے جیسا موٹا بدن لے کر گلی گلی اور ڈگر ڈگر تبلیغِ نفاق کرتے گھومتے ہیں اور ان کے مکروہ جسم سے پسینہ کی ایسی قبیح بد بو آتی ہے کہ خود ان کے اعز و اقرباء بھی ان کے پسینہ کی بو سے بد اور تعفن سے بیزار ہو جائیں اور مٹلی واپکائی محسوس کریں۔ ایسے لوگ کس منہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرتے ہیں؟

”مقدس کان کی قوت سماعت“

حضور اقدس، کان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس کانوں (Ear) کی قوت سامعہ کا یہ عالم تھا کہ سرزمین مدینہ طیبہ میں جلو و افروز ہو کر آسمان کی آواز بغیر کسی رابطہ یا وسائل کے سماعت فرما لیتے تھے۔

☆ آسمان کی چہ چراہٹ سماعت فرماتا:-

”حضرت ابو ذر اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ **إِنِّي أَدْرِي مَا لَا**

تَدْرُونَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ إِنِّي أَسْمَعُ أَطْيَبَ السَّمَاءِ

ترجمہ:- ”میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اس

وقت میں آسمان کی چہ چراہٹ سن رہا ہوں۔“

اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور ابو نعیم نے بھی روایت فرمایا ہے۔

marfat.com

(حوالہ:- خصائص کبریٰ اُردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۶۵)

☆ شکم مادر سے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سننا:-

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:-

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ صَرِيرَ الْقَلَمِ عَلَى
اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ وَأَنَا فِي ظِلْمَةِ الْأَحْشَاءِ وَكُنْتُ أَسْمَعُ
سُجُودَ الْقَمَرِ أَمَامَ الْعَرْشِ وَأَنَا فِي ظِلْمَةِ الْأَحْشَاءِ

ترجمہ:- ”قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں شکم مادری میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنتا تھا اور اسی طرح شکم مادر میں میں چاند کے عرش کے سامنے سر بسجود ہونے کی آواز بھی سنتا تھا۔“

”حضور اقدس کے لعاب دہن کا اعجاز“

حضور اقدس، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن (تھوک مبارک Holy Spittle) کا وہ اعجاز اور کمال تھا کہ اگر ترش (کھاری) کنوے میں لعاب دہن کے چند مقدس قطرات ڈال دیے جاتے، تو کھاری کنواں شیریں ہو جاتا تھا اور کنوے کے پانی میں ایک نرالی مہک اور خوشبو پیدا ہو جاتی تھی۔ علاوہ ازیں ہر قسم کی بیماری سے فوراً شفا اور تندرستی حاصل کرنے کے لیے لعاب دہن اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکسیر کا کام کرتا تھا۔ چند واقعات احادیث کتب معتبرہ مستندہ اور معتمدہ کے حوالوں سے پیش خدمت ہیں:-

☆ کھاری کنواں مدینہ کا سب سے میٹھا کنواں بن گیا:-

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

”ابونعیم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ فرماتے ہیں ہمارے گھر میں ایک کنواں تھا۔ اس کنویں میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس کی گزارش پر اپنا مقدس لعاب دہن ڈال دیا۔ اس روز سے اس کنویں کے پانی کی یہ کیفیت تھی کہ **قَلَمٌ يَكُنُّ بِالْعَدِينَةِ يَبِزُّ** **أَعْجَبُ مِنْهَا** یعنی تمام مدینہ منورہ میں ایسے شیریں پانی والا ایک بھی کنواں نہ تھا۔“ (حوالہ:- (۱) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۵۶ اور (۲) شواہد النبوة، از علامہ جامی، اردو ترجمہ، ص: ۲۴۸)

☆ کنویں کے پانی میں مشک کی خوشبو پیدا ہوگئی:-

”امام احمد، ابن ماجہ، بیہقی اور ابونعیم نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا ایک ڈول لایا گیا۔ حضور اقدس نے اس ڈول سے پانی نوش فرمایا پھر ایک کنویں میں کلی فرمادی۔ جس کے بعد سے اس کنویں کے پانی میں مشک کی خوشبو آنے لگی۔“ (حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۵۶)

☆ حضرت مولیٰ علی مرتضیٰ کی دکھتی آنکھیں فوراً اچھی ہو گئیں:-

”بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت بل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ خیبر کے دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”کل میں اسلام کا جھنڈا (علم) ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا، جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر خیبر فتح فرمادے گا۔“ اس اعلان پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رات بھر یہ آرزو اور ڈعا کرتے رہے کہ یہ سعادت مجھ کو نصیب ہو۔

جب صبح ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی

طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے ہر طرف سے عرض کیا کہ وہ یہیں ہیں لیکن ان کی آنکھ اتنی ذرد کرتی ہے کہ وہ اپنے پاؤں تک کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضور اقدس نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے۔ حضور اقدس نے حضرت علی کے سر کو اپنی مبارک ران پر رکھا اور اپنا مقدس لعاب وہن حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا۔ اسی وقت فوراً ان کی آنکھ سے ذرد جاتا رہا اور انہیں شفا کے ٹکلی حاصل ہو گئی۔ اس دن کے بعد حضرت سیدنا مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بھی ذرد چشم اور ذرد سیرا حق نہ ہوا۔“ (مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۲۱۲)

☆ یمن کا کھاری کنواں یمن کا سب سے پیٹھا کنواں بن گیا:-

”حضرت محدث ابن اسکن نے حضرت ہمام بن نفیل السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں یمن (Yaman) سے مدینہ منورہ آ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! ہم نے پانی کے لیے ایک کنواں کھودا ہے مگر اس کا پانی نہایت کڑوا اور نمکین ہے۔ جو پینے کے قابل نہیں۔ حضور اقدس نے ایک برتن میں پانی لیا اور نوش فرمانے کے بعد مجھے عنایت فرمایا اور حکم فرمایا کہ اس برتن کے پانی کو اس کنویں میں ڈال دیتا۔ میں مدینہ طیبہ سے یمن واپس لوٹا اور حسب حکم جب وہ پانی ہم نے کنویں میں ڈالا، تو وہ کنواں اتنا شیریں ہو گیا کہ ”فَهِیَ أَغْذَبُ مَاءٍ بِالْیَمَنِ“ یعنی ”یمن کے تمام کنوؤں سے اس کا پانی مٹھاس میں بڑھ گیا۔“ (شواہد النبوة، از علامہ جامی، اردو ترجمہ، ص: ۲۲۳)

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

(حوالہ:- (۱) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۴۶۰ اور

(۲) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۴۴۸

”بیہقی اور ابو نعیم نے بروایت موسیٰ بن عقبہ حضرت ابن شہاب سے اور صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت سے روایت کیا کہ حضرت یعلیٰ بن مدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے جنگ موتہ کے مجاہدین کی خبریں لے کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت یعلیٰ سے فرمایا کہ اگر تم اپنی خدمت یا فرض منصبی کی بجائے آوری (Duty) کے طور پر وہاں کے حالات بتانا چاہتے ہو تو بتا سکتے ہو، حالانکہ میں جنگ موتہ کے تمام حالات سے باخبر ہوں اور اے یعلیٰ! اگر تم کہو تو میں تم کو تمام حالات مفصل طور پر صراحت کے ساتھ بتا سکتا ہوں۔ حضرت یعلیٰ نے عرض کی کہ ”پھر تو میں حضور آپ کی ہی مبارک زبان سے سننا پسند کروں گا۔“

اس گزارش پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ موتہ کے تمام حالات اور کیفیات کی منظر کشی پیش فرمادی۔ جسے سن کر حضرت یعلیٰ بن مدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! فِذَاكَ اَيْبِي وَ اَيْبِي یعنی میرے ماں، باپ آپ پر قربان ہوں۔ میدان جنگ کے مکمل اور تفصیلی حالات جس صحت کے ساتھ آپ نے بیان فرمائے ہیں میں یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جنگ کے میدان میں موجود ہو کر دیکھنے والا بھی اس طرح تمام واقعات و حالات بیان کرنے پر قدرت نہیں رکھ سکے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے سے زمین کے تمام حجابات اٹھا دیے ہیں اور میں مجموعی حیثیت سے مجاہدوں کے پورے لشکر کو اور انفرادی طور پر لشکر کے ہر فرد (شخص) کو دیکھتا رہا ہوں۔“ (حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۴۹۷، اور ص: ۴۹۸)

آگے بڑھنا کی بات نہ کرنا

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

”ابن عدی، بیہقی اور ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اُمّ المؤمنین، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی: کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاریکی (اندھیرے) میں اسی طرح دیکھتے تھے، جس طرح لوگ روشنی اور نور میں دیکھتے ہیں۔“

”بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندھیری اور سیاہ رات میں اسی طرح دیکھتے تھے، جیسے روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔“

”امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں صرف سامنے ہی دیکھتا ہوں؟ خدا کی قسم! تمہارے رکوع اور سجدے مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ بلاشبہ میں پشت کے (پیٹھ کے) پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں۔“

”ابو نعیم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں اپنی پشت کی جانب سے بھی تم کو دیکھتا ہوں۔“

”عبدالرزاق نے اپنی جامع میں اور حاکم و بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ”بے شک! میں اپنی پشت کی جانب سے ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ سامنے سے دیکھتا ہوں۔“

”حمیدی نے اپنی مسند میں اور ابن منذر نے اپنی تفسیر میں اور بیہقی نے مجاہد سے قرآن مجید کی آیت کریمہ ”الَّذِينَ يَدْرَأُكَ جِئْنَا تَقْوَمُ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّجْدِ“ کی تفسیر میں بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیچھے کی صفوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے اپنے سامنے کی طرف دیکھتے تھے۔“

(حوالہ:-(۱) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۵۵، ۱۵۶ اور

www.ataunnabi.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

”حضورِ اقدس کے دیگر جسمانی خصائص“

☆ جسم اقدس پر کبھی مکھی نہ بیٹھی اور کپڑوں میں جوں نہ پڑی:-

○ ”امام قاضی عیاض نے ”کتاب الشفاء“ میں اور غرنی نے اپنی کتاب ”المولد“ میں بیان کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ حضور اقدس کے مقدس جسم پر کبھی بھی نہ بیٹھتی تھی۔“

○ ”ابن سبع نے ”الخصائص“ میں اسے ان الفاظ سے بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہ بیٹھتی تھی اور حضور اقدس کے خصائص میں اتنا زیادہ کیا کہ جوں آپ کو نہ کاٹی تھی۔ (یعنی کپڑوں میں جوں نہ پڑتی تھی)“
(حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۶۹)

☆ حضور اقدس طبعی طور پر جماعتی سے منزہ تھے:-

○ ”امام بخاری نے تاریخ میں، ابن ابی شیبہ نے اپنی تصنیف میں اور ابن سعد نے یزید بن الاثم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی جماعتی (Yawn)

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

نہیں آئی۔ ابن ابی شیبہ نے مسلم بن عبد الملک بن مروان سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی جماعی نہیں لی۔“

(حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۶۹)

دستِ اقدس (ہاتھ) کا پرکیف اعجاز

”حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ تو میں نے ایسی شہدک اور خوشبو پائی کہ گویا آپ نے ابھی عطر کی ڈبیہ سے اپنا دستِ اقدس نکالا ہے۔ اور جو کوئی بھی آپ سے مصافحہ کرتا وہ تمام دن اپنے ہاتھوں میں خوشبو پاتا۔ آپ جس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے، وہ آپ کی خوشبو کی وجہ سے تمام بچوں میں ممتاز اور معروف ہو جاتا۔“

(حوالہ:- مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۴۸)

”حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا اور برکت کی ڈعا کی، تو ان کی اتنی (۸۰) سال کی عمر ہوئی وہاں تک وہ جوان تھے اور اتنی (۸۰) سال کی عمر میں ہنوز جوانی کی حالت میں انتقال فرمایا۔“

”حضرت قیس بن جذامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور ڈعا فرمائی۔ چنانچہ جب حضرت قیس کی عمر ایک سو (۱۰۰) سال کی ہوئی تب ان کے سر کے تمام بال سفید ہو گئے مگر وہ حصہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست پاک پھیرا تھا، اس حصہ کے بال سیاہ تھے۔“

”حضرت عابد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”جگ حنین“ کے دن زخمی ہو گئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دستِ اقدس کو ان کے چہرے پر پھیرا کہ۔“

چہرے کو پاک اور صاف فرما کر دُعا فرمائی۔ اس دن کے بعد حضرت عابد کا چہرہ ہمیشہ چمکتا رہتا تھا اور ان کا لقب ”غز“ یعنی ”چمکنے والا“ مشہور ہو گیا۔“

① حضرت حنظلہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دستِ اقدس رکھا اور برکت کی دُعا فرمائی۔ تو ان کا یہ حال تھا کہ جن لوگوں کے چہروں پر ورم (سوجن / Swelling) آ جاتا تھا، یا جن بکریوں کے تھن (پستان / Breast) میں ورم آ جاتا، ان کو حضرت حنظلہ کے پاس لے آتے تھے اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کا وہ حصہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دستِ کرم پھیرا تھا، اس حصے کو ورم والے مقام سے مس (Touch) کرتے تھے، تو فوراً ان بیماروں کا ورم جاتا رہتا تھا۔“

② ”ایک گنچہ (Bald) لڑکا خدمتِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لایا گیا۔ اس لڑکے کے سر میں گنچ تھا۔ حضور اقدس نے اس بچے کے سر پر اپنا دستِ کرم پھیرا، تو وہ اسی وقت ٹھیک اور صحت یاب ہو گیا اور اس کے سر کے بال برابر نکل آئے۔“ اسی طرح جو بیمار اور دیوانے بچے خدمتِ اقدس میں لائے جاتے اور اگر ان میں سے کوئی بچہ جسے دیوانگی یا آسیب ہوتا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سینہ پر دستِ مبارک مارتے، تو اس کی دیوانگی اور آسیب جاتا رہتا اور بچہ تندرست ہو جاتا تھا۔“

(مذکورہ: ۵، واقعات بحوالہ: مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۳۶۷ اور ۳۶۸)

③ ٹوٹا ہوا پاؤں دستِ اقدس پھیرتے ہی درست ہو گیا۔۔

”صحیح بخاری شریف میں مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عتیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گستاخ رسول اور دشمنِ اسلام ابورافع یہودی کو اس کے گھر جا کر قتل کیا تب چاندنی رات تھی ابورافع یہودی کو قتل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عتیک اس کے مکان سے جلدی جلدی نکلنے کے لیے تیز رفتاری سے زینہ اتر

رہے تھے، تو ان کا پاؤں پھسل گیا اور زمین پر گر پڑے اور ان کے پاؤں کی پنڈلی (Calve) ٹوٹ گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عبداللہ وہاں سے بھاگ نکلے اور اسی حالت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم حضرت عبداللہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر پھیرا، تو وہ اسی وقت شفا یاب ہو گئے۔“

(حوالہ:- (۱) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ۳۵۸ اور (۲) خصائص الکبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۲۲۵)

◎ زخمی آنکھ کا رخسار پر لٹک جانا اور دستِ اقدس نے درست فرما دیا:

”ابن سعد نے زید بن اسلم سے روایت کی کہ جنگ بدر میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کو ایسا شدید صدمہ پہنچا کہ اُن کی آنکھ کا پورا ڈھیلا نکل کر رخسار پر لٹک پڑا۔ حضرت قتادہ بن نعمان اپنی لنگی بوئی آنکھ کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کی اس لنگی بوئی آنکھ کو اس کے حلقے میں رکھ دیا اور اپنا دستِ اقدس اس پر پھیر دیا تو ان کی آنکھ اسی وقت ایسی درست ہو گئی کہ گویا آنکھ کو کوئی صدمہ پہنچا ہی نہ تھا۔“

(حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۳۸۶)

المختصر! ایسے بے شمار واقعات کتب احادیث و سیر میں مذکور و مرقوم ہیں جن کا بالکل یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں۔ علاوہ ازیں جسم اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیگر نورانی اعضاء کے معجزات، خصائص، فضائل اور کمالات اتنی کثیر تعداد میں مروی ہیں کہ جن کو بیان و حصر میں لانے کے لیے دفاتر درکار ہیں۔ معزز قارئین کی ضیافت طبع کی خاطر فقیر نے چند واقعات ارقام کر دیے ہیں، جن کے مطالعہ سے یہ بات اظہر من الشمس ثابت ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں تھی بلکہ بے مثل و مثال ”نوری

بشریت“ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نہ کسی کو بنایا ہے اور نہ بنائے گا۔ عام انسان تو درکنار بلکہ انبیائے کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی مقدس جماعت میں سے بھی کسی ایک کو اپنے محبوب اکرم کی مثل نہ بنایا۔

بے شک! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوع انسانی کے ایک فرد ہونے کی وجہ سے ”انسان اور بشر“ ہی تھے۔ آپ نوع ملائکہ یا جنات سے نہیں تھے بلکہ انسان ہی تھے لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صورت بشری میں ہی دنیا میں بھیجا تھا۔ حقیقت نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشری جامہ کیوں پہنایا گیا؟ اور اس میں کیا حکمت تھی؟ اس کی تفصیلی وضاحت آئندہ صفحات میں ہم پیش کریں گے۔ اس وقت ہم صرف یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ”نوری بشریت“ کا عام انسانوں کی بشریت سے کوئی علاقہ بعید بھی نہیں۔ کہاں اس ”نور من نور اللہ“ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوری بشریت اور کہاں ہماری تمہاری عام بشریت؟ مساوات اور ہمسری کا گمان بھی نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن دور حاضر کے منافقین اپنی اوقات کیا ہے؟ اس حقیقت کو فراموش کر کے ”یہ منہ اور مسور کی وال“ والی مثل پر عمل پیرا ہو کر معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے باطل اور مضحکہ خیز دعویٰ کو مناسب ٹھہرانے کے لیے قرآن مجید کی مقدس آیت کریمہ نقل انما انا بشر مثلكم بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کریمہ کی مفصل وضاحت اور اوراق سابقہ میں ہم نے پیش کر دی ہے۔

قرآن مجید کی مذکورہ آیت کریمہ پیش کر کے دور حاضر کے منافقین بھولے بھالے سادہ لوح اور کم علم لوگوں کو بہکانے کے لیے ایسا بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے ارشاد کے مطابق نبی بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں لہذا بشر ہونے کے معاملہ میں ہم بھی نبی کی طرح ہیں۔ ان کی یہ بات زمانہ ماضی کے کفار، مشرکین، منافقین، یہود اور نصاریٰ کی بولی کی ترجمانی اور عکاسی ہے۔ صرف انسان ہونے کی حقیقت کی بناء پر ہرگز ہمسری اور برابری کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً:-

”یا قوت (Ruby)، نیلم (Sapphier)، زمرد (Emerald)، الماس (Diamond) اور دیگر قیمتی جواہرات زمین سے برآمد ہونے کی وجہ سے معدنیات (Mineral) ہی ہیں اور ایک قسم کے پتھر ہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے مکانوں کے بیت الخلاء (Latrine) کے فرش میں جو بچھایا جاتا ہے۔ وہ بھی پتھر (Stone) ہی ہے لیکن دونوں میں کتنا فرق ہے۔ جو پتھر قیمتی جواہرات کی شکل میں ہے وہ بادشاہوں کے تاج کی زینت بن کر اپنی اہمیت کا لوہا منواتا ہے۔ زیورات میں جڑا جاتا ہے اور زیورات کے ساتھ تجوری میں حفاظت سے رکھا جاتا ہے جبکہ بیت الخلاء (پاخانہ) کا فرش بھی پتھر ہی ہے لیکن مکان میں رہنے والے متعدد افراد دن اور رات میں کئی مرتبہ اپنے بول و براز سے اُسے نجس سے نجس تر بناتے رہتے ہیں۔ اب کوئی سر پتھر اور شہر پسند یہ کہے کہ بادشاہ کے تاج کا جواہر اور بیت الخلاء کے فرش کا پتھر دونوں ہمسرا اور مساوی ہیں کیونکہ دونوں معدن (Mine) سے نکلنے کی وجہ سے اقسام معدنیات سے ہیں اور دونوں میں ”آنَا مَعْدَنٌ مِّثْلُکُمْ“ کی مساوات اور ہمسری ہے ایسے شخص کے لیے صرف یہی کہا جائے گا کہ جناب والا سے عقل و فہم کوسوں دور ہے۔ بلا مثال و تمثیل جو شخص صرف انسان ہونے کی بناء پر نبی اور رسول سے ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرتا ہے اس شخص کے لیے بھی یہی کہا جائے گا کہ اس جناب کی بھی عقل کے طوطے اڑ گئے ہیں۔

”قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید ضرور ہوتا ہے اور اللہ کا یہ کلام یعنی قرآن مجید کتابی شکل میں ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ کتاب کی ہیئت یہ ہوتی ہے کہ مطبوعہ اوراق (Printed Pages) کو جلد کی شکل میں باندھتے ہیں اور اوپر کو گتتا (موٹے کاغذ کا تختہ = Card Board) لگا کر گتے کے اوپر چمڑے کا غلاف جڑا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے قرآن مجید کو ہاتھ میں لیتا ہے تب وہ با وضو ہی قرآن مجید کو مس کرتا ہے۔ علاوہ از کلام سے قبل اور بعد میں قرآن مجید کو مسح دیتا ہے۔ اس کا۔

فعل اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کی عظمت اور تعظیم کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچو! جو شخص قرآن مجید کو با وضو چھوتا ہے اور تعظیم و محبت سے چومتا ہے، وہ اس چمڑے کو چھوتا اور چومتا ہے جو جلد سازی (Binding) میں استعمال کر کے قرآن مجید کی جلد کی باہری حصہ میں چسپاں کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ: ہوا کہ قرآن مجید کی جلد میں آویختہ ہونے کی وجہ سے دو چیز عظمت و تکریم کے قابل بن گیا۔

اسی طرح ہمارے پاؤں میں پہنے جانے والے جوتے، چپل میں بھی چمڑے کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جوتے کا چمڑا پاؤں سے روند جاتا ہے اور راہ میں پڑی ہوئی نجاست اور گندگی سے ملوث ہوتا رہتا ہے۔ لہذا جوتے کا چمڑا اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ اس کو مکان کے اندر داخلہ کی اجازت دی جائے۔ ہر شخص جوتے مکان کے بیرونی حصہ میں اتارنے کے بعد ہی مکان کے اندرونی حصہ میں داخل ہوتا ہے۔ اب کوئی عقل کے پیچھے لٹھ لیے پھرنے والا اور عقل کا مارا یہ کہے کہ قرآن مجید کی جلد سازی میں استعمال شدہ چمڑا اور جوتے کا چمڑا دونوں چمڑے کی اقسام سے ہونے کی وجہ مساوی اور ہمسری ہیں اور دونوں میں "أَنَا جِلْدٌ مِّثْلُكُمْ" کی مساوات و ہمسری ہے، تو ایسے شخص کے لیے یقین کے درجہ میں یہی کہا جائے گا کہ جناب کی عقل کا چراغ گل ہو گیا ہے۔

◎ قابل غور و فکر حقیقت :-

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہہ کر ہمسری کا دعویٰ کرنے والے دورِ حاضر کے منافقین شاید اس حقیقت کو بھول گئے ہیں کہ صرف انسان ہونے کے ناطے امتی کا نبی کے ساتھ ہمسری اور برابری کا دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے بلکہ تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مقدس جماعت میں بھی مساوات اور ہمسری نہیں۔ بعض انبیائے کرام کو بعض انبیائے کرام پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ یعنی باعتبار درجات و مراتب تمام انبیائے کرام مساوی اور ہمسری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ:-

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ اللَّهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

(پارہ: ۳، سورۃ البقرۃ، آیت: ۲۵۳)

ترجمہ: ”یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔
ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند
کیا۔“ (کنز الایمان)

تفسیر:- (۱) ”معلوم ہوا کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مراتب جداگانہ
ہیں۔ بعض حضرات سے بعض افضل ہیں۔ یعنی خصائص و کمالات میں
درجے متفاوت ہیں۔“

(۲) ”اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا“ سے مراد حضور پر نور
سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو بدرجات کثیرہ تمام
انبیائے کرام علیہم السلام پر افضل کیا۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے اور
بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔“

(۳) ”آیت میں حضور اقدس کی اس رفعت مرتبت کا بیان فرمانا اور نام
مبارک کی تصریح و توضیح کا نہ کیا جانا، اس سے بھی حضور اقدس علیہ افضل
الصلوٰۃ والسلام کی اعلیٰ شان کا اظہار ہے کہ اس ذات والا کی یہ شان ہے کہ
جب تمام انبیاء پر فضیلت کا بیان کیا جائے تو سوائے ذات اقدس کے یہ
وصف کسی پر صادق نہ آئے اور کوئی اشتباہ راہ نہ پاسکے اور حضور اقدس کے وہ
بے شمار خصائص و کمالات ہیں جن میں آپ تمام انبیاء پر فائق اور افضل ہیں
اور آپ کا کوئی شریک نہیں۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۷۵ اور ص: ۷۶)

قارئین کرام مندرجہ بالا آیت کریمہ، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو بغور و فکر مطالعہ

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

فرمائیں تو یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجات، کمالات، مراتب اور خصائص تک کسی بھی نبی یا رسول کی رسائی نہیں۔ یہ کسی کے گھر کی ایجاد کردہ بات نہیں، بلکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات اور مخلوق میں سے کوئی بھی حضور اقدس کا ہمسر نہیں۔ تو دورِ حاضر کے منافقین کس کھیت کی مولیٰ ہیں؟ کس منہ سے حضور اقدس کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں؟ جب کسی بھی نبی اور رسول نے حضور اقدس سے ہمسری اور برابری کا دعویٰ نہیں کیا، تو دورِ حاضر کے منافقین نہ جانے اپنے کو کیا سمجھ کر ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تعجب ہے کہ جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی مقدس نبی کے ساتھ ہمسری اور برابری کا بھی باطل دعویٰ کرتے ہیں۔

◎ ”حضرت موسیٰ علیہ والسلام نے حضور کے امتی ہونے کی تمنا فرمائی“

جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ کسی بھی نبی اور رسول نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ نہیں کیا۔ حالانکہ انبیائے کرام کی جماعت تمام انسانوں سے افضل ہے۔ اپنی افضلیت اور برتری کے باوجود بھی انہوں نے حضور اقدس سے ہمسری اور برابری کا دعویٰ نہیں کیا، البتہ اس رسول اعظم اور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی ضرورت تمنا فرمائی ہے۔

◎ محقق علی الاطلاق، الشیخ شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ ارقام فرماتے ہیں کہ:-

”حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب توریت شریف کی تختیوں میں آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی تقریباً ستر (۷۰) صفات کو پڑھا، تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدا! اس امت کو میری امت بنا دے۔ فرمان باری تعالیٰ آیا کہ تم موسیٰ! اس امت کو تمہاری امت کیسے بناؤں

وہ امت تو نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کیا کہ رب! تو مجھے ہی امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے بنائے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دو خوبیاں مرحمت فرمائیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

قَالَ يٰمُوسٰى اِنِّىْ لَصَلِّفْتُكَ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِرِسَالَتِيْ وَ بِكَلَامِيْ فَخُذْ مَا اَتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ

(پاؤں، سورۃ الاعراف، آیت ۱۴۳)

ترجمہ:- ”خرمیا کے سوئی! میں نے تجھے لوگوں سے جس لیا اچی رسالتوں اور اپنے کلام سے تو لئے جو میں نے تجھے حکم فرمایا اور شکر والوں میں ہو۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بے گوارائی میں عرض کیا کہ اے میرے رب! اس پر وہ اپنی پوزیشن کو تبدیل۔“

(حوالہ - مدارج النبوة، از شاہ عبدالحق محدث دہلوی، دار بیروت، جلد: ۱، ص: ۱۰۸)

حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام جیسے عظیم القدر رسول اللہ نے حضور اللہ سے، مسرفی کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ آپ کی امت میں ہونے کی تمنا ہی اور ان کی یہ تہذیب و عبادت ان پر بھی بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور تھیمین پیمانہ پر ہی کی۔ اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام لو اپنے عظیم القدر و عظیم قدر میں نہ ہوتے تو آپ کی امت میں ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جیسے عظیم القدر اور تھیمین اور بہت رسوں، امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہونے کی تہذیب و عبادت فرماتے اور ذریعہ خیر کا دورہ لگاتار ہوتی امت محمدیہ میں ہونے کے باوجود حضور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسرفی اور نہ ہونے کی تمنا ہی نہ ہوتی۔

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام حضورِ اقدس کے امتی بن کر تشریف لائیں گے

حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام باعظمت نبی ہیں اور فی الحال حیات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آسمان پر زندہ اٹھالیا ہے۔ جس کا تفصیلی بیان قرآن شریف، پارہ: ۳، سورۃ آل عمران، آیت: ۵۴ تا ۵۵ میں ہے۔ قارئین کرام کی فرحت طبع کی خاطر عرض ہے کہ چار انبیائے کرام وہ ہیں جن کی وفات ابھی تک واقع نہیں ہوئی۔ ایک حوالہ پیش خدمت ہے:-

① ”چار انبیائے کرام وہ ہیں، جن کی وفات ابھی واقع نہیں ہوئی۔ ان چار میں سے دو حضرت سیدنا اور لیس اور حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام آسمان پر زندہ اٹھالیے گئے ہیں۔ اور دو یعنی حضرت الیاس اور حضرت خضر علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام یہ دونوں زمین پر تشریف فرما ہیں۔ دریا، سمندر حضرت سیدنا خضر کے اور خشکی حضرت سیدنا الیاس کے متعلق ہے۔ (علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام)۔ یہ دونوں صاحبان ہر سال حج کو تشریف لاتے ہیں اور حج کے بعد آب زمزم شریف نوش فرماتے ہیں کہ وہی سال بھر تک ان کے کھانے پینے کو کفایت کرتا ہے۔“

(حوالہ:- فتاویٰ رضویہ شریف، جلد: ۱۲، ص: ۲۲ اور ۲۰۶)

حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام قرب قیامت یعنی قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اگرچہ آپ اپنے حال پر نبی اور رسول ہوں گے لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضورِ اقدس کا اتباع کریں گے اور ہمارے نبی کریم، حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔

علاوہ ازیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر حضرت آدم یا حضرت نوح یا حضرت ابراہیم یا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام یا کسی بھی نبی یا رسول کے زمانے میں اس دنیا میں تشریف لے آتے، تو ان پر اور ان کی امتوں پر واجب ہو جاتا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کا اتباع کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارواح انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے عہد و پیمان لیا کہ آپ کی نبوت سب کو محیط اور آپ کی بالادستی سب پر ہے۔

(خصائص کبریٰ، امام جلال الدین سیوطی، اردو ترجمہ، جلد ۱، ص ۱۶)

الحاصل! حضرت سیدنا آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ تک کے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اپنی اپنی امتوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل اور علو مرتبت سے آگاہ کر کے ان پر ایمان لانے کی ہدایت و تلقین فرمائی بلکہ تمام انبیاء و مرسلین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مداح و تیار مند تھے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیضیاب ہونے کے لیے ”امت محمدیہ“ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہونے کی آرزو اور تمنا فرمائی تھی۔ کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمسر ہوں۔ حالانکہ وہ تمام حضرات منصب نبوت و رسالت پر فائز تھے لیکن انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اعظم کا جو رتبہ، درجہ، مرتبہ، عزت، تعظیم، تکریم اور خصوصیت رب اکبر جل جلالہ کے ہاں ہے وہ کسی کو بھی حاصل نہیں۔ بلکہ اس درجے اور مرتبے پر کسی اور کے پہنچنے کا امکان ہی نہیں۔ اس مقدس ذات گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ و ارفع مراتب و درجات کو احاطہ حصر میں لانا ممکن ہی نہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس! دور حاضر کے منافقین کی جراتیں اور بے باکیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درجات و کمالات کو ”بشر میٹر“ (Basharometer) کے ذریعہ ناپنے کی سعی بیجا کرتے ہیں اور قرآن مجید کی مقدس آیت کریمہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ سے غلط استدلال کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی مثل بشر کہہ کر توہین و تنقیص رسالت کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بلکہ اپنی منافقانہ اور بیکارہانہ عبادت کے نشے کے غرور و گھمنڈ

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر برتری کا باطل دعویٰ کرتے ہوئے بھی نہیں جھکتے۔

منافقینِ زمانہ کا دعویٰ کہ عمل میں امتِ نبی سے بڑھ سکتا ہے“

دورِ حاضر کے منافقین کے مقتدا اور پیشوا و نیز دارالعلوم دیوبند کے بانی آنجنابی مولوی قاسم نانوتوی نے اپنی رسوائے زمانہ کتاب میں یہاں تک لکھا ہے کہ:-

”انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو صرف علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ باقی رہا عمل۔ اس میں بظاہر بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔“

حوالہ:- ”تحذیر الناس“

از:- مولوی قاسم نانوتوی، مطبوعہ کتب خانہ رحیمیہ، دیوبند (یو پی) ص: ۵

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا ورد جاری رکھتے ہوئے مذکورہ عبارت پر غور فرمائیں کہ کتنے خطرناک انداز میں نبی سے ہمسری بلکہ برتری کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ عبارت کی ابتداء میں مطلق ”انبیاء“ کہا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ اور تمام انبیاء میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ یعنی مُفسدِ مصنف کا یہ کہنا ہے کہ انبیائے کرام کو اپنی امت پر جو فضیلت حاصل ہے وہ صرف علم ہی کی وجہ سے حاصل ہے اور عمل کے معاملے میں تو امتی اپنے نبی سے مساوی یعنی برابر اور یکساں ہو سکتا ہے بلکہ نبی سے بڑھ بھی سکتا ہے۔ دورِ حاضر کے منافقین اپنی نمازوں کی تعداد، ذکر و اذکار و دیگر اوراد و وظائف کو روزانہ شمار کرتے ہیں اور پھر اس پر کیا کیا اجر و ثواب

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ملنے والا ہے اس کا حساب کرتے ہیں اور پھر اس کا میزان (جوڑ-Total) لگاتے ہیں اور اپنے عمل پر بذات خود اجر و ثواب متعین کر کے اپنے من میں پھولے نہیں ساتے اور پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آہ! آج تو میں نے اتنی اور اس قدر نیکی کمائی ہے اور آج کے دن میرے نامہ اعمال کے بھی کھاتے (Ledger) میں اتنی تعداد میں نیکیاں جمع (Credit) ہوئی ہیں۔ اس ریاکارانہ حرکت کو دو روز حاضر کے منافقین نے ”مذاکرہ“ کا نام دے رکھا ہے۔ راقم الحروف نے زین کے سفر کے دوران کئی مرتبہ مشاہدہ کیا ہے کہ وہابی تبلیغی جماعت کے جاہلوں کی ٹولی کا اجہل امیر بعد نماز عشاء ہر مبلغ سے پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا نیکی کی ہے؟ ہر مبلغ کے بعد وگھرے اپنے امیر سے اپنا روزنامہ بیان کرتا ہے کہ آج میں نے فرائض کے علاوہ اتنی رکعتیں نفل، اتنے کلمے، اتنے استغفار، اتنے درود، اتنے پارے کی تلاوت وغیرہا وغیرہا نیکی اعمال کیے ہیں۔ جس کو سن کر امیر جماعت واہ واہ! سبحان اللہ! کہتا جائے اور اس جاہل عابد کو سراہتا جائے اور پھر حساب لگائے کہ اتنی رکعتیں نفل پڑھیں اس کا اتنا ثواب، کلموں کی نیکیوں کا اتنا میزان وغیرہا وغیرہا کا میزان لگاتا جائے اور پانچ پچیس لاکھ نیکیاں کھاتے (Account) میں جمع ہو گئیں اور ہزاروں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ ماشاء اللہ! آج کے دن تم نے بہت نیکیاں کمالیں۔ اپنے امیر جماعت کی زبان سے نامہ اعمال میں اتنی ساری نیکیاں صرف ایک دن میں جمع ہونے کی سند (Credit Note) سن کر وہ جاہل مبلغ ہوا پراڑنے لگتا ہے۔ جب دہلی یا مدراس کا چالیس دن کا چلہ پورا کر کے گھر واپس آتا ہے تو اپنی چالیس دن کی نیکیوں کا اب خود میزان (Total) لگاتا ہے تو اس کا عدد (figure) کروڑوں اور اربوں میں ہوتا ہے۔ اپنی نیکی کا اتنا بڑا عدد ہو گیا ہے علاوہ ازیں میرے لاکھوں صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہو گئے ہیں لہذا اب میرا ایک وٹ خسارہ یعنی (Debit) کے بجائے منافع (Credit) میں متبدل ہو گیا ہے۔ اور وہ جاہل مبلغ اپنے کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف سمجھنے لگتا ہے گویا وہ آج ہی اپنی ماں کے شکم سے تولد ہوا ہو۔ اپنی نیکیوں کے خود ساختہ حصول پر اس کا دماغ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ سمجھنے لگتا ہے۔ اپنے کو صالح الاعمال اور متقی و ریزگار کے زمرہ میں تصور کر کے جاہل و متکبر ہونے لگتا ہے کہ وہ

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کو اپنے سامنے بیچ سمجھتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ اولیاء و انبیاء کے مقابل اپنی نیکیوں کی کثرت کا مقابل کرتا ہے۔ اس کے دماغ میں بھڑکی ہوئی تکبر اور غرور کی آگ پر دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی کی رسوائے زمانہ کتاب ”تخذیر الناس“ کی مندرجہ بالا عبارت پٹرول (Petrol) کا چمڑکاؤ کر کے اسے مزید مشتعل کرتی ہے اور نتیجتاً وہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مسرفی کے دعویٰ سے متجاوز ہو کر اب برتری کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ =

جس کو استنجا، وضو، غسل اور طہارت کے اہم مسائل کی واقفیت تک نہیں، جسے نماز کے شرائط، نماز کے فرائض و واجبات اور دیگر ضروری امور کا احساس نہیں اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تب فرائض و واجبات کے ترک ہونے کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہوتی ہے۔ جو نماز کے ارکان تک صحیح طور پر ادا نہیں کرتا اور کراہت تحریمی کی وجہ سے اس کی نماز واجب الاعداد ہوتی ہے، ایسی فتور آمیز نماز پڑھ کر اس کی عقل میں بھی فتور آتا ہے۔ اور وہ اپنے کو مقبول بارگاہ الہی اور مستجاب درگاہ خداوندی گردانتا ہے اور اب میرا اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ رابطہ (Direct Conetction) ہو گیا ہے۔ ایسے خیالی تصور اور خیال فاسد میں مستغرق رہتا ہے۔ وہ جاہل مبلغ انبیائے کرام کے نماز و روزے اور دیگر اعمال و حسنات کا بھی حساب لگاتا ہے اور پھر اس کا اپنی عبادت سے مقابل کرتا ہے۔ مثلاً:-

دارالعلوم دیوبند کے بانی آنجناب مولوی قاسم نانوتوی کی رسوائے زمانہ کتاب ”تخذیر الناس“ کی مذکورہ عبارت کی مضحکہ خیز تاویل کرتے ہوئے دور حاضر کے منافقین یہ کہتے ہیں کہ اس عبارت میں کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے کیونکہ نانوتوی صاحب نے یہ نگاہ ہے کہ ”عمل میں بسا اوقات امتی مساوی یعنی برابر ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف ترسٹھ سال کی ہوئی ہے۔ اور نماز کی فریضت چالیس سال کی عمر شریف میں نبوت ملنے کے بعد ہوئی ہے تو آپ نے صرف ۲۳ ربیعہ سال ہی نماز پڑھی ہے۔ اب اگر کسی مسلمان کے گھر کوئی لڑکا پیدا ہوا اور اس نے دو سال کی عمر میں نماز پڑھی ہے تو اسے پانچ سال کی عمر تک پابندی سے نماز

پڑھتا رہا اور انتقال کیا، تو اس نے اپنی زندگی کے ۸۵ پرچاسی سال تک نماز پڑھی۔ لہذا وہ عمل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ گیا یا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ عرصے اور مدت تک عبادت و ریاضت کی یا نہیں؟ اس نے حضور اقدس سے زیادہ عمل کیا یا نہیں؟ نماز کی تعداد اور ایام نماز کی تعداد کے معاملہ میں وہ حضور اقدس سے بڑھ گیا یا نہیں؟

کیسی لچر اور لغو دلیل ہے۔ اور کسی بے تکی منطق ہے۔ حالانکہ ”تخذیر الناس“ کتاب کی مذکورہ عبارت صرف توہین و تنقیص رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غرض فاسد سے کہی اور لکھی گئی ہے لیکن وہابی تبلیغی جماعت کے مبلغین کے سامنے ان کے مقتدا و پیشوا کی مذکورہ گھنونی عبارت پیش کی جاتی ہے، تب وہ اپنے آنجہانی پیشوا ملانا نو تووی کا دفاع کرنے کے لیے مندرجہ بالا بے ڈھنگی اور پھوہڑتاویل پیش کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقبول و مستجاب عبادت و ریاضت کو اپنی ریاکارانہ عبادت پر قیاس کر کے کثرت تعداد رکعات نماز اور طول مدت زمانہ نماز کے ذریعے پیمائش کرتے ہیں۔ اور اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صرف ایک سجدے کا ہماری نماز کی کروڑوں بلکہ اربوں رکعتیں بھی مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ کہاں سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز اور کہاں ہماری نماز!

◎ ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نماز میں قیام اس طرح ہوتا کہ آپ کے مبارک قدموں میں ورم آجاتا۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ اتنی محنت اور مشقت کس لیے برداشت فرماتے ہیں۔ حالانکہ آپ تو مغفور ہی ہیں۔

فرمایا خدا کی اس عنایت و کرم پر کہ اس نے مغفور بنایا، شکر گزار بندہ بن جاؤں۔“
◎ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر عمل لزوم اور دوام لیے ہوئے ہے۔ تم میں سے کس کی طاقت ہے؟ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنی مشقت برداشت کر سکے۔“

◎ ”حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کبھی کبھی صرف ایک ہی آیت پر ساری رات قیام میں گزار دیتے ہیں اور وہ آیت یہ ہوتی ہے:-

إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَلْيَنْتَهَمْ عِبَادَكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفِيرُ
الْحَكِيمُ (پارہ: ۷، سورۃ المائدہ، آیت: ۱۱۸)

ترجمہ:- ”اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے، تو بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔“ (کنز الایمان)

اس سے مقصود امت کا عرض حال اور ان کی مغفرت کی درخواست تھی۔ منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے ہوتے اور آپ کا شکم اطہر دیگ کے جوش مارنے کی آواز کی مانند آواز دے رہا ہوتا۔“

(مندرجہ بالا تینوں روایات بحوالہ:- مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۱۶ و ۱۱۷)

مندرجہ بالا تینوں روایات سے یہ بات ثابت کرنا مقصود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمانے میں جو محنت اور مشقت برداشت فرمائی، ایسی محنت و مشقت اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب کچھ احادیث کریمہ ایسی تلاوت کریں کہ جن سے معلوم ہو کہ باعتبار درجہ اور اجر و ثواب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز تک کسی کی بھی نماز نہیں پہنچ سکتی اور آپ کا عمل آپ کے لیے نافلہ ہے۔

◎ ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ آپ کے لیے بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کھڑے ہو کر پڑھنا۔ امام مسلم اور ابو داؤد نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر آدمی کی نماز آدمی نماز ہے۔ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بیٹھ کر مرد کی نماز پڑھنا آدمی نماز ہے، حالانکہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔“ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ تم نے ٹھیک سنا ہے لیکن میں تم میں سے کسی کی مانند نہیں ہوں۔“

(حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۳۰)

”امام احمد نے بسند صحیح ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔ ان سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیا تم لوگ حضور کے عمل کے مانند عمل کرو گے؟ کیونکہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کے لیے نافع تھا“ یعنی ”آپ کو عمل کی احتیاج نہ تھی۔ جس طرح کہ ہم کو عمل کی احتیاج ہے۔ آپ کا عمل آپ کے لیے اول تا آخر اجر و ثواب میں زائد ہے۔“ (حوالہ:- ایضاً:)

”امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی (المتوفی ۴۵۸ھ) نے امام مجاہد سے ارشاد رب تبارک و تعالیٰ ”وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ“ (پارہ: ۱۵، سورہ بنی اسرائیل، آیت: ۷۹) ترجمہ:- ”اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔“ کے تحت روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفارہ ذنوب (یعنی گناہ کے کفارہ) میں نافلہ ادا نہیں فرماتے تھے جیسا کہ ہم اور تم جو نوافل ادا کرتے ہیں وہ کفارہ ذنوب کے لیے کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرائض میں خلل اور نقصان راہ پاتا ہی نہیں کیونکہ آپ معصوم ہیں۔“ (خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۳۱)

الحاصل! عمل کے معاملہ میں امتی کبھی بھی اپنے نبی سے برابری نہیں کر سکتا۔ تو جب امتی نبی سے برابری نہیں کر سکتا تو نبی سے بڑھ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی سے مساوات اور نبی سے بڑھنا تو بہت دور کی بات ہے بلکہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی اپنے درجات و مراتب میں منفرد اور یگانہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ:-

”حضورِ اقدس کی ازواجِ مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں“

قرآن مجید میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ:-

”يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ“

⊙ = پارہ: ۲۱، سورۃ الاحزاب، آیت: ۳۴ = ⊙

ترجمہ:- ”اے نبی کی بی بی یہ! تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو“

(کنز الایمان)

تفسیر:- ”تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے اور تمہارا اجر سب سے

بڑھ کر۔ جہاں کی عورتوں میں کوئی تمہاری ہمسر نہیں۔“

(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۷۶۰)

اس آیت کریمہ میں صاف صاف ارشاد فرمایا ہے کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس ازواجِ مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں۔ ازواجِ مطہرات کو یہ شرف کسی اور فضل و کمال کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ تمام ازواجِ مطہرات کو اُمتی کی ہی حیثیت حاصل تھی۔ کسی کو بھی نبوت کے منصب پر فائز نہیں کیا گیا تھا۔ اُن اُمتی خواتین مقدسہ کو صرف حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زوجیت کا علاقہ اور رشتے کی نسبت ہو جانے کی وجہ سے وہ بلند مرتبہ حاصل

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ہوا کہ امتی ہونے کے باوجود وہ تمام جہاں کی عورتوں سے مرتبہ میں افضل و اعلیٰ ہو گئیں۔ اس امت کی قیامت تک ہونے والی تمام عورتوں میں سے کسی ایک کو بھی ازواج مطہرات سے درجے اور مرتبے میں ہمسری یا برتری حاصل نہیں۔ اگر کسی عورت نے ازواج مطہرات کے ساتھ ہمسری برتری کا دعویٰ کیا تو اس کا صاف مطلب یہی ہوا کہ اس نے قرآن مجید کے اس ارشاد کا کھلم کھلا خلاف کیا۔ تو جو لوگ امتی ہونے کے باوجود اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمسری اور برتری کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ قرآن مجید کے ارشاد کی موافقت کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں؟ اس کا فیصلہ خود قارئین کرام فرمائیں۔

”حضورِ اقدس صورت بشری ہی میں دنیا میں کیوں تشریف فرما ہوئے؟“

یہاں تک کے مطالعے سے یہ حقیقت ظاہر ہو چکی ہے کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”سراپا نور“ ہی تھے۔ نور سے ہی آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور آپ بے مثل و مثال ”نوری بشر“ کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صورت بشری ہی میں دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ نوری کیفیت یا بشکل فرشتہ کیوں تشریف نہ لائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نوری کیفیت یا صورت ملائکہ میں بھی بھیج سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صورت بشری میں ہی کیوں بھیجا؟

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ”حکیم“ ہے۔ عربی زبان کا ایک مشہور و معروف مقولہ ہے کہ ”فعل الہی کہ لا یخل علی العکفہ“ یعنی ”حکیم کا کوئی بھی کام حکمت

سے خالی نہیں ہوتا۔“ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صورت بشری میں بھیجنے میں کیا حکمت الہیہ تھی؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں:-

(۱) پہلی بات یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اعظم اور محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف ”نوری کیفیت“ کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہوتا اور اپنے محبوب کی نوری تجلیوں کو بشری جامہ میں مستور نہ فرمایا ہوتا اور صرف ”نور بسین“ کی کیفیت کے ساتھ جلوہ نما فرمایا ہوتا، تو کسی کی بھی طاقت و صلاحیت نہ ہوتی کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مقدس تُوْرِّیْنُ نُورِ اللّٰہِ والی کیفیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ بلکہ آپ کے نورِ انور کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہوتا۔ جب ہم آسمان میں درخشاں سورج کو ایک منٹ کے لیے بھی اپنی آنکھیں اس پر جما کر دیکھ نہیں سکتے اور سورج کی طرف نگاہ کرتے ہی ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ تو سورج بھی جن کا طفیلی ہے اور جن کے نور کے صدقہ میں سورج کو بھی روشنی ملی ہے، اس ذات گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو بغیر کسی حجاب کے عیاں نہ دیکھنا کسی بھی طرح ممکن ہی نہیں تھا۔“

(۲) ”حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے بارگاہِ الہی میں ایک مرتبہ عرض کی کہ:- ”قَالَ رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرَ إِلَيْكَ“ ترجمہ:- ”عرض کی اے رب میرے! مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔“ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي“ حضرت موسیٰ کی عرض پر ارشاد باری ہوا کہ ”فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔“

اس ارشادِ ربانی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کوئی بھی انسان اپنی فانی آنکھ سے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ الحاصل! اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا کہ تم بلا واسطہ میرے نور کا جلوہ نہیں دیکھ سکو گے لہذا اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ لہذا اس پہاڑ نے میرے نور کی

تجلی برداشت کر لی اور اپنے مقام پر قائم رہا تو عنقریب تم میرے دیدار سے مشرف ہو سکو گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور مقدس کی ایک تجلی کو ہر طور پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں ہے کہ **فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكَاةً وَخَرَّمَ مُوسَىٰ صَعِقًا** ترجمہ:- پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش۔“

(حوالہ:- پارہ: ۹، سورۃ الاعراف، آیت: ۱۲۳، ترجمہ از:- کنز الایمان)

اور اہل سابقہ میں ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور مقدس سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ تو حضور کا نور درحقیقت اللہ کا نور ہے۔ سورۃ الاعراف کی مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ کے نور کو بالمشافہ (Face to Face) نہیں دیکھا تھا مگر اس تجلی نور الہی کو دیکھا تھا جو کوہ طور پر گری تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جیسے جلیل القدر نبی و رسول بھی اس نور کی تاب نہ لاسکے اور **وَخَرَّمَ مُوسَىٰ صَعِقًا** یعنی ”حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔“ جب اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم المرتبت نبی و رسول بھی اللہ کے نور کو بالمشافہ نہ دیکھ سکے، تو عام انسانوں میں اتنی تاب کہاں کہ وہ اللہ کے محبوب کے نور کو رو بردار اور آمنے سامنے ہو کر دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم کا نور جس کا مادہ اور منبع ”نور اللہ“ ہے۔ اس نور کو اپنے سر کی آنکھوں سے بالمشافہ دیکھنا عام انسانوں کے لیے محال و ناممکن تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو بشری جامہ پہنا کر اور بشریت کے حجاب میں مستور فرما کر اس دنیا میں بھیجا۔

(۳) اب ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو انسانی جسم کا جامہ پہنا کر ہی کیوں بھیجا؟ اور بصورت فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟

اس سوال کا اطمینان بخش جواب حاصل کرنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ قرآن شریف میں ہے کہ:-

”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“

(پارہ: ۲۷، سورۃ الذاریات، آیت: ۵۶)

ترجمہ:- ”اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔“

(کنز الایمان)

اس آیت میں فرمان الہی ”میری بندگی کریں“ کی تفسیر میں ہے کہ ”اور میری معرفت حاصل ہو۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۹۳۱) یعنی بندگی کے ذریعے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی شناخت، پہچان، واقفیت اور خدا شناسی حاصل ہو۔ لیکن انسانوں کو اللہ کی بندگی کرنے کی راہ دکھانے کے لیے اور بندگی کی راہ پر گامزن کر کے، بندگی کی رغبت اور شوق دلانے کے لیے انبیائے کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھیجے۔ انبیاء و مرسلین کو انسانوں کے درمیان اور انسانوں کی رہبری و ہدایت کے لیے انسانوں ہی کی شکل و صورت میں بھیجا۔ اگر انبیاء و مرسلین کو انسانوں کے بجائے فرشتوں کی شکل و صورت میں بھیجا گیا ہوتا تو عوام الناس ان سے گھبرا گئے ہوتے اور ان سے قرب و نزدیکی حاصل کرنے میں خوف و ڈر محسوس کرتے۔ جیسا کہ:-

(۴) ”حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، طاہرہ و طیبہ، حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کے ہونے والی ولادت اطہر کی اطلاع دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرت مریم کے پاس بھیجا، تب حضرت جبرئیل کو فرشتے کی صورت میں نہیں بلکہ انسان کی شکل و صورت میں بھیجا۔ قرآن مجید میں ہے کہ ”فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا“ (پارہ: ۱۶، سورۃ مریم، آیت: ۱۷) ترجمہ:- ”تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی (روح الامین) بھیجا۔ وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔“ (کنز الایمان)

اگر حضرت جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی اصلی صورت میں حضرت مریم کے پاس گئے ہوتے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھبرا گئی ہوتی۔ کیونکہ حضرت جبرئیل کی اصلی صورت

martat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کے متعلق احادیث کریمہ میں وارد ہے کہ:-

⑤ "شخصین نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ "رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل کو ان کی اصلی صورت میں دو مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت جبرئیل آسمان سے زمین کی طرف اتر رہے ہیں اور ان کے وجود عظیم نے زمین اور آسمان کو گھیر لیا ہے"۔ امام احمد نے حضرت عائشہ سے جو روایت کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ "حضرت جبرئیل سُندی (ریشمی) لباس میں ملبوس تھے جس پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے تھے۔"

⑥ "ابوالشیخ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "میں نے حضرت جبرئیل کو دیکھا کہ ان کے چہ سو بازو (پر) موتیوں کے تھے اور انہوں نے مور کی مانند اپنے بازوؤں کو پھیلا یا ہوا تھا۔"

⑦ "ابوالشیخ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو سبز خلتے (بہشتی لباس) میں دیکھا۔ اس وقت انہوں نے زمین اور آسمان کو گھیر لیا تھا۔"

(مندرجہ ذیل روایات:- بحوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد ۱، ص: ۲۷۶)

حضرت سیدنا جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اصلی شکل و صورت اور ہیئت و کیفیت دیکھ کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھبرانہ جائیں اس لیے حضرت جبرئیل کو ان کے پاس انسان (بشر) کے روپ میں بھیجا گیا۔ اور حضرت جبرئیل نے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے "صورت بشری" اختیار فرمانے کی وجہ سے حضرت جبرئیل کی حقیقت ملائکہ اور صفت فرشتہ ختم نہ ہوگئی بلکہ قائم و برقرار رہی۔ ان کا صورت بشری اختیار کرنا ایک مشن کے تحت اور عارضی طور پر تھا۔ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی پاک دامن عابدہ،

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

زاہدہ، طیبہ، طاہرہ بندی کو اللہ تعالیٰ کا صرف ایک پیغام پہنچانے کے لیے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے صورت بشری اختیار فرمائی۔ اسی طرح ہمارے تمہارے جیسے بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ایک نہیں بلکہ لاکھوں پیغام و فرمان پہنچانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صورت بشری اختیار فرمائی۔ قرآن مجید کی ہزاروں آیات اور لاکھوں کی تعداد میں احادیث کریمہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے فرامین عالیہ ہم تک پہنچانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان صورت بشری میں تشریف لائے۔ جس کا مطلب برتری نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ”حقیقت نور“ ختم ہوگئی اور آپ معاذ اللہ عام انسانوں کی کیفیت میں متبدل ہو گئے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ”حقیقت نور محمدیہ“ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نور انور کی نوری تابانی اور درخشانی سے ہماری آنکھوں کو خیرہ ہونے سے بچانے کے لیے اس فانی دنیا کے قیام کے قلیل عرصہ تک کے لیے عارضی طور پر لباس بشری اختیار فرمایا تھا۔

(۵) علم نفسیات (Psychology) کا دستور ہے کہ ہر ذی روح مخلوق اپنے

ہم جنس کا اعتماد کرتی ہے اور اپنی ہم جنس مخلوق سے مانوس ہو کر اس کی طرف راغب اور مائل ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں وہ اپنے ہم جنس کی بات کو اچھی طرح سمجھ کر قابل اقتدار سمجھتی ہے۔ مثلاً آدمی آدمی کی اور جانور جانور کی پیروی کرتا ہے۔ حالانکہ کنبہ، گھرانہ، قوم، حسب، نسب، نسل، خاندان، برادری، رنگ، روپ، قد، قامت، پیشہ، کاروبار، زبان، زمین، سہن، طور طریقہ، علاقہ، صوبہ، ملک وغیرہ کے اعتبار سے عالم انسانی متفرق النوع ہونے کے باوجود بنی آدم اور نوع انسانی میں شمولیت کی وجہ سے آدمی اور انسان ہی کہے جاتے ہیں۔ اور انسان ہونے کے ناطے ان میں انسانوں سے انس اور اعتبار کا فطری مادہ ہوتا ہے۔ ہر انسان انسانیت کے دائرہ میں محدود رہ کر تہذیب و اخلاق کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے انسان کو اپنے ہم جنس انسان سے بیک قدرتی ایگا اور انس ہوتا ہے۔ اور

پوری نوع انسانی کی ہدایت، رہبری اور بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انسان (بشر) کی شکل و صورت میں انسانوں کے درمیان بھیجا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّنَاسٍ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

(پارہ: ۲۲، سورہ سبأ، آیت: ۲۸)

ترجمہ:- ”اور اے محبوب! ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے۔ خوشخبری دیتا اور ڈر سنا تا لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔“ (کنز الایمان)

تفسیر:- ”اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے۔ تمام انسان اس کے احاطے میں ہیں۔ گورے ہوں یا کالے، عربی ہوں یا عجمی، پہلے ہوں یا پچھلے، سب کے لیے آپ رسول ہیں اور وہ سب آپ کے امتی ہیں۔ آپ کی رسالت تمام جن وانس کو شامل ہے اور آپ تمام خلق کے رسول ہیں اور یہ مرتبہ خاص آپ کا ہے۔“

(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۷۷۶)

مذکورہ آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ تمام نوع انسان کے لیے نبی و رسول بن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں صورت بشری میں تشریف لے آئے۔ اگر آپ انسان کے بجائے فرشتہ کی صورت میں تشریف لاتے اور بحیثیت فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری دیتے اور اللہ کے عذاب سے ڈرا کر لوگوں کو صراطِ مُسْتَقِيم کی طرف بلاتے تو آپ کی دعوت حق و صداقت اثر پذیر نہ ہوتی کیوں کہ لوگ ہی

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کہتے کہ وہ فرشتہ ہیں اور انسانی فطرت سے منزہ ہیں لہذا وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتے ہیں اور عبادت و ریاضت و اعمالِ حسنة کی طرف راغب ہو کر منہیات و گناہوں سے بچ سکتے ہیں، یہ کام وہ فرشتہ ہونے کی وجہ سے ہی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں لیکن ہم تو انسان ہیں۔ یہ کام ہمارے بس میں نہیں۔ ہم ان کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کر سکتے کیونکہ انسان ہونے کی وجہ سے نفس ہمارے پالے پڑا ہوا ہے اور نفس کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی وجہ سے ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتے۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم "صورت بشری" میں اس دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو باور کر دیا کہ میں ایک انسان ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بجالا سکتا ہوں اور احکام الہیہ کی پابندی کر سکتا ہوں، تو اے لوگو! تم بھی انسان ہونے کے ناطے میری اطاعت و پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کر سکتے ہو۔

(۶) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بصورت فرشتہ دنیا میں تشریف نہ

لائے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کفار و مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں

اور اللہ کا جز قرار دیتے تھے۔ قرآن شریف میں ہے کہ **وَجَعَلُوا لَهُ**

مِنْ عِبَادِهِ جُزًا اِذَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورًا مُّبِينًا ۝ اَمْ اتَّخَذَ مِمَّا

يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَّ اَصْفَكُمْ بِالْبَنِينَ ۝

(پارہ: ۲۵، سورۃ الزخرف، آیت: ۱۵، ۱۶)

ترجمہ:- اور اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا ٹھہرایا، بے شک آدمی کھلا

ناشکر ہے۔ کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لیں اور

تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا؟ (کنز الایمان)

۔۔۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ "کفار نے اس اقرار کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور

زمین کا خالق ہے یہ ستم کیا کہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بتایا اور اولاد صاحب اولاد کا جز (حصہ) ہوتی

ہے۔ ظالموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جز قرار دیا، کیسا عظیم جرم ہے۔

(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۸۸۱)


ایک اور مقام پر ہے کہ **اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيَسْمُوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ**

تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ (پارہ: ۲۷، سورۃ النجم، آیت: ۲۷) ترجمہ: ”بے شک وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ملائکہ کا نام عورتوں کا سار رکھتے ہیں۔“ (کنز الایمان)۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ ”انہیں (فرشتوں) کو خدا کی بیٹیاں بتاتے ہیں۔“

(حوالہ: تفسیر خزائن العرفان، ص: ۹۵۰)

اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ”نور“ کو لباس بشری میں مستور کرنے کے بجائے لباس ملائکہ کے پردے میں چھپا کر دنیا میں تشریف لاتے اور آپ کی رات رات بھر کی طویل عبادت و ریاضت اور احکام الہیہ کی سخت پابندی، منہیات سے اجتناب، افعال رذیلہ و قبیحہ سے کنارہ کشی وغیرہ محاسن اور علاوہ ازیں آپ کی حیرت انگیز معجزات کا ظہور پذیر ہوتا، ان تمام براہین و دلائل کو دیکھ کر کفار اور مشرکین یہی کہتے کہ اس میں حیرت و تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ نبی فرشتہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں لہذا وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور ایک دوسرا امکان یہ تھا کہ آپ کے معجزات عظیمہ کو دیکھ کر کفار و مشرکین آپ کی پرستش کرنے لگتے۔ لہذا شرک کا سد باب فرمانے کے لیے اور توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے آپ ”صورت بشری“ میں اس دنیا میں تشریف لے آئے۔

(۷) اب ایک پیچیدہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ سبأ کی آیت ۲۸ کی تفسیر میں ہے کہ ”آپ کی رسالت تمام جن و انس کو شامل ہے“۔ تو جب آپ تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جنات (Jins) کے بھی رسول ہیں تو آپ بشکل و صورت انسان ہی کیوں تشریف لائے۔ جنات میں سے کیوں نہیں آئے؟ اس کا آسان اور عام فہم جواب یہ ہے کہ انسانوں کے مقابلہ میں جنات بہت ہی طاقت اور تصرف والی مخلوق ہے۔ علاوہ ازیں وہ ایسی مخلوق ہے جو پوشیدہ رہنے کی وجہ سے عام طور پر نظر نہیں آتی۔ آدمی ہمیشہ جنات سے خائف اور خوفزدہ رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مکان کا سودا کر رہا ہو اور اس مکان کی سہولتوں کو مد نظر رکھ کر بازار کی قیمت سے بھی زیادہ دام دے کر مکان خریدنے کا عزم و ارادہ رکھتا ہو۔ لیکن اگر اسے یہ



<http://theTehqiqat>

marfat.com

نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا، تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔“ (کنز الایمان)۔ احادیث کریمہ میں کثرت سے ایسی روایات وارد ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں قوم جنات کے گروہ درگروہ حاضر ہوتے تھے، آپ کے دست حق پرست پر ایمان لاتے تھے اور اسلامی احکام کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ المختصر! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صورت بشری میں تشریف لائے تو انسانوں اور جناتوں دونوں مخلوق نے فائدہ حاصل کیا۔ اگر حضور اقدس بشکل جنات تشریف لاتے تو صرف جنات ہی بہرہ مند ہوتے اور انسان فیض سے محروم رہ جاتے۔

◎ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں صورت بشری میں دنیا میں تشریف لائے اس گفتگو کا حاصل :-

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا کے قیام کے دوران صورت بشری اختیار فرما کر لوگوں کو توحید و رسالت دونوں کی سچی معرفت اور صحیح تفہیم کرا دی۔ صورت بشری اختیار فرما کر لوگوں کو باور کرا دیا کہ اے لوگو! نہ تو میں فرشتوں میں سے ہوں اور نہ ہی جناتوں میں سے ہوں بلکہ انسانوں میں سے ہوں۔ ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح انسان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے ایسا تصرف اور اختیار عطا فرمایا ہے کہ انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہوں، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا سکتا ہوں، اپنی انگلیوں سے پانی کے دریا جاری کر سکتا ہوں، موت کی آغوش میں لیٹے ہوئے مردے کو پھر زندہ کر سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ قادرِ مطلق نے مجھے ایسی قدرت و قوت عطا فرمائی ہے کہ ایسی قدرت و قوت عام انسان میں ہونا محال و ناممکن ہے۔ آدمی ہونے میں تم جیسا ہونے کے باوجود میں ایسے خوارقِ عادات تصرفات کا حامل ہوں کہ وہاں تک کسی انسان کی رسائی نہیں۔ لیکن خوب یاد رکھو کہ میں خدا نہیں ہوں کیونکہ **آنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** یعنی

”ظاہری صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں“۔ انسان ہونے کے ناطے میں خدا ہرگز نہیں ہوں بلکہ خدا کا بندہ ہوں۔ ایسا بندہ ہوں جسے نبوت و رسالت کے تاج کرامت و عنایت سے سرفراز فرمایا گیا ہے۔ لہذا:-

اے لوگو! ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کو خوب اچھی طرح یاد رکھ کر مجھے خدا مت کہنا اور ”يُوحىٰ إِلَيَّ“ کی میری فضیلت و خصوصیت کو فراموش کر کے مجھے اپنے جیسا عاجز بشر بھی مت کہنا۔ میری بشریت تمہاری طرح عام بشریت نہیں بلکہ بے مثل و مثال نوری بشریت ہے کیونکہ ”أَنَا نُورٌ مِّنْ نُورِ اللَّهِ“ یعنی ”میں اللہ کے نور سے ایک نور ہوں“ اور اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے لہذا ”أَلَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ“ یعنی ”میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں“ اور ”أَيْكُمْ مِثْلِي“ یعنی ”تم میں سے کون میری مثل ہے“۔

الحاصل! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالق کائنات جن جلالہ کے ایسے معظم و مکرم بندے تھے کہ ان جیسا کوئی بندہ نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ بقول:-

لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا
خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے

(از:- امام عشق و محبت رضا بریلوی)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے نوری بشر تھے کہ آپ کے ساتھ کسی بھی بشر کا تقابل نہیں کیا جاسکتا۔ بقول:-

انسان کی سر تا بہ قدم شان ہیں یہ
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں
ان سائیں انسان وہ انسان ہیں یہ
ایمان یہ کہتا ہے، میری جان ہیں یہ

(از:- امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی)

بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رتبہ و مرتبہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بقول:-

”خدا کہتے ہیں بنتی، بشر کہتے نہیں بنتی :- خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو“

◎ ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوری بشر تھے، لہذا آپ کے اور آپ کے امتیوں کے لیے شریعت کے احکام بھی الگ الگ تھے“

جیسا کہ ہم نے اوراق سابقہ میں عرض کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تین کیفیتیں تھیں (۱) صورت بشری (۲) صورت حقیقی اور (۳) صورت ملکی۔ ان تینوں کیفیات میں سے دوسری اور تیسری کیفیت یعنی صورت حقیقی اور صورت ملکی کی حقیقت تو درکنار بلکہ آپ کی صورت بشری کو بھی ہم سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہیں۔ آپ کی صورت بشری بھی حقیقتاً نوری بشریت ہونے کی وجہ سے بے مثل و مثال تھی۔ آپ کے جسم اطہر کے خصائص کا مختصر تذکرہ ”حضور اقدس کی تابناک اور درخشاں نوری بشریت اور صورت بشری کے اعجاز و کمالات“ کے عنوان میں اوراق سابقہ میں کیا گیا ہے۔ آپ ایسے بے مثل و مثال ”نوری بشر“ تھے کہ آپ کے لیے شریعت کے احکام بھی جدا گانہ تھے۔ ان احکام کے فرق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اور امتی کبھی بھی مساوی نہیں ہوتے بلکہ نبی کی شان اتنی ارفع و اعلیٰ ہے کہ وہاں تک کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ذیل میں ہم چند ان شرعی احکام کا ذکر کرتے ہیں، جن میں نبی اور امتی کے لیے الگ الگ حکم ہے۔

◎ کلمہ شریف کا فرق:-

تمام مسلمان امتی ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس کلمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ”نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔“

لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ“ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ”نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور میں اللہ کا رسول ہوں“ نبی اور امتی کے کلمے میں اتنا عظیم فرق ہے کہ اگر کوئی امتی وہ کلمہ پڑھے، جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ ہے، تو وہ امتی کافر ہو جائے گا اور اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔

کیونکہ کئی رَسُولُ اللہ سے اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔

◎ ارکان اسلام کا فرق :-

ہر مسلمان امتی کے لیے ارکان اسلام پانچ ہیں۔ (۱) کلمہ (۲) نماز (۳) روزہ (۴) زکوٰۃ اور (۵) حج۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے چار ارکان ہیں۔ آپ پر ”زکوٰۃ“ فرض نہیں۔ مزید تفصیل کے لیے فتاویٰ شامی، کتاب الزکوٰۃ ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں اس سلسلہ کے کچھ حوالے معتمد و معتبر و مستند کتابوں سے پیش خدمت ہیں۔

◎ ”شاذلی طریقہ کے شیخ الصوفیہ، شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ”التنویہ“ میں فرمایا ہے کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ اور ان کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی۔ وہ صرف اس کی شہادت دیتے ہیں جو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کے لیے ودیعت فرمائے۔ وہ مختلف اوقات میں وہی خرچ کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ خرچ کراتا ہے اور اس کو اس کے محل کے سوا میں خرچ کرنے سے باز رکھتے ہیں۔ انبیائے کرام پر زکوٰۃ واجب نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں پر واجب ہوتی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کر کے طہارتِ مال حاصل کر کے ان لوگوں میں سے ہو جائیں جنہوں نے طہارت و پاکیزگی حاصل کر لی ہے اور انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی عصمت کی وجہ سے ناپاکی سے پاک اور منزہ ہیں۔“

(بحوالہ :- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد ۲، ص: ۵۱۶)

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

◎ نماز کی فرضیت کا فرق :-

مسلمان امتی پر (۱) فجر (۲) ظہر (۳) عصر (۴) مغرب اور (۵) عشاء کل پانچ وقت کی نماز فرض ہے، جب کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے چھ وقت کی نماز فرض تھی۔ قرآن شریف، پارہ: ۱۵، سورہ بنی اسرائیل، آیت: ۷۹، "وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ" ترجمہ: "اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔" (کنز الایمان) اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز کی فرضیت کا ذکر ہے۔ علاوہ ازیں :-

◎ "امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی (المتوفی ۳۶۰ھ) نے اپنی مشہور کتاب "معجم اوسط" میں اور امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی (المتوفی ۴۵۸ھ) نے "سنن کبریٰ" میں ام المؤمنین، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ "تین چیزیں ایسی ہیں جو مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لیے سنت ہیں۔ (۱) وتر (۲) مسواک اور (۳) نماز تہجد۔"

(حوالہ: - (۱) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۴۹۲)

(۲) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۵۸)

◎ بیٹھ کر امامت نماز فرمانا :-

بہسن ہمیشہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ فرض نماز میں قیام فرض ہونے کی وجہ سے امام اور مقتدی سب کھڑے ہو کر ہی باجماعت فرض نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر امام صاحب نے بیٹھ کر نماز کی امامت کی تو قیام کا فرض ترک ہونے کی وجہ سے امام و مقتدی کسی کی بھی نماز نہ ہوگی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ آپ نے لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے اور

marfat.com

Handwritten text in Urdu script, appearing as dark ink on a light background. The text is somewhat obscured by heavy shadows and noise, but it seems to be a continuous passage of prose or poetry.

Handwritten text in Urdu script, continuing from the previous section. It contains several lines of text, with some words appearing to be in a different script or dialect. A faint watermark "http://www.tme.org" is visible across the text.

Handwritten text in Urdu script, possibly a concluding paragraph or a separate section. It includes some lines that are partially cut off at the bottom of the page.

marfat.com

”صوم وصال“ (مسلسل روزے) رکھا کرتے تھے اور دوسروں کو صوم وصال سے منع فرمایا کرتے تھے۔“

(حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۱۳)

”امام بخاری اور امام مسلم نے اُمّ المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ دو نمازیں ایسی تھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر و باطن کسی حال میں ترک نہ فرمایا کرتے تھے، وہ دو رکعتیں قبل نماز فجر اور دو رکعتیں بعد نماز غسر ہیں۔“

(حوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۱۳)

◎ سو جانے (نیند) سے حضور اقدس کا وضو نہیں ٹوٹتا:-

علم فقہ یعنی شریعت کے قوانین کا مشہور مسئلہ ہے کہ سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سو جانا یعنی غفلت کی نیند (Sleeping) نواقض وضو میں سے ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو سو جانے کے باوجود بھی نہیں ٹوٹتا۔ کیونکہ حالت نیند میں بھی آپ کا قلب اطہر (مبارک دل) بیدار رہتا ہے جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ”الْقَلْبُ يَنْبَأُ وَالْقَلْبُ يَحْظُنُ“ یعنی ”آنکھ سوتی ہے اور دل بیدار ہوتا ہے۔“ ایک مزید حوالہ پیش ہے:-

”امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات میں وضو فرمایا اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ سو گئے۔ یہاں تک کہ میں نے خرخراہٹ (تیز سانس لینے) کی آواز سنی، اس کے بعد مؤذن آیا اور آپ اٹھ کر نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وضو نہیں فرمایا۔“ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں:-

”امام محمد بن ماجہ تزویجی التوفیٰ ۳۷۳ھ اور امام ابو یعلیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے لیٹ کر سو جایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگتی تھی۔ پھر آپ اٹھ کر نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ اس کی علت یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں سوتیں اور آپ کا دل بیدار رہتا تھا۔“

(دونوں روایات بحوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۲۲)

☆ بیک وقت نکاح میں عورتوں کی تعداد کا فرق:-

ایک مسلمان مرد بیک وقت زیادہ سے زیادہ چار عورتیں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ "فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنِي وَثُلَّةً وَرُبْعًا. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً" (پارہ: ۴، سورۃ النساء، آیت: ۳) ترجمہ:- "تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں۔ دو دو اور تین تین اور چار چار۔ پھر اگر ڈرو کہ دو بی بیوں کو برابر نہ رکھ سکو گے، تو ایک ہی کرو۔" (کنز الایمان)۔ اس آیت سے مسلمان مرد کو بیک وقت زیادہ سے زیادہ چار عورتیں اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے، چار سے زیادہ رکھنا حرام ہے۔

لیکن! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بیک وقت چار سے زیادہ عورتیں اپنے نکاح میں رکھنا مباح تھا۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَفْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَجُورَهُنَّ" سے لیکر "خَالِصَةً لَّكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" (پارہ: ۲۲، سورۃ الاحزاب، آیت: ۵۰) ترجمہ:- "اے نبی بتانے والے (نبی) ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائیں تمہاری وہ بیبیاں جن کو تم مہر دو۔" تا "یہ خاص تمہارے لیے ہے، امت کے لیے نہیں۔" میں صاف وضاحت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے امتی کی طرح بیک وقت چار عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنے کی قید نہیں بلکہ چار سے بھی زیادہ ازواج رکھنا آپ کے لیے مباح ہے۔

تفسیر میں ہے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازواج کا نصاب

نو (Nine) ہے جیسے کہ امت کے لیے چار ہے۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۷۶۶)

☆ صدقہ اور زکوٰۃ کا مال حضور پر اور حضور کی آل پر حرام ہے:-

ایسا حاجت مند مسلمان کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، اس کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ کا مال کھانا جائز ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر ہر حالت میں حرام ہے۔

”حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے غلاموں پر اور آپ کی آل کے غلاموں پر حرام ہے۔“
امام مسلم نے مطلب بن ربیعہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:- “بلاشبہ یہ صدقات لوگوں کی کثافت اور میل ہیں اور یہ صدقات محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اور آل محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے لیے حلال نہیں کیے گئے۔“

”ابن سعد نے حسن سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے اہل پر صدقہ حرام کیا ہے۔“
”ابن سعد نے عبد الملک بن مغیرہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:- “اے عبد الملک کی اولاد! بلاشبہ صدقہ لوگوں کا میل ہے۔ تو تم نہ اسے کھاؤ اور نہ اس پر عامل بنو۔“

(چاروں روایات بحوالہ:- خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۰۱، اور ۵۰۲)

☆ اُمتی کی بیوہ عورت کا نکاح ثانی:-

اُمتی کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ عورت عدت کے بعد دوسرے کسی سے نکاح کر سکتی ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات دائمی طور پر کسی سے نکاح نہیں کر سکتیں۔

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

عام مسلمان امتی کے لیے تو قرآن میں یہ حکم ہے کہ:-

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

(پارہ: ۲، سورۃ البقرہ، آیت: ۲۳۳)

ترجمہ:- ”اور تم میں جو مریں اور بیویاں چھوڑیں، وہ چار مہینے اور دس دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔“ (کنز الایمان)

تفسیر:- ”جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت چار ماہ، دس روز ہے۔ اس مدت میں وہ نکاح نہ کرے۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۲۸)

یعنی عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ کسی اور سے نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ لیکن:-

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے قرآن مجید میں یہ حکم

نافذ فرمایا گیا ہے کہ ”وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ
مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا“ (پارہ: ۲۲، سورۃ الاحزاب، آیت: ۵۳) ترجمہ:- ”اور تمہیں نہیں بہو چھتا

کہ رسول اللہ کو ایذا دو اور نہ ان کے بعد کبھی ان کی بی بیوں سے نکاح کرو۔“ (کنز الایمان)
اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ”کیونکہ جس عورت سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقد
فرمایا، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا ہر شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔“

(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۷۶۸)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن مسلمانوں

کی مائیں (اُمّ المؤمنین) ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ ”الْنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ“ (پارہ: ۲۱، سورۃ الاحزاب، آیت: ۶) ترجمہ:- ”یہ نبی

مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔“
(کنز الایمان)۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ ”نبی مؤمنین پر ان کی جانوں سے زیادہ

رافت و رحمت اور لطف و کرم فرماتے ہیں اور نافع تر ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ
سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر مومن کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ

اولی ہوں اور نبی کی بیبیاں مسلمانوں کی مائیں (Mothers) ہونے سے مراد تعظیم و حرمت میں اور ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہونے میں ہے۔“

(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۷۵۴)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات کو نکاح کرنے کی حرمت کی چند جوہات ہیں۔ مثلاً:-

(۱) عورت جنت میں اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ (حوالہ:- تفسیر نعیمی، جلد ۳: ص: ۳۶۱) لہذا ازواج مطہرات کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہمیشہ کے لیے کسی اور سے نکاح کرنا حرام ہے۔ جیسا کہ امام بیہقی اور حاکم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ اگر تم اس بات سے خوش ہو کہ جنت میں بھی تم میری بیوی رہو تو میرے انتقال کے بعد دوسرے سے نکاح نہ کرنا کیونکہ عورت اپنے اس شوہر کے ساتھ جنت میں ہوگی، جو دنیا میں اس کا آخری شوہر ہے۔

اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر حرام کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کریں تاکہ وہ ازواج جنت میں حضور اکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت کے شرف میں باقی رہیں۔“

(خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۴۱۲)

(۲) ”اس حرمت کی علت میں جو اقوال مذکور ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ازواج

مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ”امہات المؤمنین“ ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی مائیں ہیں

اور ماں کے ساتھ کسی بھی اولاد کا، کسی بھی حال میں نکاح جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔“

(۳) ”ایک وجہ حرمت کی یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں

زندہ اور حیات ہیں اور کسی بھی زندہ شخص کی منکوحہ سے کسی اور کا نکاح کرنا حرام

ہے۔ اسی لیے بعض محدثین کرام نے حضور اقدس کے بعد ازواج مطہرات کے

نکاح کی حرمت میں ایک روایت بھی بیان کی ہے کہ ان ازواج مطہرات پر وفات

کی عدت واجب نہیں ہے۔“ (حوالہ:- ایضاً)

○ اُمّی کی وراثت تقسیم ہوتی ہے جب کہ انبیائے کرام کی نہیں ہوتی:-

مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کے انتقال کے بعد اس کا مال اور اس کی جائیداد و ملکیت اس کے ورثاء پر شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم ہوتی ہے۔ قرآن شریف، پارہ: ۴، سورۃ النساء، آیت: ۱۱، ۱۲ "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ" کے حصص متعین فرمائے گئے ہیں لیکن یہ قوانین حصہ ترکہ و میراث اُمّیوں کے لیے ہیں۔ انبیائے کرام اور خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین، حضور اقدس، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ترکہ وراثت پر تقسیم نہیں ہوگا۔

○ "امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ابوداؤد اور امام نسائی نے امیر المؤمنین، اصدق الصادقین، امام المتقین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے ○ امام ابوداؤد نے امیر المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ اور حضرت زبیر بن العوام سے ○ امام احمد، امام بخاری، امام مسلم اور امام ابوداؤد نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں "إِنَّ مَقَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا تَرِثُ وَلَا نُورَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةٌ" - ترجمہ:- "ہم گروہ انبیاء وہ ہیں جو نہ کسی کی میراث لیتے ہیں اور نہ ہماری میراث کوئی لیتا ہے، جو کچھ ہم ترکہ چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔"

(حوالہ:- (۱) فتاویٰ رضویہ شریف، جلد: ۴، ص: ۴۵)

(۲) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۷۶

(۳) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۳۳

(۴) النبی الحجازی عن تکرار صلاۃ البعائر، از:- امام احمد رضا بریلوی

○ "شیخین نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں "میراث وراثت اور دینار کو آپس میں تقسیم نہ

کریں۔“ (خصائص کبریٰ اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۳۳)

◎ ”انبیائے مہرام کی عدم میراث کا معنی ومدار ان کی حیات ہے۔ خصوصاً سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ابدیہ اور میراث مرووں کی ہوتی ہے۔ نہ کہ زندوں کی۔“ (مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۷۱۱)

◎ ”اور ایک وجہ یہ کہ تمام انبیاء زندہ ہیں اور زندہ کی میراث نہیں ہوتی۔ اسی بناء پر امام الحرمین اس طرف گئے ہیں کہ ان کا مال ان کی ملک پر باقی ہے جو ان کی طرف سے ان کی اہل پر خرچ کیا جائے گا، جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات میں خرچ کیا کرتے تھے کیونکہ آپ زندہ ہیں۔“

(خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۳۳)

☆ حضور اقدس کا بول و براز اور خون پاک اور طاہر ہے:-

ہر انسان کا بول (Urine = پیشاب) براز (Faeces / پاخانہ) اور

دم (خون = Blood) اپنے اور دوسروں کے لیے ناپاکی کا حکم رکھتا ہے۔ ہمارے بدن سے نکلنے والی مذکورہ رطوبتیں نجاست کے حکم میں اور حرام ہیں۔ ان کو کھانا یا پینا حرام ہے۔ بلکہ ایسی نجس ہیں کہ انسان کے جسم سے اس کا خارج ہونا ناقص وضو ہے یعنی بدن سے ان اشیاء کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ“ (پارہ: ۶، سورۃ المائدہ، آیت: ۶) ترجمہ:- ”یا تم میں سے کوئی قضاے حاجت سے آیا۔“ (کنز الایمان)

خون (Blood) ہر جانور اور انسان کا حرام ہے، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ“ (پارہ: ۲، سورۃ البقرہ، آیت: ۱۷۳) ترجمہ:- ”اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون۔“ (کنز الایمان)

لیکن!!!

◎ ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کفہر شہداء اور شہداء کے کفہر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔“

حق میں پاک بلکہ باعث برکت ہیں کیونکہ آپ کے جسم اقدس سے جو کچھ بھی خارج ہوتا تھا وہ پاک تھا۔“ (دیکھو:- فتاویٰ شامی، باب الانجاس)

○ ”امام بیہقی نے بسندِ حسین بن علوان، ہشام و عروہ سے اور حاکم نے اپنی مستدرک میں اور دارقطنی نے ”الافراد“ میں محمد بن سلیمان باہلی کی سند سے ہشام بن عروہ کے واسطے سے حضرت اُمّ المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! میں نے آپ کو بیت الخلاء (Latrine) جاتے دیکھا۔ پھر آپ کے بعد میں گئی تو میں نے خارج ہونے والی چیز کا کوئی نشان نہ دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے عائشہ! تم نہیں جانتیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ انبیائے کرام سے جو فضلہ خارج ہو، وہ اسے کھا جائے۔“

(حوالہ:- (۱) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۴۹)

(۲) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۷۳)

● شیخ محقق، عاشق رسول، شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین میں شکاف (Split) پڑ جاتا اور زمین آپ کا بول و براز اپنے اندر سمو لیتی اور اس جگہ ایک خوشبو پھیل جاتی۔

● ایک صحابی سے مروی ہے کہ۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک سفر میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے ایک جگہ تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس تشریف لے آئے تو میں اس جگہ گیا جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فراغت فرمائی تھی۔ میں نے اس جگہ بول و براز کا کوئی نشان تک نہ دیکھا۔ البتہ چند ڈھیلے وہاں پڑے ہوئے تھے میں نے ان ڈھیلوں کو اٹھالیا تو ان میں سے نہایت لطیف و پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی۔“ (مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۴۹)

◎ خوشانصیب :-

کتب احادیث میں ایسے کئی واقعات مرقوم ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور اقدس، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بول شریف اور خون اقدس پی لیا۔ اس پر حضور اقدس نے انہیں نہ روکا، نہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، نہ منہ دھونے کا حکم صادر فرمایا اور نہ ہی آئندہ ایسا کرنے سے منع فرمایا بلکہ انہیں صحت یابی، تندرستی، بیماری سے محفوظ ہونے کی خوشخبری دی، صرف یہی نہیں بلکہ دخول جنت اور روزخ کی آگ سے نجات کی بشارت دی۔ چند واقعات حدیث پیش خدمت ہیں۔

◎ ”حضرت حسن بن سفیان اپنی مستند میں، ابو یعلیٰ، حاکم، دارقطنی سے اور ابو نعیم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔ حضرت ام ایمن رات کے وقت کا شانہ اقدس میں خدمت کے لیے رہا کرتی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تحت مبارک کے نیچے رات کے وقت ایک پیالہ جیسا برتن رکھ دیا جاتا تھا تاکہ اگر رات میں حاجت ہو تو اس میں بول شریف فرمادیں۔ ایک رات جب آپ نے اس میں بول مبارک فرمایا اور صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اس تخت کے نیچے ایک پیالہ ہے۔ اسے زمین کے سپرد کر دو۔ حضرت ام ایمن نے عرض کی، خدا کی قسم! رات میں مجھے پیاس معلوم ہوئی تو میں نے اسے پی لیا۔ اس پر حضور اقدس نے تبسم فرمایا اور نہ انہیں اپنا منہ دھونے کا حکم فرمایا اور نہ دوبارہ آئینا کرنے سے منع فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ ”اب تمہیں کبھی پیٹ کا درد لاحق نہ ہوگا۔“ (خوشانصیب)

(حوالہ :- (۱) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۵۰)

(۲) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۷۴

(۳) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۵۹

◎ ”امام اجل علامہ احمد بن محمد خطیب المصری القسطلانی اپنی معرکہ الآراء کتاب

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

”الْمَوَاهِبُ اللَّذْنِيَّةُ عَلَى الشَّائِلِ الْمُحَمَّدِيَّةِ“ میں اور امام جلیل قاضی ابوالفضل عیاض بن عمرو اندلسی (المتوفی ۵۴۲ھ) اپنی کتاب ”الشِّفَاءُ بِتَغْرِيفِ حُقُوقِ الْمُصْطَفَى“ میں روایت فرمایا کہ:-

ایک عورت تھی جس کا نام ”برکہ“ تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ بھی کا شانہ اقدس کی خدمت گزار کرتی تھیں۔ انہوں نے بھی ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بول شریف پی لیا تھا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”أَصْحَابَتِ يَا أُمَّ يُوسُفَ“ یعنی اے اُمّ یوسف (حضرت برکہ کی کنیت اُمّ یوسف تھی) تم ہمیشہ کے لیے تندرست بن گئیں اور کبھی بیمار نہ ہوگی۔ چنانچہ وہ عورت کبھی بیمار نہ ہوئی۔ بجز صرف اس بیماری کے جس میں اس نے دنیا سے کوچ کیا۔

بعض روایتوں میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کا بول شریف پی لیا تھا۔ تو اس کے جسم سے ہمیشہ خوشبو بہکتی رہی۔ حتیٰ کہ اس کی اولاد میں کئی نسلوں تک یہ خوشبو رہی۔“

(حوالہ:- (۱) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۵۰)

(۲) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۱۷۵

(۳) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۳۹)

”جنگ اُحد کے دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجروح (زخمی) ہوئے تو جلیل القدر صحابی حضرت ابوسعید خدری کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور اقدس کے زخموں کو اپنے منہ سے چوس کر زبان سے صاف کیا۔ ان کے منہ میں خون اقدس جمع ہو گیا لوگوں نے کہا کہ اپنے منہ سے خون باہر نکال دو۔ حضرت مالک بن سنان نے کہا کہ نہیں! خدا کی قسم! میں حضور اکرم کے مقدس خون کو زمین پر ہرگز نہیں گرنے دوں گا۔ چنانچہ وہ خون اقدس کو نگل گئے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے خون میں میرا خون شامل ہو جائے اسے آتش دوزخ نہیں چھو سکتی اور جو شخص خواہش رکھتا ہے کہ وہ کسی جنتی شخص کو دیکھے تو وہ انہیں یعنی مالک بن سنان کو دیکھ لے۔“

marfat.com

(حوالہ: - مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۵۰، اور جلد: ۲، ص: ۲۲۲،

خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۳۹)

© "دارقطنی نے اپنی سنن میں حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھینے لگوائے۔ (نصد لینا، گردن سے خون نکالنا) اور اپنے مقدس خون کو میرے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تاکہ وہ اس مقدس خون کو ایسی محفوظ جگہ پر ڈال دے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خون اقدس کو پی گئے۔ حضور اقدس نے میرے بیٹے سے پوچھا تم نے اس خون کا کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے مکروہ جانا کہ میں آپ کے مقدس خون کو کہیں ڈالوں لہذا میں نے اسے پی لیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا کہ لوگوں کا تم سے بھلا ہوا اور تم کو لوگوں سے بھلا ہو۔"

(حوالہ: - (۱) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۳۸

(۲) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۵۰)

نوٹ:- حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور اُمّ

المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی

اللہ تعالیٰ عنہا کا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی کے صاحبزادے

حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا شمار "عشرہ مبشرہ" میں ہوتا ہے اور

جن کا لقب "حواری رسول" ہے، ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ اور ان کے صاحبزادے

کا نام "عبداللہ بن زبیر" تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک خون پی

لینے سے ان میں ایسی قوت، مردانگی، شجاعت اور بہادری پیدا ہو گئی تھی کہ انہوں نے

سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل یزید علیہ السلام کی بیعت کرنے سے انکار فرما دیا

www.ataunnabi.com

کے لوگ آ کر جمع ہوئے۔ عبدالملک بن مروان کے عہدِ امارت میں ظالم حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کر کے دار (سولی) پر کھینچا۔

① ”ابن حبان“ نے الضعفاء“ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قریشی جوان سے کچھ لگوائے۔ جب وہ جوان کچھ لگانے کے کام سے فارغ ہوا تو وہ خون اٹھا کر لے گیا اور اسے پی گیا۔ اس کے بعد جب وہ آیا تو حضور نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا تیرا بھلا ہو، تو نے کیا کیا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اسے زمین میں بہانے سے بہتر جگہ رکھ دیا ہے اور وہ میرے پیٹ میں ہے۔ حضور نے فرمایا جا! تو نے اپنے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا۔“ (خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۲۸)

② ”شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

”یہ حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بول اور دم (خون) طیب و طاہر ہے۔ اور اسی قیاس پر آپ کے تمام فضلات شریف کا حکم ہے۔ صحیح بخاری شریف کے شارح، امام بدرالدین محمود عینی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مذہب ہے اور شیخ اجل امام شہاب الدین ابوالفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی مکی ہاشمی، (المتوفی ۸۵۳ھ) فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضلات کی طہارت پر بہت زیادہ اور کثرت سے روشن دلائل موجود ہیں۔ اور ہمارے ائمہ کرام اسے حضور اقدس کی خصوصیات میں شمار کرتے ہیں۔“ (مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۵۱)

نبی اور امتی کے لیے شریعت کے احکام میں فرق ہونے کے تعلق سے ہم نے کل گیارہ مثالیں پیش کی ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید اور احادیثِ کریمہ کی روشنی میں ایسی مثالیں کثرت سے پیش کی جاسکتی ہیں کہ جن مثالوں سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص و فضائل **أَفْهَمُ مِنَ الشَّمْسِ** ظاہر و باہر ہیں اور ان مثالوں سے نبی اور امتی کا فرق واضح طور پر ظاہر ہوگا۔

چاہے کتنا ہی بڑا عابد و زاہد اور عالم و فقیہ ہو، کسی بھی نبی سے ہمسری نہیں کر سکتا۔

یہ وہ حاضر کے منافقین اپنی ریاکاری پر مشتمل عبادت اور مکارانہ ریاضت پر اکتفا کر اور اترا کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمسری بلکہ برتری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ اپنی نمازوں کی تعداد رکعت اور دیگر عبادات کے وقت کی مقدار کا تخمینہ لگاتے ہیں اور اپنی ریاکارانہ عبادت کی آنتی اور شمار کا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخلصانہ اور مقبول بارگاہ الہی عبادت سے تقابل کر کے بزم خویش تجزیہ کر کے یہ فاسد تخیل اخذ کرتے ہیں کہ ”عمل میں امتی بسا اوقات نبی سے مساوی ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے۔“ مَعَاذَ اللّٰهِ - نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ لٰكِن اِنْ كُورِ مَغْزٰوْر كُورِ بَاطِن جَآهِلُوْنَ كُوشَآيِدِ يِه مَعْلُوم نِهِيْمْ كِه كُوْنِيْ يِهِيْ اُمْتِي حَضْرُوْر اَقْدَس صَلِي اللّٰهُ تَعَالٰى عَلِيْهِ وَاَسْلَمُ تُو كِيَا؟ بَلْ كِه حَضْرُوْر اَقْدَس صَلِي اللّٰهُ تَعَالٰى عَلِيْهِ وَاَسْلَمُ كِه كُوسِي صَحَابِي سِه يِهِي عَمَل مِيْن اور عَمَل كِه اَجْر وَاَوْآب مِيْن، هَمْسَرِي نِهِيْمْ كِه رِسْكَتَا۔ اِس سِلْسَلَه مِيْن ذَمِيْل مِيْن چِنْدَا حَادِيْث كَرِيْمَه پِيْش خِدْمَت هِيْن :-

حدیث :- ”ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! اگر تم میں سے کوئی اُحد کے پہاڑ کے برابر سونا راہِ خدا میں خرچ کرے تو ان کے ایک مُد جو (یعنی دو زطل (جو Barley) کی برابری نہ کر سکے گا اور نہ ان کے آدھے کی فضیلت کو۔“

حدیث :- ”طیالسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس اُحد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے راہِ خدا میں خرچ کرے اور بیواؤں، مسکینوں اور یتیموں میں خرچ کرے تاکہ میرے کسی صحابی کے کسی دن کی ایک گھڑی کی فضیلت حاصل کر لے، تو وہ کبھی اسے حاصل نہیں کر سکے گا۔“

حدیث :- ”حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **إِنَّ اللّٰهَ اخْتَارَ أَصْحَابِيْنَ عَلَى جَمِيْعِ الْعَالَمِيْنَ سِوَى النَّبِيِّ وَالْمُرْشِدِيْنَ** ترجمہ: ”یقیناً اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین

(علیہم الصلوٰۃ والسلام) کے بعد میرے صحابہ کو سارے جہاں والوں پر برگزیدگی عطا فرمائی ہے۔“

(تینوں احادیث کریمہ بحوالہ:- (۱) خصائص کبریٰ، اردو ترجمہ، جلد: ۲، ص: ۵۶۶)

(۲) مدارج النبوة، اردو ترجمہ، جلد: ۱، ص: ۵۵۴)

حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”بشر“ کہنے کا اور بشر کہنے والے کے لیے کیا حکم شرع ہے؟“

ماضی کے کفار و مشرکین، یہود و نصاریٰ، منافقین اور مرتدین کے نقش قدم پر چل کے دور حاضر کے منافقین بھی حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”بشر“ کہتے ہیں۔ صرف بشر ہی نہیں کہتے بلکہ ۷ ہمارے تمہارے جیسے بشر ۷ عاجز بشر ۷ مجبور بشر وغیرہ کہتے ہیں اور اپنے اس باطل عقیدہ کی بذریعہ کتب نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ سے غلط استدلال کر کے حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر کہہ کر آپ کی نوری بشریت کو عام انسانوں کی بشریت کی طرح کہہ کر آپ کے اختیارات، تصرفات، عظمت، فضیلت، قدرت، وغیرہ کا انکار کر کے توہین و تنقیص بارگاہ رسالت کا جرم عظیم کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کی مذکورہ آیت کے ضمن میں ہم نے قرآن و حدیث کی ہدایت و روشنی میں مدلل تفصیلی بحث و وضاحت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں تھی بلکہ آپ کی بشریت بے مثل و مثال نوری بشریت تھی۔ منافقین زمانہ ان دلائل ساطعہ اور براہین قاطعہ کا رد کرنے سے ہمیشہ عاجز اور قاصر رہے ہیں اور انشاء اللہ تا قیامت عاجز و قاصر رہیں گے۔

☆ منافقین زمانہ کی ایک بے تکی اور بے شعور دلیل :-

حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے مثل و مثال ”نوری بشریت“ کے ثبوت میں قرآن مجید اور احادیث کی بین اور مستحکم دلیلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے منافقین زمانہ جذبہ بغض و عناد کے تحت، اپنی ثقافت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایسی بے تکی اور بے شعوری دلیل پیش کرتے ہیں کہ جس کو سن کر یقین کے درجہ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ منافقین زمانہ کو عقل و فہم سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔

منافقین زمانہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم حضورِ اکرم کو ”بشر“ بایں معنی کہتے ہیں کہ آپ انسان تھے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیا حضورِ اقدس انسان نہیں تھے؟ آپ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرزند تھے یا نہیں؟ کیا آپ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے (Grand Son) تھے یا نہیں؟ آپ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ماجد تھے یا نہیں؟ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے یا نہیں؟ آپ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ وغیرہما ازواج مطہرات کے شوہر تھے یا نہیں؟ ان تمام رشتوں کے ناٹے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے۔ اور ہم اسی حقیقت کی بناء پر آپ کو بشر کہتے ہیں۔ آپ کی بشریت کا انکار کرنا حقیقت سے منہ موڑنے کی مترادف ہے۔

قارئین کرام کی عدالتِ عالیہ میں استغاثہ ہے کہ ایسے جاہل بلکہ اجہل منافقین علمی و دلائل سے نہیں سمجھتے بلکہ علمی دلائل سمجھنے کی صلاحیت و لیاقت بھی ان میں نہیں ہوتی۔ ان عقل کے دشمنوں کو لاکھ کوئی کہے کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت کے ہم بھی قائل ہیں لیکن پھر بھی حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”بشر“ کہہ کر مخاطب کرنا جائز نہیں۔ تب وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ واہ! جناب واہ! حضور کے بشر ہونے کا اقرار کرنے کے باوجود حضور کو بشر کہنے کی ممانعت کرتے ہو؟ ایسے احمق لوگوں کو جس کی جوتی اسی کا سروالی مثل پر عمل کرتے ہوئے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہی مناسب ہے۔ جو ذیل میں مرقوم ہے۔

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اگر کوئی شخص اپنی والدہ محترمہ کے متعلق یہ کہے کہ وہ تو مرے باپ کی بیوی ہے۔ ایسے شخص کے لیے بے ادب اور گستاخ کا لقب ہی موزوں اور مناسب ہے۔ بے شک! اس کی ماں اس کے باپ کی بیوی ہے۔ اس کے باپ کی بیگم ہونے کی وجہ سے ہی وہ اس کی ماں بن سکی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ہر شخص کی ماں بے شک اس کے باپ کی بیوی ہے لیکن ماں جیسی معزز، محترم اور واجب التعمیم شخصیت کو باپ کی بیوی کہنا بے ادبی، گستاخی، بدتمیزی، بداخلاقی، بدزبانی، بدخصاتی، بدگوئی، بدکلامی، اور بدلحاظی ہے۔ اپنی ماں کو والدہ ماجدہ، امی جان، محترمہ امی، پیاری اماں، وغیرہ معزز و مہذب القابات سے مخاطب کرنے کے بجائے باپ کی بیوی، ابو کی جوڑو یا والد کی بیگم کہنے والا شخص سماج اور سوسائٹی کی نظروں میں بے حیا بے شرم، بے غیرت، بے ادب، بے ڈھنگا، بے شعور اور بے تمیز کہلائے گا۔ اس بدتمیز اور نالائق کپوت سے کوئی کہے کہ ذرا اپنی والدہ ماجدہ کے تعارف میں چند جملے کہو اور وہ احمق اپنی والدہ کے متعلق یہ کہے کہ:-

☆ میری ماں میرے باپ کی بیوی ہے کیونکہ میرے باپ سے نکاح کیا ہے۔

☆ میرے چچا کی بھانج ہے کیونکہ میرے چچا کے بھائی کی بیگم ہے۔

☆ میرے دادا کی بہو ہے کیونکہ وہ اس کے بیٹے کی جوڑو ہے۔

ایسے نالائق کپوت کو مزید بکو اس کرنے سے روکتے ہوئے یہ کہا جائے کہ او، بے ادب! او، گستاخ! یہ کیا بکو اس کرتا ہے؟ اور جواب میں وہ یہ کہے کہ جناب! اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ حقیقت! اور صداقت پر مبنی ہے۔ تب اسے کہا جائے گا کہ اپنی حقیقی ماں کا تعارف کرانے اور اس کی تعریف کرنے کے لیے لے دے کر صرف یہی گستاخانہ جملے ہی تیری ناپاک زبان سے صادر ہوئے؟ کیا یہ کہتے ہوئے تیری زبان کو جھٹکے لگتے ہیں کہ:-

☆ میری ماں کے قدموں تلے میری جنت ہے۔

☆ اس کی رضا مندی میں خدا کی رضا مندی اور اس کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔

☆ جس نے مجھے اپنا خون جگر پلایا ہے اور بڑی ممتا سے میری پرورش کی ہے۔

☆ خود بھوکے اور سیاہی سے لہکنے والے مجھے شکر سر کھلایا پلایا۔

- میرے ایام طفلی میں رات رات بھر بیدار رہ کر مجھے سہلایا اور سُلا یا ہے۔
- مجھے قرآن مجید اور دینی مسائل کی تعلیم دی ہے۔
- مجھے نماز کا پابند بنایا ہے۔ نیکی کی راہ اپنانے کی اور بدی کا راستہ ترک کرنے کی ترغیب دی ہے۔
- اخلاقی محاسن اور اعلیٰ تہذیب کے گوہر شاداب سے مجھے مزین فرمایا ہے۔
- جن کی پر خلوص دُعاؤں کے طفیل میں نے ترقی اور کامیابی کی منزلیں طے کی ہیں۔
- لیکن! وہ احمق اور بد تمیز کپوت۔ یہی رٹ لگاتا رہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے، کیا وہ غلط ہے؟ کیا میرے باپ سے نکاح کرنے کی وجہ سے میری ماں میرے باپ کی بیوی نہیں تھی؟ میرے چچا کی بھانج اور چھوڑے دادا کی بہو نہ تھی؟ تب اسے یہی کہنا مناسب ہوگا کہ تو نے اپنی ماں کا دودھ لچایا ہے۔ تو بیٹا کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ ترے جیسا نابلد اور نابکار بیٹا خدا کسی کو بھی نہ دے۔ تیرے جیسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے۔

اسی طرح!!!

- اگر کوئی شخص بظاہر کلمہ پڑھتا ہوا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ: - معاذ اللہ! ثم معاذ اللہ!
- ”حضور اقدس ہمارے تمہارے جیسے انسان (بشر) اور عاجز بندے ہیں۔“ (تقویۃ الایمان، ص: ۹۹)
- ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔“ (تقویۃ الایمان، ص: ۷۰)
- ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب کی بات جانتے ہیں۔“ (تقویۃ الایمان، ص: ۴۷)
- ”امتی بھی عمل میں بسا اوقات بظاہر نبی سے بڑھ سکتا ہے۔“
- (تحدیر الناس، ص: ۵)

”نفس بشریت میں حضور اقدس عام انسانوں کی طرح ہیں اور آپ کو

بھائی کہنا قرآن کے ہر آیت سے بڑھ سکتا ہے۔“

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

☆ ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا۔“

(براہین قاطعہ، ص: ۵۵)

☆ ”چالیس (۴۰) سال کی عمر تک آپ ایمان باللہ کی حقیقت سے ناواقف تھے۔“ (مختصر سیرت نبویہ، ص: ۲۴)

☆ ”حضور اقدس جیسا علم غیب تو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے۔“

(حفظ الایمان، ص: ۸)

ایسے گستاخ اور بے ادب منافق کو مزید بکواس کرنے سے روکنے کے لیے یہ کہا جائے کہ او، بے ادب! او، گستاخ! اپنی زبان کو لگام دے اور بارگاہ رسالت کی توہین و تنقیص سے باز آ۔ اور جواب میں وہ منافق یہ کہے کہ جناب آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور مجھ پر گستاخی رسول کا الزام عائد کرنے سے اجتناب کرو۔ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ دلائل و حقائق کے تحت ہی کہا ہے۔ تب اس سے یہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تیری گندی اور مفسد ذہنیت کے جراثیم بطریق گستاخانہ جملے ہی تیری نجس زبان سے کیوں نکالتا ہے؟ کیا یہ کہتے ہوئے تیری زبان میں بول کے کانٹے چبھتے ہیں کہ:

☆ ”حضور اقدس کی تخلیق اللہ کے نور سے ہوئی ہے۔ اور پوری کائنات حضور کے نور سے وجود میں آئی ہے“

(حوالہ:- (۱) مصنف عبدالرزاق (۲) المواہب از قسطلانی (۳) افضل القرئی از امام ابن حجر مکی (۴) شرح مواہب از امام زرقانی (۵) دلائل النبوة از امام ابوبکر بیہقی (۶) النہیس از علامہ دریا بکری (۷) مطالع المسرات از علامہ قاسمی وغیرہ)

☆ ”حضور اقدس نے ایک شخص کی مردہ لڑکی کو اس کی قبر سے زندہ فرما کر اس سے کلام فرمایا:“

(حوالہ:- (۱) دلائل النبوة از بیہقی (۲) المواہب از قسطلانی (۳) مدارج

النبوة از محمد عبدالموہبی)

marfat

○ "حضرت جابر کے دو مردہ بیٹوں کو زندہ فرمایا۔"

(حوالہ:- شواہد النبوة، از علامہ نور الدین جامی)

○ "انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔"

(حوالہ:- مدارج النبوة، از شاہ عبدالحق محدث دہلوی)

○ "حضور اقدس کو پتھر، درخت، چٹان وغیرہ سلام کرتے تھے۔"

(طبرانی، ابو نعیم، بیہقی، بزاز، ترمذی)

○ "جانوروں نے حضور اقدس کی رسالت کی گواہی دی اور آپ کو تعظیم کا

سجدہ کیا۔" (حوالہ:- (۱) شواہد النبوة، (۲) مدارج النبوة (۳) الشفاء از

قاضی عیاض اُنڈلسی)

○ "حضور اقدس کی مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔"

(حوالہ:- (۱) ابو نعیم (۲) امام بیہقی (۳) خصائص کبریٰ از امام جلال الدین سیوطی)

○ "مقام صہبا میں حضرت علی کی نماز عصر کے لیے ڈو بے ہوئے سورج کو

پلٹا کر طلوع کرایا۔" (مدارج النبوة، از شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی)

○ "حضور اقدس کا حکم ہوتے ہی جما ہوا درخت اپنی جڑیں اکھاڑ کر خدمت

اقدس میں حاضر ہوا۔"

○ "ولادت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت ہی بے شمار معجزات ظہور

میں آئے مثلاً ○ ولادت کے بعد فوراً آپ نے سجدہ فرمایا ○ سجدہ سے

سراٹھاتے ہی آپ نے بزبان فصیح "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ

"فرمایا ○ آپ ناف بریدہ اور مختون پیدا ہوئے ○ ولادت کے وقت

جسم اقدس پر کسی قسم کی آلودگی نہ تھی ○ ولادت کے وقت نور کی بارش

ہوئی ○ خانہ کعبہ سجدہ میں جھکا" وغیرہ۔

(حوالہ:- (۱) شواہد النبوة (۲) خصائص کبریٰ (۳) مدارج النبوة (۴) الامن والعلی)

○ "ایام طفلی میں گہوارے میں سے جدمہ انگلی کا پتلا ہوا فرمایا تھا اور چاند

جھک جاتا۔“ (حوالہ:- (۱) خصائص کبریٰ (۲) شواہد النبوة)

”عالم شیرخواری میں گبوارے میں کلام فرمایا اور فرشتے آپ کا گبوارا۔“

(جھولا) جھلاتے تھے۔“ (حوالہ:- (۱) خصائص کبریٰ

”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا۔“

حوالہ:- (۱) الموابہب از علامہ قسطلانی (۲) شرح موابہب از امام زرقانی

(۳) جمع الوسائل از علامہ ملا علی قاری (۴) تفسیر مدارک التنزیل

(۵) معارج النبوة (۶) الشفا (۷) نسیم الریاض (۸) افضل القرئی

(۹) مکتوبات امام ربانی (۱۰) خصائص کبریٰ (۱۱) مدارج النبوة)

”آپ کا نوارنی چہرہ آفتاب و ماہتاب سے بھی زیادہ چمکتا تھا اور آپ

حسن و جمال میں بے مثال تھے۔“

حوالہ:- (۱) سبیل الہدیٰ (۲) الداری (۳) مدارج النبوة (۴) خصائص کبریٰ

”آپ کے مقدس پسینے کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی بہتر و عمدہ تھی۔“

حوالہ:- (۱) معجم صغیر از طبرانی (۲) مدارج النبوة (۳) خصائص کبریٰ

”آپ کے مقدس کانوں کی قوت سماعت کا یہ عالم تھا کہ آپ آسمان کی

چرچر اہٹ اور لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز بھی سماعت فرماتے

تھے۔“ (حوالہ:- (۱) ترمذی (۲) ابن ماجہ (۳) ابو نعیم)

”جس کھاری اور کڑوے کنویں میں آپ کا لعاب دہن شریف پڑ جاتا،

اس کنویں کا پانی تمام کنوؤں کے پانی سے میٹھا ہو جاتا اور کنویں کے پانی

میں مشک کی خوشبو آنے لگتی۔“

(حوالہ:- (۱) شواہد النبوة (۲) مدارج النبوة (۳) خصائص کبریٰ)

”لعاب دہن کی برکت سے مریض فوراً شفا یاب ہوتے تھے اور ان کا

مرض دائمی طور پر ختم ہو جاتا۔“

(حوالہ:- (۱) بخاری شریف (۲) مسلم شریف (۳) شواہد النبوة، وغیرہ)

○ ”آپ کی مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز و تصرف تھا کہ دور دراز کے فاصلے پر ہونے والے واقعات و حوادث کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے زمین کے تمام حجابات ہٹا دیے تھے اور کوئی بھی چیز آپ سے پوشیدہ نہ تھی۔“

حوالہ:- (۱) بخاری (۲) مسلم (۳) بیہقی (۴) ابو نعیم)

○ ”آپ جس طرح آگے دیکھ سکتے تھے اسی طرح پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے اور رات کی تاریکی میں بھی دن کی روشنی کی طرح دیکھ سکتے تھے۔“

حوالہ:- (۱) ابن عدی (۲) بیہقی (۳) بخاری (۴) مسلم (۵) ابن عساکر (۶) ابو نعیم)

○ ”آپ کے جسم اقدس پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی اور آپ کے کپڑوں میں کبھی بھی جو نہیں پڑی۔“

○ ”آپ طبعی طور پر جمالی سے پاک اور منزہ تھے۔“ (حوالہ:- خصائص کبریٰ)

○ ”دست اقدس کے اعجاز اور تصرفات کے واقعات اتنی کثیر تعداد میں ہیں

کہ جن کا بالتفصیل تذکرہ ممکن نہیں مثلاً ○ ہاتھ مبارک میں پر کیف ٹھنڈک اور زالی مہک تھی۔ ○ جس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے اس کا جسم

بڑھاپے میں بھی جوان کی طرح تروتازہ رہتا۔ ○ جس کے سر پر دست

پاک پھیر دیتے اتنے حصے کے بال ایک سو سال کی عمر ہونے کے باوجود

بھی سیاہ رہتے۔ ○ جس کے چہرے پر دست اقدس پھیر دیتے اس کا

چہرہ ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رہتا۔ ○ کسی گنجدے کے سر پر ہاتھ شریف پھیر

دیتے تو سر میں بال اُگ نکلتے۔ ○ کسی آسیب زدہ یا دیوانے کے سر پر

دست پاک پھیر دیتے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا۔ ○ ٹوٹا ہوا پاؤں دست

اقدس کا مس ہوتے ہی فوراً اس کی بندی ہو جاتی۔ ○ زخم لگانے کی وجہ

سے رخسار پر لنگی ہوئی آنکھ دستِ بابرکت لگتے ہی فوراً صحیح ہو جاتی۔ وغیرہ

حوالہ:- (۱) الشفا از قاضی عیاض (۲) المول از عرفی (۳) الخصائص از

ابن سبع (۴) بخاری شریف (۵) مدارج النبوة (۶) خصائص کبریٰ)

○ ”حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جیسے جلیل القدر نبی اور رسول نے حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی تمنا اور آرزو فرمائی۔“ (مدارج النبوة)

○ ”حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جیسے عظیم الشان نبی اور رسول

حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بن کر دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور حضورِ اقدس کی شریعت پر عمل کریں گے۔“ (خصائص کبریٰ)

○ ”اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج میں بلایا اور اپنے دیدار اور ہم کلامی سے

مشرف فرمایا۔“ (حوالہ:- (۱) بخاری (۲) مسلم (۳) خصائص کبریٰ (۴) مدارج النبوة)

○ ”حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی

اپنی مقدس قبرِ انور میں زندہ اور حیات ہیں اور اپنے امتی کے حال سے باخبر ہیں۔“

(حوالہ:- (انبیاء الازکیاء فی حیات الانبیاء، از:- علامہ جلال الدین سیوطی)

ایسے تو بے شمار معجزات و تصرفات حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اظہر من الشمس ہیں۔

لیکن اگر کوئی گستاخ منافق ان اعجاز و کمالات کو بیان کرنے کے بجائے حضورِ اقدس کو معاذ اللہ

اپنے جیسا بشر، عاجز بندو، مرکڑی میں مل گئے وغیرہ کہے اور چوری اوپر سے سینہ زوری کرتے

ہوئے ایسا کہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ کیا غلط ہے؟ کیا قرآن مجید کی آیت میں قُلْ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کا ارشاد نہیں؟ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانی شکل میں پیدا

نہیں ہوئے؟ کیا آپ اللہ کے بندے نہیں تھے؟ کیا آپ نے انتقال نہیں فرمایا؟ تب اسے

یہی کہنا مناسب ہوگا کہ تَوَلَّآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود

دائرہ ایمان سے نکل گیا ہے۔ تیری کلمہ گوئی اور اقرار دین اسلام ان منافقوں کی طرح ہے جن کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ "وَمِنَ النَّاسِ مَن يُقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ" (پارہ: ۱، سورۃ البقرہ، آیت: ۸) ترجمہ: "اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔" (کنز الایمان) لہذا اے توہین کی نیت سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے والے! تیری اس گستاخانہ بولی کے سبب تو ہرگز مؤمن نہیں بلکہ منافق ہے۔

◎ حضور اقدس کو بشر کہنے کے متعلق شرعی حکم:-

پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو "يَا أَيُّهَا الْبَشَرُ" کہہ کر مخاطب فرمایا ہو۔ یا ایسا ارشاد فرمایا ہو کہ "أَنْتَ بَشَرٌ مِّثْلَهُمْ" یعنی "آپ ان لوگوں جیسے بشر ہیں"۔ بلکہ "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کا ارشاد فرمایا ہے اور اس ارشاد گرامی کے ذریعے اپنے محبوب اعظم و اکرم کی زبان حق ترجمان سے یہ کہلایا ہے کہ "اے محبوب! تم فرماؤ کہ ظاہری صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں"۔ اس ارشاد گرامی میں کیا حکمت ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم نے اوراق سابقہ میں اس آیت مقدس کی مفصل تفسیر اور وضاحت قارئین کرام کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ جس کا اعادہ نہ کرتے ہوئے صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ دورِ حاضر کے منافقین بارگاہ رسالت میں گستاخی کرنے کی غرض سے "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" آیت سے غلط استدلال کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔

◎ "زمانہ ماضی کے گستاخ رسول بھی توہین و تنقیص رسالت کی غرض سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہا کرتے تھے۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

وَإِذَا جَاءَ وَكَرِهُوا لَكُمْ يُضَلِّمُوا الْوَجْهَ

(پارہ: ۲۸، سورۃ الجاولہ، آیت: ۸)

ترجمہ:- ”اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، تو ان لفظوں سے تمہیں بچا کرتے

ہیں، جو لفظ اللہ نے تمہارے اعزاز میں نہ کہے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کریمہ میں زمانہ اقدس کے دشمنانِ رسول اور گستاخانِ رسول کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ وضاحت فرمائی گئی ہے کہ بارگاہِ رسالت کے گستاخ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزاز میں نہیں فرمائے۔ یعنی جو الفاظ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزاز یعنی عزت، رتبہ اور مرتبے کے لیے نامناسب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائے، ان الفاظوں کو گستاخِ رسول حضورِ اقدس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ میرا محبوب تمہارا ہے جیسا بشر ہے یا میرا محبوب اعظم تمہاری طرح عاجز بندہ ہے۔ لیکن دورِ حاضر کے منافقین ان الفاظ کو حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

بشر کی بولی بولنے والے دورِ حاضر کے منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے ادبلی اور گستاخی ہے۔ تب وہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف اور سورۃ حم سجدہ کی آیت مقدس **قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ بِطُورِ لَيْلٍ وَثُبُوتِ مِشْرِ** کرتے ہیں اور اپنا منہ میڑھا کر کے کہتے ہیں کہ تمہاری دانش پر تعجب ہے۔ کیسی عجیب بات کہتے ہو۔ جب حضور کو قرآن میں ”بشر“ کہا گیا ہے اور قرآن سے استدلال کر کے ہم نے بھی حضور کو بشر کہہ دیا تو اس میں تم کیوں اس قدر پریشان ہوتے ہو۔ خود حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحکمِ رب فرمایا ہے کہ ”میں تمہارا ہے جیسا بشر ہوں۔“

martaf.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ان جاہلوں کو کیا معلوم کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ الفاظ تواضع و انکساری کے طور پر ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کی مذکورہ آیت کی تفسیر میں صاف لکھا ہے کہ:-

”تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کہ اپنی ظاہری صورت بشریہ کے بیان کا اظہار تواضع کے لیے حکم فرمایا گیا ہے۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۵۴۹)

”سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بلحاظ ظاہری ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ فرمانا حکمت ہدایت و ارشاد کے لیے بہ طریق تواضع ہے اور جو کلمات تواضع کے لیے کہے جائیں وہ تواضع کرنے والے کے علو منصب کی دلیل ہوتے ہیں۔ چھوٹیوں کا ان کلمات کو اس کی شان میں کہنا یا برابری ڈھونڈنا ترک ادب اور گستاخی ہوتا ہے۔ تو کسی امتی کو رو انہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مماثل ہونے کا دعویٰ کرے اور یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ آپ کی بشریت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ہماری بشریت کو اس سے کوئی نسبت نہیں۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۸۵۸)

”کسی کو بھی جائز نہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے مثل بشر کہے کیونکہ جو کلمات اصحاب عزت و عظمت بہ طریق تواضع فرماتے ہیں۔ ان کا کہنا دوسروں کے لیے روا نہیں ہوتا۔ دویم یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فضائل جلیلہ و مراتب رفیعہ عطا فرمائے ہوں اس کے ان فضائل و مراتب کا ذکر چھوڑ کر ایسے وصف عام سے ذکر کرنا جو ہر کہہ و مہمہ (ہر چھوٹا بڑا) میں پایا جائے، یہ درپردہ ان کمالات کے نہ ماننے کا مشعر (ظاہر کرنا) ہے۔ سویم یہ کہ قرآن کریم میں جا بجا کفار کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اپنے مثل کہتے تھے اور اس سے گمراہی میں مبتلا ہوئے۔“ (تفسیر خزائن العرفان، ص: ۵۴۹)

قرآن مجید کی تفسیر سے ماخوذ مندرجہ بالا آیتن عبارت کا خلاصہ ہے کہ حضور اقدس صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے "أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" ازراہ تواضع و انکساری فرمایا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ طریق تواضع و انکساری جو جملہ اپنے لیے ارشاد فرمایا ہے، اس جملے کا حضور کے لیے استعمال کرنا کسی امتی کو رو نہیں۔ ایک مثال پیش خدمت ہے:-

"کسی اسلامی یونیورسٹی کے صدر المدرسین جو اپنے وقت کے جید عالم اور محدث ہوں۔

ہزاروں طلباء نے ان کے سامنے زانوئے ادب طے کیے ہوں اور اپنی علمی پیاس بجھائی ہو اور وہ

عالم صاحب "استاد العلماء" کے منصب پر فائز ہوں، وہ اگر ازراہ تواضع و انکساری یہ فرمائیں

کہ میں تو طلباء کا خادم ہوں۔ تو ان کے اس جملہ کو دلیل بنا کر ان کا کوئی شاگرد اگر یہ کہے کہ اس

یونیورسٹی کے صدر المدرسین تو میرے خادم ہیں۔ تو ایسے بیوقوف اور احمق شاگرد کے لیے یہی

کہا جائے گا کہ اس کا دماغ مغز سے خالی ہے۔ صدر المدرسین صاحب نے بے شک اور ضرور

اپنے متعلق یہ فرمایا ہے کہ میں طالب علموں کا خادم ہوں لیکن ان کے اس متواضع جملے کو دلیل بنا

کر کسی طالب علم کو رو نہیں کہ وہ معزز و معظم صدر المدرسین کو اپنا خادم کہے۔ اگر کسی طالب علم

نے اپنے استاد محترم کو اپنا خادم کہا تو وہ بے ادب اور گستاخ کہلائے گا۔"

اس طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ طریق تواضع و انکساری اپنے کو "أَنَا

بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" فرمایا ہے، اس کو دلیل بنا کر کسی امتی کو رو نہیں کہ وہ اپنے آقا و مولیٰ اور سید

الانبیاء والمرسلین، رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو "اپنے جیسا بشر" کہے۔ اگر کسی امتی نے

اپنے رسول معظم اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہا تو وہ امتی بے ادب اور

گستاخ کہلائے گا اور بارگاہ رسالت کا گستاخ و بے ادب دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا

ہے۔ کیونکہ:-

① "فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ جس شخص نے توہین کی نیت سے حضور

اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو "هَذَا الرَّجُلُ" یعنی "یہ شخص" کہا، وہ کافر

ہے۔"

② "فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر،

بھائی، آدمی اور انسان کہہ کر کارہا حرام ہے۔ اگر توہین کی نیت ہے تو کفر

ہے۔“ (بحوالہ:۔ جاء الحق، از:۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خاں نعیمی)
الحاصل! حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا کسی بھی امتی کو روہ نہیں۔
انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر کہنا کفار، مشرکین اور منافقین کا طریقہ ہے۔
کسی مومن کا طریقہ نہیں۔

○ انبیائے کرام اور اولیائے عظام کو اپنے جیسا بشر کہنے والے بے ادب اور
گستاخ گروہ کو تازیانہ زدن کرتے ہوئے حضرت مولانا روم اپنی
”مشنوی“ میں فرماتے ہیں کہ:-

ہم سری با انبیاء برداشتند ÷ اولیاء را ہم چوں خود پنداشتند
گفتہ اس کہ ما بشر ایشاں بشر ÷ ما و ایشاں بستہ خوانیم و خور
ترجمہ:- ”ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو انبیائے کرام کے ساتھ ہم سری کا دعویٰ
کرتے ہیں اور اولیائے عظام کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ اپنے اس باطل
دعوے کی توثیق میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی انبیاء و اولیاء بشر ہیں اور
ہم بھی بشر ہیں۔ کھانا کھانے اور سونے کے معاملہ میں وہ اور ہم مساوی
ہیں۔“

خوب یاد رکھو کہ.....

○ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ”بشر“ کہنے کا طریقہ شیطان کا طریقہ
ہے۔ سب سے پہلے ابلیس لعین نے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی کو بشر کہا تھا۔ اور
شیطان کے نقش قدم پر چل کر کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں،
مرتدوں اور منافقوں نے انبیائے کرام کو ”بشر“ کہا۔ ہر نبی کے زمانے
کے منکروں نے اپنے نبی کو ”بشر“ کہہ کر اپنے نبی کی عظمت اور اہمیت
گھٹانے کی رذیل کوشش کی ہے۔

○ دور حاضر کے منافقین بھی ماضی کے کفار و منافقین کے نقش قدم پر چل کر

martat.com

حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ۵ اپنے جیسا بشر ۵ عاجز بندہ
وغیرہ کہہ کر بارگاہِ رسالت میں بے ادبی اور گستاخی کرنے کا جرمِ عظیم
کرتے ہیں۔

لیکن

۵ کسی بھی نبی کے کسی بھی مؤمن امتی نے اپنے نبی کو ”اپنے جیسا بشر“
نہیں کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضورِ اقدس صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ حضرات صحیح معنی میں
مؤمن اور سچے مسلمان تھے۔

۵ لہذا! جو صحیح معنی میں مؤمن و مسلمان ہیں وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل
کر حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر یا عاجز بندہ نہیں
کہتے بلکہ ”نوری بشر“ اور کائنات کے مالک و مختار کہتے ہیں۔

ثابت ہوا کہ

- ۵ حضورِ اقدس کو اپنے جیسا بشر کہنا کفار، مشرکین اور منافقین کا طریقہ ہے۔
- ۵ حضورِ اقدس کو بے مثل و مثال نوری بشر کہنا صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔

حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”اپنے جیسا بشر“ کہنے والے دورِ حاضر کے منافقین اپنے پیشوا اور مولوی کو کیا کہتے ہیں؟

قرآن مجید کی آیت کریمہ **قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** سے غلط استدلال کر کے حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”اپنے جیسا بشر“ کہنے والے دورِ حاضر کے منافقین اپنے پیشوا اور مولوی کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے والے منافقین جب اپنے پیشوا کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تب اندھی عقیدت و شخصیت پرستی کے جذبہٴ فاسد کے تحت ”انسانیت سے بالا درجہ والا“ اور ”فرشتہٴ مقرب“ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں اور اندھا گائے، بہرا بجائے، والی مثل پر عمل کرتے ہوئے اپنی اندھی عقیدت کی تشہیر و اشاعت بھی کرتے ہیں۔

مولوی قاسم نانوتوی کو انسانیت سے بالا درجہ اور فرشتہٴ مقرب کہا:—

جن کو وہابی تبلیغی جماعت کے قبعین بڑے ادب و فخر سے ”قاسم العلوم والخیرات“ کہتے ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی کے متعلق دورِ حاضر کے منافقین کا نظریہٴ عقیدت دیوبندی مکتبہٴ فکر کی دو

marfat.com

مستند کتابوں کے حوالے سے پیش خدمت ہے:-

”مولوی نظام الدین صاحب مغربی حیدرآبادی مرحوم نے جو مولانا رفیع الدین صاحب سے بیعت تھے اور صالحین میں سے تھے، احقر سے فرمایا جب کہ احقر حیدرآباد گیا ہوا تھا کہ مولانا رفیع الدین صاحب فرماتے تھے کہ میں پچیس (۲۵) برس حضرت مولانا نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور کبھی بلا وضو نہیں گیا۔ میں نے انسانیت سے بالا درجہ ان کا (مولانا نانوتوی کا) دیکھا ہے۔ یہ شخص ایک فرشتہ مقرب تھا، جو انسانوں میں ظاہر کیا گیا۔“

حوالہ:- (۱) حکایت اولیاء (ارواحِ ثلاثہ) از:- مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، ناشر:- کتب خانہ نعیمیہ، دیوبند، حکایت نمبر: ۲۳۲، ص: ۲۵۹ (۲) سوانح قاسمی، از:- مولوی مناظر حسن گیلانی، ناشر:- دارالعلوم دیوبند (یو۔ پی) جلد: ۱، ص: ۱۳۰

قارئین کرام سے التماس ہے کہ مندرجہ بالا روایت کا بغور مطالعہ فرمائیں اور اس عبارت کے ضمن میں مندرجہ ذیل نکات پر توجہ فرمائیں:-

(۱) مولوی رفیع الدین صاحب وہابی و یوبندی جماعت کے اکابر میں سے تھے۔ نیز طویل عرصہ تک وہ دارالعلوم دیوبند کے مہتمم رہ چکے ہیں اور مولوی قاسم نانوتوی کے خاص معتمد اور مصاحب تھے۔

(۲) انہیں مولوی رفیع الدین صاحب کا واقعہ ان کے مرید خاص مولوی نظام الدین حیدر آبادی نے بمقام حیدرآباد مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے بیان کیا ہے اور مولوی نظام الدین صاحب حیدرآبادی کے لیے تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ ”صالحین میں سے تھے“ یعنی مولوی نظام الدین صاحب طبعیت کے ہونے کی وجہ سے اکابر جماعت کے ہونے کی وجہ سے ان کا بیان کرنا صحیح ہے۔ لہذا اس واقعہ کو مولوی اشرف

علی صاحب تھانوی نے ”حکایات الاولیاء“ (پرانا نام ”ارواحِ ثلاثہ“) کتاب میں بیان کیا ہے۔ اور تھانوی صاحب کے حوالے سے مولوی قاسم نانوتوی کے سوانح نگار مولوی مناظر حسن گیلانی نے ”سوانح قاسمی“ میں نقل کیا ہے۔

(۳) مولوی اشرف علی صاحب تھانوی روایت کرتے ہیں کہ مولوی رفیع الدین صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند نے فرمایا کہ ”میں پچیس برس حضرت مولانا نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کبھی بلا وضو نہیں گیا۔“ واہ! کیا عقیدت و تعظیم وادب ہے؟ مولوی رفیع الدین صاحب کسی عام انسان (بشر) کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے تھے بلکہ مولوی قاسم نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور مولوی قاسم نانوتوی کی خدمت میں بغیر وضو یعنی حالتِ حدث (بحیثیتِ مُحدث) حاضر ہونا بے ادبی ہے۔ ایک دو مرتبہ کا اتفاق نہیں بلکہ پورے پچیس (۲۵) سال تک باضابطہ اور نہایت پابندی سے با وضو نانوتوی صاحب کے پاس جاتے رہے اور بقول ”کبھی بھی بلا وضو نہیں گیا“ جس کا مطلب یہ ہوا کہ مولوی رفیع الدین صاحب پچیس سال یعنی تین سو مہینے یعنی تقریباً نو ہزار دنوں میں ایک مرتبہ بھی نانوتوی صاحب کی خدمت میں ”بے وضو“ نہیں گئے بلکہ جب بھی گئے، تب ”با وضو“ ہی گئے۔ کیا مولوی رفیع الدین کے لیے نانوتوی صاحب ”نماز“ تھے؟ یا ان کے پاس جانا نماز کا حکم رکھتا تھا؟ آخر وجہ کیا تھی؟

(۴) وجہ یہی تھی کہ بقول مولوی رفیع الدین صاحب، مہتمم دارالعلوم دیوبند ”میں نے انسانیت سے بالا درجہ ان کا (مولانا نانوتوی کا) دیکھا ہے۔“ یعنی مولوی قاسم نانوتوی کا درجہ، مرتبہ ورتبہ انسانیت سے بالا یعنی اونچا و بلند ہے۔ قارئین کرام غور فرمائیں کہ مولوی قاسم صاحب نانوتوی کی مدح و ثنا اور تعریف و توصیف میں کس قدر غلو اور مبالغہ کیا جا رہا ہے اور کیسے خطرناک انداز میں مولوی قاسم نانوتوی کی شانِ عظمت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عبارت کے جملے کی طرف پھر ایک مرتبہ توجہ فرمائیں۔ ”میں انسانیت سے بالا درجہ ان کا دیکھا ہے۔“ کا جملہ کیا کہہ رہا ہے؟

لغت میں انسانیت کا معنی "بشریت" ہے۔ (فیروز اللغات، ص: ۱۳۰) یعنی مطلب یہ ہوا کہ مولوی قاسم نانوتوی کا مرتبہ انسانیت یعنی بشریت سے بلند ہے۔ یعنی جتنے بھی انسان گزر چکے، موجود ہیں اور بعد میں آئیں گے وہ تمام انسان "بشریت" کے حامل ہیں لیکن مولوی قاسم نانوتوی صاحب تو بشریت سے بھی بلند مرتبہ کے حامل تھے۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی روایت کردہ مذکورہ عبارت میں مطلق انسانیت کا لفظ وارد ہے اور مطلق انسانیت میں تمام انسان آگئے۔ اور تمام انسانوں میں تمام انبیائے کرام اور مرسلین عظام اور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آگئے۔ اس عبارت میں مطلق انسانیت کا لفظ بغیر کسی قید اور استثناء کے کہا گیا ہے۔ یعنی لفظ انسانیت تمام انسانوں کو محیط یعنی گھیرے ہوئے ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے تمام انسان پھر چاہے وہ انبیاء اور مرسلین ہوں۔ تمام کی انسانیت یعنی بشریت سے دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی کی بشریت اونچی اور بلند ہے۔

(۵) عبارت کے آخر میں تو غلو و مبالغہ کی آخری منزل سے بھی تجاوز کرتے ہوئے یہاں تک کہا گیا ہے کہ "وہ شخص ایک فرشتہ مقرب تھا جو انسانوں میں ظاہر کیا گیا۔" یعنی دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی حقیقت میں ایک فرشتہ تھے اور دنیا میں انسانی شکل و صورت میں ظاہر ہوئے تھے۔ اس عبارت میں نانوتوی صاحب کو صرف فرشتہ نہیں بلکہ "فرشتہ مقرب" کہا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ مولوی قاسم نانوتوی عام فرشتوں کی طرح ایک عام فرشتہ نہ تھے بلکہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل اور دیگر حاملان عرش و کرسی فرشتگان خاص کی طرح "مقرب فرشتہ" تھے۔ قارئین کرام غور فرمائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا جیسا بشر کہنے والے منافقین زمانہ اپنے پیشوا اور ملا کی تعریف میں کس درجہ غلو اور مبالغہ کر رہے ہیں۔ اپنے پیشوا کو بشریت سے اعلیٰ درجہ کا اور مقرب فرشتہ کہہ رہے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ اپنے پیشوا کے متعلق یہ

جملہ لکھ دیا کہ "جو انسانوں میں ظاہر کیا گیا" جس کا مطلب یہ ہوا کہ مولوی قاسم نانوتوی انسان نہیں تھے بلکہ انسانیت سے بالا درجے کی ہستی تھے لیکن وہ انسانوں میں ظاہر کیے گئے تھے۔ واہ! کیا کہنا! جب نبی اکرم، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ ہوتا ہے تو دور حاضر کے منافقین "ہمارے تمہارے جیسے بشر" کی ہی راگنی لاپتے ہیں اور جب اپنے پیشوا کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تب "اندھا باتے ریوڑیاں، ہر پھر کے اپنوں ہی کو دئے" والی مثل کے مصداق ہوتے ہوئے اپنے پیشوا کو "انسانیت سے بالا درجہ" اور "فرشیہ مقرب" کہہ دیتے ہیں بلکہ الوہیت کے درجہ تک پہنچا دیتے ہوئے بھی کسی قسم کی جھجک اور کھٹک محسوس نہیں کرتے۔ چند مثالیں پیش خدمت ہیں:-

◎ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی حسین احمد ٹانڈوی کے متعلق لکھا کہ رب العالمین اپنی کبریائی پر پردہ ڈال کر گلی کوچوں میں چلتا پھرتا ہے۔

دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولوی حسین احمد ٹانڈوی کہ جن کو بابی تبلیغی جماعت کے قبیحین "مولانا ندنی" اور "شیخ الاسلام" کے نام سے ملقب کرتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے دیوبندی مکتبہ فکر کے مصنفین اور شعراء نے کافی تعداد میں مضامین، کتب اور مراثی ارقام طبع کیے۔ دہلی سے شائع ہونے والے "الجمیعت" روزنامہ نے بھی ٹانڈوی صاحب کے حالات زندگی اور مناقب پر مشتمل "شیخ الاسلام نمبر" شائع کیا۔ اس خاص نمبر میں مختلف نامہ نگار، سوانح نگار اور مضمون نگار نے اپنی عقیدت و والہانہ نسبت کا اظہار کیا تھا۔ مثلاً:-

◎ "الجمیعت" روزنامہ (دہلی) کا "شیخ الاسلام نمبر" مورخہ ۲۵ رجب

المرجب ۱۳۱۵ھ سنہ ۱۹۰۵ء کے صفحہ نمبر ۵۹ پر

وہابی جماعت کی ایک نامور شخصیت مولوی عبدالرزاق طبع آبادی کا
مضمون شائع ہوا ہے۔

مولوی عبدالرزاق طبع آبادی دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین آنجنابی مولوی حسین
احمد ٹانڈوی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

”تم نے کبھی خدا کو بھی اپنی گلی کوچوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ کبھی
خدا کو بھی اس عرش عظمت و جلال کے نیچے فانی انسانوں سے فروتنی کرتے
دیکھا ہے؟ تم کبھی تصور بھی کر سکتے کہ رب العالمین اپنی کبریائی پر پردہ
ڈال کر تمہارے گھروں میں بھی آکر رہے گا؟ تم سے ہم کلام ہوگا؟
تمہاری خدمتیں کرے گا؟

نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہ کبھی ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا۔

تو پھر کیا میں دیوانہ ہوں؟ مجذوب ہوں؟ کہ بڑا بانک رہا ہوں؟ نہیں
بھائیو! یہ بات نہیں ہے۔ بروی ہوں نہ سودائی۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ
ہے، حق ہے۔ مگر سمجھ کا ذرا سا پھیر ہے۔ حقیقت و مجاز کا فرق ہے۔ محبت کا
معاملہ ہے اور محبت میں اشاروں، کنایوں سے ہی کام لینا پڑتا ہے۔ محبت
بے پردہ سچائی کو گوارا نہیں کرتی۔ کچھ بند بند، ڈھکی ڈھکی، چھپی چھپی
باتیں ہی محبت کو اس آتی ہیں۔“

یہاں تک حقیقت و مجاز کا فرق، سمجھ کا فرق، محبت کا معاملہ، بے پردہ سچائی اور محبت کو اس
آنے والی باتوں کی تمہید باندھنے کے بعد مولوی عبدالرزاق طبع آبادی آگے لکھتے ہیں کہ:-

”تو پھر خدا را بتاؤ، جن آنکھوں نے آزی گاڑھے میں منقوف اس
بندے کو دیکھا ہے، وہ ایوں نہ کہیں کہ ہم نے خود اللہ بزرگ و برتر کا جلوہ
اپنی اسی سرزمین پر دیکھا ہے۔“

(حوالہ:- انجلیت، دہلی کا ”شیخ الاسلام نمبر“ ص: ۵۹)

مندرجہ بالا عبارت پر کچھ بھی گفتگو کرنے سے پہلے مذکورہ عبارت کے کچھ الفاظ کے معنی

لغت سے دیکھ لیں تاکہ قارئین کرام میں سے اردو سے کم واقفیت رکھنے والے حضرات کو ”الجمیعت“ کے شیخ الاسلام نمبر“ کی مذکورہ عبارت اچھی طرح سمجھنے میں آسانی ہو۔

○ حَلَّ لُفَّتْ :-

- فروتنی = عاجزی، تواضع، غریبی، مسکینی (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۹۳۱)
- مجذوب = خدا کی محبت میں غرق، بے ہوش، مست، بے خود، آپے سے باہر، صاحب جذب، دیوانہ، پاگل، سڑی، سودائی۔ (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۱۲۰۵)
- بڑھانگنا = بڑھانا، مجذوبانہ باتیں کرنا۔ (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۱۹۹)
- سڑی = پاگل، سودائی، دیوانہ، احمق، بیوقوف (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۷۹۸)
- سودائی = دیوانہ، پاگل، خبطی، جنونی، احمق (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۸۱۹)
- کنایہ = ایما، اشارہ، مہم بات، (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۱۰۳۳)
- گزی = موٹا سوتلی کپڑا (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۱۰۹۸)
- گاڑھا = موٹا، دبیز، ایک قسم کا موٹا کپڑا، کھڈر (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۱۰۷۷)
- مَلْفُوف = لپٹا ہوا، انخاف میں بند، سر بند، بند (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۱۲۸۳)
- راس آنا = موافق آنا، ٹھیک ہونا۔ (حوالہ:- فیروز اللغات، ص: ۶۹۷)

حل لغت کے کالم میں مرقوم الفاظ کے معنی و مطلب معلوم کر لینے کے بعد پھر ایک مرتبہ ”شیخ الاسلام نمبر“ کی مندرجہ بالا پیش کردہ عبارت کا یہ نظر عمیق مطالعہ کرنے کی ہم مودبانہ گزارش اپنے معزز قارئین کرام سے کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام نمبر کی مذکورہ عبارت کتنی خطرناک اور توحید گش ہے، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل تبصرے سے آجائے گا۔

(۱) مولوی عبدالرزاق علیچ آبادی دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک ذمہ دار اور مشہور مصنف ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان کی کتاب ”آزادی کی کہانی خود آزادی کی زبانی“ نے غیر معمولی شہرت حاصل کی ہے۔ مولوی علیچ آبادی صاحب اپنے پیشوا مولوی حسین صاحب کے محض اندام و محبت میں رہنے والے

بہکے اور پھسلے کہ ان کا توحید کا خود ساختہ دعویٰ کا فور ہو گیا۔

(۲) عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جناب ملیح آبادی صاحب ایک ناممکن اور محال بات کا شروع میں ذکر کرتے ہیں کہ کیا تم نے خدا کو اپنی گلیوں میں چلتے پھرتے یا لوگوں سے تواضع و انکساری سے گنتلو اور خدمت کرتے دیکھا ہے؟ کیا ایسا کبھی ممکن ہے کہ خدائے تعالیٰ اپنی کبریائی پر پردہ ڈال کر تمہارے مکانوں میں آ کر سکونت اختیار کرے؟ ان تمام ناممکن باتوں کو جملہ استہمامیہ کے طور پر ارقام کر کے سوال پوچھا ہے اور پھر اپنے ہی قائم کردہ سوالوں کا خود ہی جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

”نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسا نہ کبھی ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا۔“

جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ گلی کو چوں میں چلے پھرے، انسانوں کے درمیان آ کر رہے اور بے، ہمارے گھروں میں سکونت پذیر ہو، ہم سے ہم کلام ہو اور ہماری خدمتیں کرے۔ یہ تمام امور ناممکن اور محال ہیں۔ ایسا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ان امور کا کوئی امکان ہی نہیں۔

(۳) اپنے ناممکن تخیل و تصور کا رد و ابطال کرنے کے بعد جناب ملیح آبادی صاحب ان ناممکن امور کے امکان کی سبیل ایجاد کر رہے ہیں۔ اور ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ذی شعور اور ذی عقل ایسی پھوڑ بات کبھی کہہ نہیں سکتا لہذا ملیح آبادی صاحب ”تو پھر کیا میں دیوانہ ہوں۔“ کا جملہ استعمال کر کے اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ایسی بات وہی کہہ سکتا ہے جس کی عقل کا چراغ گل ہو گیا ہو۔ لیکن پھر بھی ایسی بات کہہ رہے ہیں اور اپنے شش و پنج کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس بات کا امکان محال ہے ایسی بات کہہ کر کہیں میں پاگلوں میں تو شمار نہیں ہوتا؟ ”مجذب و ب ہوں کہ بزبانک رہا ہوں؟“ یعنی کیا میں دیوانہ ہوں کہ دیوانگی کے عالم میں بے تکی بات کہہ رہا ہوں؟ جناب ملیح آبادی صاحب کو خود اپنی کہی ہوئی بات کے درست ہونے میں تردد ہے کہ میری یہ بات ٹھنڈے پہر کی گپ تو نہیں سمجھی جائے گی نہ؟ خدائے تعالیٰ مولانا مدنی صاحب کے بوب میں گلی کو چوں میں گھومتا ہے، لوگوں

سے بات چیت کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے وغیرہ باتیں کہنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں پاگل ہوں؟ میرے ایسے واہیات جملے اور لغو کلام کہیں میری جنونی کیفیت کی نشاندہی تو نہیں کرتے؟

(۳)

یہاں تک تو جناب علیح آبادی صاحب نے ناممکن بات اور امر محال کے ساتھ ساتھ دیوانگی پاگل پن اور جنون کی راگنی آلاپتے رہے اور پھر اچانک پانساپانا اور بات کا رخ یک لخت موڑ دیا۔ اور اب یقین کے درجہ میں مات کرنے لگے۔ جس امر محال کے متعلق تصور کرنے کو بھی پاگل پن کہہ رہے تھے، اب اسی امر محال کے امکان کی بات کہنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ”نہیں بھائیو! یہ بات نہیں ہے۔ سڑی ہوں، نہ سودائی“ یعنی ایسی ناممکن اور محال بات کہہ کر میں پاگل یا دیوانہ نہیں ہوں بلکہ سالم العقل اور فرزانہ ہوں۔ کیونکہ میں نے جو محال بات کہی ہے وہ غلط نہیں ہے بلکہ ”جو کہہ رہا ہوں سچ ہے، حق ہے۔“ یعنی خدائے تعالیٰ کا گلی کوچوں میں چلتے پھرتے نظر آنا، فانی انسانوں سے فروتنی کرنا، اپنی کبریائی پر پردہ ڈال کر لوگوں کے گھروں میں آ کر رہنا لوگوں سے بات چیت کرنا اور لوگوں کی خدمات کرنا سچ ہے، حق ہے۔

(۵)

اپنی سراسر جھوٹ اور کذب و دروغ پر مشتمل بات کی صداقت اور حقانیت ثابت کرنے کے لیے جناب علیح آبادی صاحب ”سمجھ کا پھیر“ اور ”حقیقت و مجاز کا فرق“ کی منطق چھانٹنی شروع کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ ”مگر سمجھ کا ذرا سا پھیر ہے۔“ حقیقت و مجاز کا فرق ہے۔ یعنی عبارت کی ابتداء میں جس امر محال کا ذکر کیا ہے۔ اس کا صادر ہونا ممکن ہے۔ لیکن یہ امکان سمجھ کے پھیر اور حقیقت و مجاز کے فرق پر مبنی ہے۔ یعنی خدائے تعالیٰ اپنے حقیقی رذپ میں انسانوں کے درمیان رہ کر گلی کوچوں میں چلتا پھرتا نظر نہیں آتا تھا بلکہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی حسین احمد ٹانڈوی صاحب ہمارے درمیان رہ کر ادھر ادھر بھٹکتے تھے، ہمارے ساتھ فروتنی کرتے تھے، ہمارے گھروں میں آ کر ڈیرا ڈالتے تھے، ہم سے گفتگو کرتے تھے، ہماری خدمات کرتے تھے، یہ سب ”خدائی محال“ تھا۔ جناب حسین احمد صاحب

ٹانڈوی ہمارے درمیان ”خدا کا جلوہ“ اور ”مجازی خدا“ کی حیثیت سے اس بھرتی پر رونا ہوتے تھے۔

(۶) اپنے مقتدا اور پیشوا مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی کو ”مجازی خدا“ ثابت کرنے کے لیے جناب علیح آبادی صاحب نے آگے چل کر جذبہٴ محبت کا دامن تھامنے کی کوشش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”محبت کا معاملہ ہے۔“ یعنی جناب ٹانڈوی صاحب کے مرتبہ عالیہ میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ محبت کا معاملہ اور تقاضا ہے۔ کس کی محبت کا معاملہ ہے؟ خدا کی محبت کا معاملہ ہے؟ نہیں، نہیں! بلکہ ٹانڈوی صاحب کی محبت کا معاملہ ہے۔ صرف محبت ہی نہیں بلکہ ”اندھی محبت“ کا معاملہ ہے۔ اور مشہور مثل ”اندھے کو رات دن برابر ہے۔“ کے مطابق جناب علیح آبادی صاحب بھی ٹانڈوی صاحب کی محبت میں اندھے بن کر اچھے اور برے میں تمیز کرنے سے عاجز اور قاصر بن کر انہیں ”الوہیت“ کی سرحد میں مارتول کر گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ حقیقی خدا نہ کہہ سکے تو ”مجازی خدا“ کہہ دیا۔

(۷) جناب علیح آبادی صاحب اپنے مقتدا اور پیشوا جناب ٹانڈوی صاحب کو علو مرتبت کے منصب پر فائز کرنے کرانے کے لیے محبت کا معاملہ پیش کرنے کے بعد محبت کا مزاج اور محبت کی خاصیت بھی بیان کر رہے ہیں کہ ”اور محبت میں اشاروں، کتالیوں سے سی کام لینا پڑتا ہے۔ محبت بے پردہ سچائی کو گوارا نہیں کرتی۔“ یعنی محبت میں کوئی بات صاف و صریح لفظوں میں عیاں اور کھلم کھلا نہیں کہی جاتی بلکہ اشاروں اور کتالیوں سے کام لیتے ہوئے بات سمجھائی جاتی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ”محبت بے پردہ سچائی کو گوارا نہیں کرتی“ یعنی ایسی حقیقت کہ جو سچ ہونے کے باوجود بے پردہ ہو وہ سچائی محبت کو گوارا نہیں ہوتی۔ اس جملے کے ذریعہ علیح آبادی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیشوا جناب ٹانڈوی صاحب ایسی قدسی صفات کے حامل تھے کہ ان کی قدسی صفات کو صاف اور صریح لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ واللہ جناب ٹانڈوی صاحب کی ”صفات قدسی“ بقول جناب علیح آبادی

ایسی سچائی ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور جس کا علانیہ طور پر اعتراف بھی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ”محبت کا معاملہ ہے۔۔۔ اور محبت بے پردہ سچائی کو گورا نہیں کرتی۔“
یعنی ٹائٹوی صاحب کی انوکھیت کا علی الاعلان اور صاف لفظوں میں اقرار و اعتراف نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اشاروں اور کنایوں میں بات سمجھائی جا رہی ہے۔

(۸) اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب ٹائٹوی صاحب چاہے بشکل و صورت انسان

تاریخ درمیان نظر آتے ہیں لیکن وہ صرف ظاہری شکل و صورت میں ہی انسان ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا جلوہ مولانا ٹائٹوی کی صورت میں روئے زمین پر انسانوں

کے درمیان رونما ہوا تھا۔ قارئین کرام سے التماس ہے کہ مسلسل ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ کا ورد جاری رکھتے ہوئے انصاف فرمائیں کہ انبیائے کرام

اور اولیائے عظام اور بالخصوص نبی کریم رؤف و رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی مخالفت کرنے کے لیے بات بات میں توحید کا علم بلند کرنے والے

اور اپنے آپ کو توحید کا سچا پرستار کہنے والے اور توحید خالص کے دعوے دار کس بے رحمی سے توحید کے اصولوں پر پتھری پھیر رہے ہیں۔ جناب ملیح آبادی صاحب

اپنے پیشوا مولوی ٹائٹوی صاحب کو خدا کا جلوہ ثابت کرنے کے لیے کسی گھوم پھرا کر بات نہ رہے ہیں۔ محبت کا معاملہ بے پردہ سچائی، اشاروں کنایوں، وغیرہ کی

بے بسی اور بے ربط تمسید باندھنے کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ ”چھ بند بند، ڈھکی ڈھکی، چھپی چھپی باتیں ہی محبت کو اس آتی ہیں۔“ یعنی محبت کا اظہار بند نشیوں میں

ڈھکے انداز اور چھپے ہوئے مطلب سے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی جو کہتا ہو اور جو مقصد ہو اسے صاف اور صریح طور پر کہنے کے بجائے ڈھکے انداز میں کہنا ہی

مناسب ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جناب ٹائٹوی صاحب کو ”خدا کا جلوہ“ کہنے کے لیے بھی وہی انداز اور طرز اختیار کیا گیا ہے۔

(۹) عبارت کے اتمام میں توحید کے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر یہاں تک لکھ دیا

کہ ”تو پھر خدا ہوتا ہے اور پھر آسمانوں اور زمین کے مخلوق ہیں اس بند کو دیکھا

ہے، وہ کیوں نہ کہیں ہم نے خود اللہ بزرگ و برتر کا جلوہ اپنی سرزمین پر دیکھا ہے۔“
یعنی اب لیج آبادی صاحب اپنی محبت ٹانڈوی کو بند بند، ڈھکے ڈھکے اور چھپے چھپے
انداز میں اظہار کرنے کے بجائے صاف کھلے انداز میں منکشف کر رہے ہیں کہ جب
خدا کا قافی انسانوں سے فروتنی کرنا، اپنی کبریائی پر پردہ ڈال کر لوگوں کے گھروں میں
آ کر رہنا، لوگوں سے ہمکلام ہونا اور لوگوں کی خدمتیں کرنا ناممکن اور محال ہے
خدا تعالیٰ حقیقی روپ میں اس طرح ہمارے درمیان نظر نہیں آتا، تو اب سوال یہ
پیدا ہوتا ہے ”خدا را بتاؤ“ کہ ہماری آنکھوں نے مولانا حسین احمد صاحب مدنی کو
ہم سے فروتنی، ہمارے درمیان سکونت، ہم سے ہمکلامی اور ہماری خدمات کرتے
ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور جن کو ہم نے اس انداز سے دیکھا ہے ہو سکتا
ہے کہ ہم نے مولانا حسین احمد مدنی کے روپ میں حقیقی خدا کے بجائے خدا کا جلوہ
دیکھا ہو۔

(۱۰) جناب مولوی عبدالرزاق صاحب لیج آبادی اپنے پیشوا مولوی حسین احمد ٹانڈوی
کے عقیدت و محبت میں ایسے غوطہ زن بلکہ مستغرق ہیں کہ اپنے پیشوا کو حقیقی خدا نہ کہہ
سکتے تو ”مجازی خدا“ کہہ کر ہی دم لیا اور صاف لفظوں میں انہیں خدا کا جلوہ کہہ دیا۔
”جن آنکھوں نے گزی گاڑھے میں ملفوف اس بندے کو دیکھا ہے۔“ یعنی ”جن
آنکھوں نے گزی گاڑھے یعنی مونا اور دبیر سوتی کپڑے یعنی کھدر میں ملفوف یعنی
پیٹا ہوا جو بندہ یعنی مولوی حسین احمد ٹانڈوی کو دیکھا ہے وہ بظاہر تو ایک بندہ نظر آتا
ہے لیکن اس بندے کو دیکھنے کے بعد یہ کہنا ہی مناسب ہے کہ ”ہم نے خود اللہ
بزرگ و برتر کا جلوہ اپنی اس سرزمین پر دیکھا ہے۔“ یعنی اللہ کا جلوہ گزی گاڑھا یعنی
کھدر (Cotton Stuff = کھادی) پہنے ہوئے بندے کی شکل میں زمین پر چلنا
پھرتا نظر آتا ہے۔

(۱۱) قارئین کرام کی معلومات میں اضافہ ہوا اس مقصد سے عرض ہے کہ ”الجمعیۃ“
(روزنامہ) کے ”شیخ الاسلام نمبر“ کی زیر تبصرہ عبارت میں دارالعلوم دیوبند کے

صدر المدرسین مولوی حسین احمد ٹانڈوی کے لیے ”گزی گاڑھے میں ملفوف بندہ“ کا جو جملہ استعمال کیا گیا ہے وہ بر محل اور مناسب ہے۔ یعنی ”کھڈر پہننے والا بندہ“۔ جناب ٹانڈوی صاحب ایک نمبر کے سیاسی آدمی اور سیاسی پارٹی ”کانگریس“ کے خاص رکن تھے۔ جب بھی کوئی شخص سیاست کے دلدل میں کودتا ہے، تو اس کا سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے ملبوسات صرف اور صرف کھڈر کے ہی ہوتے ہیں۔ خود کو ”ولیس بھکت“ اور ”مصلوب گاندھوی“ میں شمار کرانے کے لیے وہ ہمیشہ کھڈر کا ہی لباس پہنتا ہے۔ جناب ٹانڈوی صاحب بھی سر سے پاؤں تک سیاست کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ لہذا انہوں نے بھی دائمی طور پر کھڈر کے کپڑے اختیار کر لیے تھے۔ جناب ٹانڈوی صاحب ”کھڈر دھاری“ کے سیاسی مٹلاتے تھے۔

”ٹانڈوی صاحب کا ”کھڈر پریم“

سیاسی لیڈر ہونے کی وجہ سے ٹانڈوی صاحب پکے ”کھاوی دھاری مٹلاتے“ سیاست کی علامت ”کھڈر“ سے ایسا دلی تعلق اور قلبی انس تھا کہ زندگی بھر کھڈر پہنتے رہے بلکہ لوگوں کو بھی کھڈر پہننے کی تلقین کرتے تھے اور رغبت دلاتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کا یہ اصرار تھا کہ سیت کا کفن بھی کھڈر ہی کا ہو اور جس میت کا کفن کھڈر کا نہیں ہوتا تھا، اس پر سخت ناراضگی اور کٹنگلی کا اظہار کرتے تھے۔

روزنامہ ”الجمعیۃ“ کے ”شیخ الاسلام نمبر“ کی ایک عبارت پیش خدمت ہے:-

”مولانا نے ایک جنازے کی نماز کے وقت سخت ناراضگی کا اظہار کیا کیونکہ کفن

کھڈر کا نہیں تھا۔“ (حوالہ:- الجمعیۃ ”شیخ الاسلام نمبر“ ص: ۲۵)

کفن کھڈر کا نہ ہوتا۔ کوئی خلاف شریعت کام نہ تھا کہ جناب ٹانڈوی صاحب سخت

ناراض ہو گئے۔ حالانکہ کھڈر کا کفن شرعاً ممنون بھی نہیں۔ سفید کپڑے کا کفن جو بیش بہا قیمت کا اور امیرانہ شان کا نہ ہو۔ ایسے کپڑے میں میت کو کفنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کفن کھڈر کا نہ ہو تو گناہ بھی نہیں۔ لیکن جناب ٹانڈوی صاحب کو سیاست کا ایسا پکارنگ چڑھا ہوا تھا کہ مذہبی امور میں بھی جبراً سیاست کی آمیزش کرتے تھے۔ بلکہ یوں کہیے کہ میت کے کفن کے لیے بھی کھڈر کا اصرار کر کے ایک نئی بدعت رائج کر رہے تھے۔

کھڈر پہننا جائز اور مباح ہے۔ لیکن فرض یا واجب تو ہرگز نہیں۔ کھڈر پہننے والا گتھگار نہیں۔ اسی طرح کھڈر نہ پہننے والا بھی گتھگار نہیں۔ کھڈر نہ پہننے والا شرعاً مستحق تعزیر اور لائق سزائش نہیں۔ کھڈر نہ پہننے والے پر شرعاً کوئی جرم عائد نہیں ہوتا اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا مواخذہ ہے۔ لیکن ٹانڈوی صاحب سیاسی لباس کھڈر کے ایسے وِلد ادہ تھے کہ میت کے کفن کے لیے بھی کھڈر کو ضروری سمجھتے تھے اور اگر کسی میت کا کفن کھڈر کا نہ ہوتا تو ٹانڈوی صاحب صرف ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ ”سخت ناراضگی کا اظہار کیا کرتے تھے۔“ جس کام کے کرنے یا نہ کرنے سے اسلامی شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو، ایسے کام کے لیے ناراضگی ظاہر کرنا مناسب اور مستحسن ہے لیکن جس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں احکام شریعت کی مخالفت نہ ہوتی ہو، ایسے کام کے لیے ناراضگی بلکہ ”سخت ناراضگی“ ظاہر کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی میت کا کفن کھڈر کا نہ ہونا، خلاف شریعت کام ہرگز نہیں، تو پھر اس پر کیوں سخت ناراضگی ظاہر کی جا رہی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جو کام ہمیں پسند ہے وہ کام دوسرے بھی پسند کریں؟ ٹانڈوی صاحب سیاسی آدمی تھے، لہذا کھڈر پر فریفتہ تھے، لیکن ان کی محبوب اور مرغوب ’کھڈر‘ کی وردی سے تمام لوگ محبت و رغبت رکھیں، حتیٰ کہ میت کا کفن بھی کھڈر کا ہو، ایسا اصرار کرنا تشدد اور زیادتی نہیں، تو اور کیا ہے؟ جناب ٹانڈوی صاحب نے کھڈر کا لباس مذہبی بناء پر نہیں اپنایا تھا بلکہ صرف اور صرف سیاست کی وجہ سے ہی اپنایا تھا۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین جناب ٹانڈوی صاحب نے اپنے سیاسی اہرتکاب کو مذہبی رنگ دینے کی نازیبا اور مذموم حرکت کر کے مذہب اور سیاست کا معجون مرکب بنانے کی ناموزوں کوشش کی تھی۔

ایک مزید حوالہ قارئین کرام کی خدمت میں پیش ہے:-

دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین آنجناب مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی کو سیاسی لباس کھڈر سے ایسا لگاؤ تھا کہ زندگی بھر انہوں نے کھڈر کا لباس پہنا اور کھڈر کا ہی ہمیشہ استعمال کیا۔ یہاں تک کہ ان کو کھڈر میں ہی کفنا کر دفتایا گیا۔ ”آپ نے زندگی بھر کھڈر پہنا، کھڈر ہی کا استعمال کیا اور مرنے کے بعد بھی کھڈر ہی کا کفن آپ کے حصہ میں آیا۔“

(حوالہ:- روزنامہ ”الجمعیۃ“ دہلی کا ”شیخ الاسلام نمبر“ مورخہ

۱۵ فروری، ۱۹۵۸ء سنیچر، ص ۱۱۶)

بات کہاں کی کہاں نکل گئی۔ ہمارے موضوع سخن دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین جناب ٹانڈوی صاحب کو ان کے عاشق زار اور دیوبندی مکتبہ فکر کے ذمہ دار اور نامور مولوی و مصنف جناب ملیح آبادی نے ”خدا کا جلوہ“ اور ”مجازی خدا“ کا منصب عطا کرنے کے لیے توحید کے تمام اصولوں کا گلا گھونٹ کر خراج عقیدت پیش کرنے میں حد درجہ کاغلو اور مبالغہ کیا ہے۔ لگے ہاتھ ایک مزید حوالہ ٹولیں:-

ٹانڈوی صاحب عالم نؤر میں رہتے ہیں اور خود بھی تو رہو گئے ہیں؟

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر اور مر کر مٹی میں مل گئے کہنے والے دور حاضر کے منافقین جب اپنے پیشوا کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، تب اپنے پیشوا کی اندھی عقیدت و محبت میں بہک کر اپنے پیشوا کی تعریف کے پل باندھتے ہوئے زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ اور اسی سابقہ میں مولوی عبدالرزاق ملیح آبادی کے مضمون کی ایک عبارت پیش کی گئی ہے۔ جس میں دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی حسین احمد ٹانڈوی کے متعلق بڑی دلیری اور جرأت سے صاف صاف لکھ دیا کہ جناب ٹانڈوی صاحب اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کا جلوہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی کبریائیوں پر پردہ ڈال کر کھڈر کے لباس میں ملفوف ہو کر بشکل سیاسی مولوی حسین احمد ٹانڈوی لوگوں کے درمیان آ بسا ہے۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

جناب ٹانڈوی صاحب کا مندرجہ بالا رتبہ و مرتبہ تو ان کی حیات میں تھا لیکن ان کے انتقال کے بعد اب وہ کس درجے و رتبے پر فائز ہیں، وہ دیکھیں:-

”اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عالم نور میں رہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں بھی نور ہے۔ ان کے دائیں بھی نور ہے، ان کے بائیں نور ہے۔ ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہے۔ وہ خود نور ہو گئے ہیں۔“

(حوالہ:- روزنامہ ”الجمعیت“ دہلی کا ”شیخ الاسلام نمبر“ ص: ۱۲)

جناب ٹانڈوی صاحب جب زندہ تھے تب اس سرزمین پر ”خدا کا جلوہ“ تھے اور جب مر گئے تو سیدھے عالم نور میں پہنچ گئے اور بالآخر خود سراپا نور ہو گئے۔ قارئین کرام انصاف فرمائیں کہ دور حاضر کے منافقین اپنے پیشوا کو کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں۔ اور ”پیراں نمی پرند مریداں می پرانند“ یعنی پیر تو نہیں اڑتے مرید اڑاتے ہیں یعنی جھوٹی تعریف کرتے ہیں والی مثل پر بھر پور عمل کرتے ہیں۔ اپنے پیشوا کی تعریف و توصیف کے وقت توحید کے خود ساختہ تمام اصول بھی یک لخت فراموش کر جاتے ہیں۔

اگر کوئی عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں توحید کے اصول ملحوظ رکھتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ارفع و اعلیٰ اور آپ کی بے مثل و مثال نوری بشریت بیان کرتا ہے تو بھی دور حاضر کے منافقین کے ماتھے پر شکن پڑتے ہیں اور ناگواری کے آثار ان کے چہرے سے عیاں ہوتے ہیں اور فوراً قرآن مجید کی آیت کریمہ **قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** پیش کر کے اور اس آیت سے غلط استدلال کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ اور معاذ اللہ حسب ذیل توہین آمیز جملے ان کی زبان سے جاری ہوتے ہیں۔

◎ ایک حوالہ پیش خدمت ہے:-

”اولیاء و انبیاء و امام زادہ، پیر و شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور عاجز بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں مگر اللہ نے ان کو

marfat.com

بڑائی دی، وہ بڑے ہوئے، ہم کو ان کی فرمانبرداری کا حکم ہے، ہم ان کے چھوٹے ہیں۔ ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہئے، نہ کہ اللہ کی طرح۔“

(حوالہ:- "تقویۃ الایمان" مصنف: مولوی اسماعیل دہلوی، ناشر: دارالتسلیف، ممبئی، صفحہ نمبر: ۹۹)

تقویت الایمان کی مندرجہ بالا عبارت میں انبیائے کرام اور اولیائے عظام بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام مشرب بندوں کو عاجز بندے اور عام انسانوں کی مانند شمار کر کے صرف اتنی ہی اہمیت دی کہ وہ ہمارے "بڑے بھائی" ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو صرف بڑے بھائی جتنی ہی اہمیت دو۔ اور بڑے بھائی جتنی ہی تعظیم کرو۔ جس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ انبیائے کرام کی تعظیم اپنے باپ کی تعظیم سے کم کرو۔ کیونکہ بڑا بھائی چاہے کتنا بھی معظّم و مکرم ہو، باپ کے درجہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ بلاشبہ! بڑے بھائی کا مرتبہ بڑا ہے لیکن اس کا مرتبہ باپ کے مرتبہ سے کم ہے۔ بڑا بھائی بمقابل باپ کے درجہ میں کم ہی ہوتا ہے۔ الحاصل! تقویت الایمان کے گستاخ مصنف اور امام المنافقین نے انبیائے کرام کی تعظیم کو بڑے بھائی کی تعظیم تک محدود کر دیا ہے اور انبیائے کرام کی تعظیم کا درجہ باپ کی تعظیم سے کم بتایا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے جذبہ اور عشق صادق کے ولولہ میں بارگاہ رسالت میں اس طرح عرض کرتے تھے کہ **فِذَاكَ أَبِي وَاقِي يَا رَسُولَ اللَّهِ** یعنی "یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان"۔ صحابہ کرام تو اپنے ماں باپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان کرنے کا جذبہ سکھائیں اور دور حاضر کے منافقین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم بھی اپنے باپ جتنی کرنے سے روکتے ہیں اور یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انسان اور عاجز بندے ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی ہیں لہذا ان کی تعظیم بڑے بھائی جیسی ہی کرو۔ ناظرین کرام انصاف کریں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمانی جذبہ کی بولی کے مقابل دور حاضر کے منافقین کی بولی کیسی ہے؟ ایمانی ہے یا کفری؟

© منافقین زمانہ کی دیگر کتاب کا ایک حوالہ پیش خدمت ہے:-

"البتہ نفس بشریتہ علیٰ ہمالیہ تلبس کفہا کفہ الخمر خمر اللہ"

فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (ترجمہ) ”کہہ دیجئے کہ میں تمہارے

ہی جیسا ایک بشر ہوں۔“..... پس اگر کسی نے بوجہ آدم ہونے کے آپ صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھائی کہا تو کیا خلاف نص کہہ دیا۔ وہ تو خود نص کے موافق ہی

کہتا ہے۔“ (حوالہ:- ”براہین القاطعہ علی تلام الانوار الساطعہ“ مصنف:-

مولوی خلیل احمد انیسٹھوی، مصدقہ:- مولوی رشید احمد گنگوہی، ناشر:- کتب خانہ

امدادیہ، دیوبند، ص: ۲)

مندرجہ بالا عبارت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنی آدم یعنی انسانوں سے

مماثل یعنی عام انسانوں کی مانند اور مثل ہونے کے لیے قرآن مجید کی آیت مقدسہ قُلْ إِنَّمَا

أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ہی بطور دلیل پیش کیا ہے۔ اور مندرجہ بالا عبارت میں آیت کے ترجمہ کی

طرف قارئین کرام توجہ فرمائیں گے تو ایک خیانت سامنے آئے گی مولوی خلیل احمد صاحب

انیسٹھوی نے آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر

ہوں۔“ اس ترجمہ میں جناب انیسٹھوی صاحب نے ”تمہارے جیسا“ کے بجائے ”تمہارے

ہی جیسا“ کا جملہ لکھا ہے۔ اس جملہ میں لفظ ”ہی“ کا اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے۔ لفظ ”ہی“

تخصیص و تاکید کا حرف ہے۔ (دیکھو:- فیروز اللغات، ص: ۱۳۵۹) یعنی تمہارے جیسا کے

بدلے ”تمہارے ہی جیسا“ کا جملہ لکھ کر بات کو مؤکد کیا گیا ہے یعنی معاذ اللہ حضور صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کا ”جملہ بنی آدم“ یعنی تمام انسانوں کی طرح بشریت کے معاملہ میں مماثل یعنی

بمسر ہونے میں کسی قسم کا شک و تردید نہیں۔ جیسا کہ اوراق سابقہ میں ہم نے عرض کیا ہے کہ

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے مثل و مثال نوری بشریت کو عام انسانوں کی بشریت

کی طرح ثابت کرنے کے لیے منافقین زمانہ قرآن مجید کی مقدس آیت قُلْ إِنَّمَا أَنَا

بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ہی پیش کر کے اس آیت سے غلط استدلال کرنے کی حرکت مذموم کرتے ہیں۔

یہاں بھی وہی طرز اور طریقہ اپنایا گیا ہے۔ جناب انیسٹھوی صاحب نے اس آیت کا ترجمہ

کرنے کے بعد یہاں تک لکھ مارا ہے کہ ”پس اگر کسی نے بوجہ آدم ہونے کے آپ کو بھائی کہا

تو کیا خلاف نص کہہ دیا“ (نہروں نے اصل کتاب سے حرف بحرف عبارت نقل کی

ہے۔ اصل کتاب میں ”بوجہ آدم ہونے کے“ چھپا ہوا ہے۔ حالانکہ ”بوجہ بنی آدم ہونے کے ہونا چاہیے۔ شاید طباعت کی غلطی سے ”بنی آدم“ کے بجائے صرف ”آدم“ چھپ گیا ہے۔
یعنی مولوی خلیل احمد انیسٹھوی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”بھائی“ کہا تو اس نے ہرگز نص کے خلاف نہیں کیا ”نص“ یعنی قرآن پاک کی وہ آیتیں جو صاف اور صریح ہوں۔ (دیکھو:۔ فیروز اللغات، ص: ۱۳۶۱) جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”بھائی“ کہنا قرآن مجید کی آیت کے خلاف نہیں۔ پھر آگے وضاحت کرتے ہوئے انیسٹھوی صاحب نے لکھا ہے کہ ”وہ تو خود نص کے موافق ہی کہتا ہے۔“ یہاں بھی ”عی“ کا حرف تاکید استعمال کر کے بات کو وزن دار اور مؤثر بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھائی کہنا قرآن سے ثابت ہے اور جو شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھائی کہتا ہے وہ ہرگز قرآن کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ موافقت کرتا ہے۔

ہمارے محترم اور معزز قارئین کرام کی عدالت میں استغاثہ کرتے ہوئے عرض ہے کہ ”براہین قاطعہ“ کے مصنف جناب انیسٹھوی صاحب کیسے فریبانہ انداز میں موڑ مروڑ کر اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ عبارت کی ابتداء میں ”نفس بشریت“ یعنی انسان ہونے کی حقیقت کی منطق چھانی ہے۔ بعد ”جملہ بنی آدم“ یعنی تمام انسانوں سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نفس بشریت میں برابر کہا۔ ایک نکتہ یہاں قابل توجہ اور غور ہے کہ انیسٹھوی صاحب نے جملہ بنی آدم سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نفس بشریت میں مماثل ٹھہرایا ہے اور جملہ بنی آدم میں تمام انسان آگئے۔ چاہے مشرک ہو، کافر ہو، مجوسی ہو، دہریا ہو، یہودی ہو، نصاریٰ ہو، چاہے مومن ہو۔ جملہ بنی آدم ان تمام اقسام کو محیط ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے مشرک ہو یا کافر یا اور کوئی باطل مذہب کا قبیح ہو، نفس بشریت میں وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مانند و مثل ہے۔ اور اپنی اس ناموزوں بات کو موزوں ثابت کرنے کے لیے ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیت قرآن پیش کی ہے۔ حالانکہ اوراق سابقہ میں اس آیت مقدسہ کی تفصیلی وضاحت ہم نے پہلے ہی کی ہے۔

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کر چکے ہیں۔ جن کا اعادہ نہ کرتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ آیت کریمہ آیت
متشابہات میں سے ہے اور قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق جن لوگوں کے دلوں میں کجی یعنی
ٹیزھا پن ہوتا ہے وہی لوگ آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ جس کا تفصیلی بیان تھو
الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
تَأْوِيلِهِ“ (پارہ: ۳، سورہ آل عمران، آیت: ۷) ترجمہ:- ”وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب
اُتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن
کے معنی میں اشتباہ ہے۔ وہ جن کے دلوں میں کجی ہے۔ وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں،
گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈھنے کو۔“ (کنز الایمان)

اس ارشاد ربانی کے مطابق دورِ حاضر کے منافقین بھی آیات متشابہات کو بطور دلیل پیش
کر کے اور آیات متشابہات کے من چاہے معنی اور تاویل کر کے گمراہی کا پہلو ڈھونڈ نکالتے
ہیں۔ جیسا کہ کتاب ”براہین قاطعہ“ کی زیر تبصرہ عبارت میں طریقہ اپنایا گیا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا
أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ آیت پیش کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”نفس بشریت“ میں
جملہ بنی آدم یعنی تمام انسانوں کے برابر کہا۔ پھر انسان انسان آپس میں بھائی بھائی والے غیر
معقول و نامناسب نظریے کے تحت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انسان ہونے کے
ناٹے بھائی کہا۔ پھر جرأت اتنی بڑھی کہ یہاں تک لکھ دیا کہ جس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کو ”بھائی“ کہا اس نے قرآن کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا بلکہ قرآن کے حکم کے مطابق
کہا ہے۔ بات کہاں کی کہاں پہونچادی؟ نفس بشریت کی منطق چھانٹ کر حضور اقدس کو پہلے
عام انسانوں کی طرح بشر کہا پھر ”بھائی“ کہہ دیا۔ اور حضور کو بھائی کہنا قرآن کے ارشاد کے
موافق لکھ دیا۔ ان منافقوں سے ہم صرف اتنا ہی پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایسی کون سی آیت
ہے، جس کا صاف اور صریح مطلب ایسا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”بھائی“ کہو۔
صرف ایک آیت کریمہ کہ جو آیات متشابہات سے ہے یعنی قُلْ إِنَّمَا أَنَا
نَشْرٌ مِّثْلُكُمْ“

اس آیت کریمہ کو دلیل بنا کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا ہرگز روا نہیں۔ اگر ایمان کی نظر سے اس آیت کو سمجھا جائے تو اس آیت سے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے مثل و مثال نوری بشریت ثابت ہوتی ہے لیکن دور حاضر کے منافقین کو نبی کا بھائی بننے کا ایسا چسکا لگا ہے کہ جس آیت سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے مثل و مثال نوری بشریت عیاں و بیاں ہو رہی ہے، اسی آیت سے غلط استدلال کر کے بلکہ کھینچ تان کر اور گھسیٹ گھساٹ کر غلط معنی و مفہوم اخذ کر کے حضور اقدس کو ”بشر“ اور ”بھائی“ کے ہی درجہ اسفل میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

مولوی ظلیل احمد انیسٹروی صاحب کی رسوائے زمانہ کتاب ”براہین قاطعہ“ کی زیر بحث مذکورہ بالا عبارت دراصل امام المنافقین، ملا اسماعیل دہلوی کی مہلک ایمان کتاب ”تقویۃ الایمان“ کی اُس عبارت کی تائید و توثیق میں کہی ہے جس عبارت میں تمام انبیاء و اولیاء کو عام انسان، عاجز بندے اور بڑے بھائی کہا گیا ہے۔

مختصر یہ کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ عظمت کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، تو دور حاضر کے منافقین قرآن مجید اور احادیث کریمہ کے من مانے تراجم اور من چاہی توضیح کر کے حضور اقدس کے مراتب عالیہ کی پیمائش کرتے ہیں اور گویا کہ انہوں نے حضور اقدس کے مراتب و درجات کو یقینی طور پر ناپ تول لیا ہو اور حضور اقدس کے رتبہ عالی کی کہاں تک حد ہے؟ وہ ظاہر کرتے ہیں اور حضور اقدس کے درجات و مراتب کی حد بندی کرتے ہیں بلکہ ایک متعین حد مقرر کرتے ہیں کہ وہ عام انسانوں کی طرح بشر تھے، ان کی بڑائی صرف اتنی ہی ہے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ لیکن جب ان کے پیشوا کا معاملہ ہوتا ہے تو پیمائش کے تمام آلات توڑ پھوڑ دیتے ہیں اور اپنے پیشوا کے لیے ایسے کلمات مدح و ثنا رقام کرتے ہیں، جن کلمات کا استعمال حضور اقدس کی تعریف و توصیف میں ان کے اعتقاد میں ناروا اور شرک ہے۔

◎ ایک حوالہ پیش خدمت ہے :-

”آکالک مہلک مہلک مہلک“

علمیہ اور کمالاتِ باطنیہ کی صحیح اطلاع یا تو خداوند قدوس کو ہو سکتی ہے یا ان اولیاء

کرام اور علماء ربانین کو ہو سکتی ہے۔ جن کو مبداءِ فیاض نے چشمِ بصیرت عطا

فرمائی ہے۔ ہم جیسے کو چشمِ آپ کی ذاتِ قدسی صفات کو کیا پہچان سکتے ہیں۔“

(حوالہ:- ”الجمعیت“ روزنامہ، دہلی کا ”شیخ الاسلام نمبر“ مورخہ:- ۲۵/رجب

المہرجب، ۱۳۷۷ھ مطابق ۱۵/فروری ۱۹۵۸ء، سنیچر، صفحہ نمبر: ۶۷)

دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین آنجنمانی مولوی حسین احمد ٹانڈوی صاحب کی

تعریف و توصیف میں مندرجہ بالا عبارت میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ:-

”آپ کے فضائل علمیہ اور کمالاتِ باطنیہ کی صحیح اطلاع یا تو خداوند قدوس کو ہو سکتی ہے یا

ان اولیاء کرام اور علمائے ربانین کو ہو سکتی ہے۔ جن کو مبداءِ فیاض نے چشمِ بصیرت عطا فرمائی

ہے۔“ یعنی ٹانڈوی صاحب میں ایسے ایسے علمی اور روحانی فضائل و کمالات تھے کہ اس کی صحیح

معلومات یا تو اللہ تعالیٰ کو ہے؛ یا اولیاء کرام کو ہے یا ان عالموں کو ہے جو علم الہی جانتے ہیں اور

جن کے پاس چشمِ بصیرت یعنی دل کی آنکھ ہے۔ ذرا انصاف کرو! حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کا درجہ اور مرتبہ تو ان منافقوں نے ناپ کر طے کر لیا کہ ہمارے جیسے بشر اور ہمارے

بڑے بھائی ہیں۔ لیکن اپنے پیشوا کے متعلق یہ اعتقاد کہ ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ، اولیاء کرام اور

علمائے ربانین کو ہی معلوم ہے۔ اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے آخر میں یہ لکھا ہے کہ

”ہم جیسے کو چشمِ آپ کی ذاتِ قدسی صفات کو کیا پہچان سکتے ہیں“ یعنی ہمارے جیسا کو چشم یعنی

اندھا ٹانڈوی صاحب کی قدسی صفات والی ذات کو نہیں پہچان سکتا۔ جس کا صاف مطلب یہ ہوا

کہ ٹانڈوی صاحب کے فضائل و درجات و کمالات کا اندازہ لگانا ہم جیسوں کے لیے ناممکن

ہے۔ ٹانڈوی صاحب مراتب و درجات کی اتنی بلند منزل میں ہیں کہ وہاں تک ہم جیسوں کی

سوچ و فکر کی رسائی نہیں۔ ان کے اعلیٰ مراتب و درجات کی منزلِ رفیع کو ہماری نگاہیں نہیں دیکھ


سکتی۔ بلکہ دیکھنے سے عاجز و قاصر ہیں۔ ان کو ان کے درجات و کمالات کے اعتبار سے دیکھنے

کے معاملے میں تو ہم اندھے ہی ثابت ہوں گے۔ ذرا پھر ایک مرتبہ انصاف کرو! دورِ حاضر

کے منافقین کی تبلیغی ٹیل کا جال بصر جاہل بلکہ جاہل اور کور باطنیہ کو درول مبلغ بھی حضورِ اقدس

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درجات و مراتب کی صحیح اطلاع ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور حضور اقدس کو اپنے جیسا بشر اور بھائی کہتا ہے لیکن اپنے پیشوا کے درجات و کمالات کے متعلق یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ان کے درجات و کمالات کی اطلاع حاصل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔

”شیخ الاسلام نمبر“ کی مندرجہ بالا عبارت کے ضمن میں کافی طویل تنقیدی تبصرہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن طوالت مضمون کے خوف سے اختصاراً یہاں تک جو کچھ عرض کیا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے صرف یہی کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور تعریف و توصیف میں محبت کے جذبہ صادقہ کے تحت کہے جانے والے کلمات تحسین پر دور حاضر کے منافقین بڑے زور سے جنم چاغ مچا دیتے ہیں۔ اور توحید کا جھنڈا بلند کر کے شرک کے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہیں لیکن جب اپنے پیشوا کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، تب توحید کا جھنڈا سمیٹ کر اور توحید کے تمام خود ساختہ اصولوں کو فراموش کر دیتے ہیں اور ایسے ”صَمَّ بُّكُمْ عُنْفً“ یعنی بہرے گو نگے اور اندھے ہو جاتے ہیں کہ شرک کے خطرے کی گھنٹی تو کیا گھنٹا بھی سنائی نہیں دیتا۔ لگے ہاتھ دور حاضرہ کے منافقین کی اپنی پیشوا کی اندھی عقیدت اور مخمور محبت کی لڑکھڑاہٹ دیکھیں۔



”دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی محمود الحسن دیوبندی نے گنگوہی صاحب کی قبر کو کوہِ طُور سے تشبیہ دے کر ”آرینی“ یعنی تیرا جلوہ دکھایا کارا“

وہابی تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس کاندھلوی کے پیر و مرشد آنجناب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے انتقال پر تبلیغی جماعت کے حکیم الامت اور مُسَلِّم پیشوا مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے استاذ اور دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی محمود الحسن دیوبندی کہ جن کو تبلیغی جماعت کے قبعین بڑے فخر سے ”شیخ الہند“ کہتے ہیں، انہوں نے گنگوہی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک مرثیہ مرتب کیا۔ وہ قیصدہ گنگوہی اور مرثیہ گنگوہی کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ اسی ”مرثیہ گنگوہی“ کا ایک شعر پیش خدمت ہے:-

تہماری تربت انور کو دے کر طور سے تشبیہ
کہو ہوں بار بار ”آرینی“ میری دیکھی بھی نادانی

حوالہ:- مرثیہ گنگوہی،

مرتبہ:- مولوی محمود الحسن دیوبندی،

ناشر:- کتب خانہ اعزازیہ، دیوبند، صفحہ: ۱۳

مذکورہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب اپنے آنجناب پیشوا جناب گنگوہی صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے گنگوہی جی! تمہاری تربت انور یعنی نہایت نورانی قبر کو طور سے یعنی کوہ سینا یعنی کوہِ طُور یعنی ملک شام کا وہ مشہور پہاڑ جس پر خدائے

martat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی تجلی دکھائی تھی، اس پہاڑ سے تشبیہ دے کر ”آرینی“ یعنی ”مجھ کو تیرا جلوہ دکھا“ کہہ رہا ہوں، اور ”آرینی“ کہنے میں میری نادانی عیاں ہو رہی ہے۔“

اس شعر پر تبصرہ کرنے سے پہلے ”آرینی“ کے تعلق سے قرآن مجید کے ایک مشہور واقعہ کی جانب التفات کریں:-

”حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے قوم بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد اللہ کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے۔ چنانچہ فرعون کی ہلاکت کے بعد آپ کوہ سینا (کوہ طور) پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے طور کے پہاڑ کو ہر طرف سے بقدر چار فرسنگ کے ڈھک لیا۔ شیاطین اور زمین کے جانور حتیٰ کے ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے آسمان کھول دیا گیا۔ آپ نے ملائکہ (فرشتوں) کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوا میں کھڑے ہیں اور آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا۔ یہاں تک کہ الواح پر قلموں کی آواز سنی اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کریم کلام سنا کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نوازا۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جو فرمایا وہ انہوں نے کچھ نہ سنا۔

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کلام ربانی کی لذت سے اس قدر لطف اندوز اور بہرہ مند ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی آرزو ہوئی اور انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ ”آرینی“ یعنی ”مجھے اپنا دیدار دکھا“۔

(تفسیر خازن اور تفسیر خزائن العرفان، ص: ۳۰۱)

مندرجہ واقعہ کا قرآن مجید میں اس طرح بیان ہے کہ:-

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَا رَبَّنَا قَالَ رَبِّ ارِنِي أَنْظُرْ

إِلَيْكَ (پارہ: ۹، سورۃ الاعراف، آیت: ۱۴۳)

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ترجمہ:- ”اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا۔ عرض کی اے رب میرے، مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔“ (کنز الایمان)

المختصر! حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے طور کے پہاڑ پر خدائے تعالیٰ کے دیدار کی آرزو میں ”آرینی“ یعنی ”مجھے اپنا دیدار دکھا“ کہا۔ جس کا تجزیہ حسب ذیل ہے:-

☆ مقام:----- کوہ سینا یعنی ملک شام کا مشہور پہاڑ کوہ طور

☆ کیا کہا؟:----- ”آرینی“ یعنی ”مجھے اپنا دیدار دکھا“۔

☆ کس نے کہا؟:----- حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے۔

☆ کس سے کہا؟:----- اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔

اب آئیے! دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب نے اپنے پیشوا جناب گنگوہی صاحب کو مخاطب کر کے جو شعر کہا ہے وہ پھر ایک مرتبہ دیکھیں:

تمہاری تربت انور کو دے کر طور سے تشبیہ

کہو ہوں بار بار ارنی، میری دیکھی بھی نادانی

اس شعر میں جناب دیوبندی صاحب نے قرآن مجید میں مذکور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اسی واقعہ کا پھر ایک مرتبہ تخیلی اعادہ کرتے ہوئے گنگوہی صاحب کی قبر کو ”کوہ طور“ سے تشبیہ دیتے ہوئے، مولوی محمود حسن دیوبندی بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح ”آرینی“ کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تو اللہ تعالیٰ سے ”آرینی“ کہا تھا جبکہ محمود حسن صاحب تو گنگوہی جی سے کہہ رہے ہیں۔ جس کا تجزیہ حسب ذیل ہے۔

☆ مقام:----- مولوی رشید احمد گنگوہی کی قبر بمقام گنگوہ (یو، پی)

☆ کیا کہا؟:----- ”آرینی“ یعنی ”مجھے اپنا دیدار دکھا“۔

☆ کس نے کہا؟:----- مولوی محمود الحسن دیوبندی، صدر المدرسین دارالعلوم

دیوبند نے
marfat.com

کس سے کہا؟۔۔۔ آنجنابی مولوی رشید احمد گنگوہی سے۔

حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تو صرف ایک مرتبہ ہی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ”آرینی“ عرض کیا تھا مگر دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی محمود الحسن صاحب دیوبندی تو بار بار یعنی کئی مرتبہ اپنے پیشوا گنگوہی جی کی جناب میں ”آرینی“ کہہ رہے ہیں۔ شعر کے الفاظ ”کہو ہوں بار بار آرینی“ اس پر دلالت کرتے ہیں۔

حضرات انبیائے کرام اور مرسلین عظام اور بالخصوص سید الانبیاء والمرسلین حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ارفع واعلیٰ میں توہین و تنقیص کرنے کے لیے توحید..... توحید... اور توحید کی رٹ لگانے والے دور حاضر کے منافقین کے گروہ کے پیشوا اور شیخ الحدیث اپنے مقدّم گنگوہی صاحب کی اندھی عقیدت میں توحید کے اصولوں کے گلے پر کس بے دردی سے ہنسی پھیر رہے ہیں۔

جب انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم کا معاملہ سامنے آتا ہے تو منافقین زمانہ فوراً تقویت الایمان کی بولی بولتے ہیں کہ ”ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے“ (دیکھو:- تقویت الایمان، ص: ۹۹) اور مزید برآں قرآن مجید کی مقدس آیت ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ بھی بطور دلیل پیش کریں گے۔ لیکن جب اپنے گروہ کے سیاسی ملا اور دیگر پیشواؤں کا معاملہ آئے گا تو تمام دلیلیں اور اصول نسیاً منسیاً کر جائیں گے۔

مرثیہ گنگوہی کے زیر بحث شعر میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی کی دلیری اور بے باکی ملاحظہ ہو کہ وہ طوطی پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان راز و نیاز کا جو معاملہ ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کلام ربانی سے محفوظ ہو کر دیدار الہی کی آرزو اور تمنا میں اپنے رب سے ”آرینی“ عرض کیا تھا۔ اسی واقعہ کا اعادہ خیالی جناب گنگوہی صاحب کی ”سادھی“ پر کر رہے ہیں۔ اور توحید کے اصولوں کی برسرعام دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ اپنی سراسر خلاف توحید اس مذموم حرکت کو مناسب ثابت کرنے کے لیے شعر کے آخر میں کہتے ہیں کہ ”میری دیکھی بھی نادانی“ یعنی میں جناب گنگوہی صاحب کی قبر کو کہہ طور سے تشبیہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ

والسلام کی طرح ”آرینی“..... ”آرینی“..... ”آرینی“..... پکار رہا ہوں، یہ میری نادانی ہے۔ لفظ ”نادانی“ کے معنی لغت میں جہالت، بے وقوفی، نا سمجھی، وغیرہ وارد ہیں۔ (دیکھو:۔ فیروز اللغات، ص: ۱۳۳۶)۔ لہذا شعر کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جہالت، بے وقوفی اور نا سمجھی کے عالم میں جناب گنگوہی صاحب کی قبر کو کوہ طور سمجھ کر اور جناب گنگوہی صاحب کو خدا اور اپنے آپ کو حضرت موسیٰ تصور کر کے ”آرینی“ یعنی ”مجھے اپنا دیدار دکھا“ کہا ہے۔ یعنی جناب محمود حسن صاحب دیوبندی اپنے خلاف توحید ارتکاب پر کسی قسم کا مواخذہ اور گرفت نہ ہونے کے لیے ”اپنی نادانی“ کا بہانہ بطور سپر پیش کر کے اپنا دفاع کرنے کا مکر و فریب کر رہے ہیں۔

ایک بات خاص طور سے قابل غور و توجہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا معاملہ ہوتا ہے، تب دو یہ حاضرہ کے منافقین ضرورت سے زیادہ دانا، سیانا، ہوشیار، اور سمجھ دار بنتے ہوئے تو ہیں و تنقیص رسالت کی غرض فاسدہ سے آیات قرآنیہ اور احادیث کریمہ کے دلائل اپنے اعتقاد کی تائید و موافقت میں ثابت کرنے کے لیے غلط تراجم، من گھڑت تفاسیر، من چاہے مطالب، دروغ گوئی اور کذب بیانی کا آسرا لیتے ہیں لیکن اپنے معتدء و پیشوا کی خلاف توحید اور غلو و مبالغہ پر مشتمل تعریف کرتے وقت قرآن و حدیث کے دلائل کے بجائے ”دیوانہ“ اور ”نادان“ بن کر بھی نہ کہنے کا سب کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اور اق سابقہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور سیاسی ملا جناب حسین احمد ٹانڈوی صاحب کو ”خدا کا جلوہ“ اور ”کھڈر پوش مجازی خدا“ ثابت کرنے کے لیے مولوی عبدالرزاق طلیح آبادی صاحب نے اپنی خلاف توحید بات کو مناسب ٹھہرانے کے لیے ”محبت کا معاملہ ہے“ کا بہانہ پیش کر دیا اور یہاں جناب گنگوہی صاحب کو ”آرینی“ کہہ کر پکارنے کو مناسب ٹھہرانے کے لیے مولوی محمود الحسن دیوبندی اپنی ”نادانی“ کا عذر آگے دھرتے ہیں۔ ایسے دیوانوں اور نادانوں نے بے شمار لوگوں کے ایمان کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اپنے پیشواؤں کی اندھی عقیدت میں ”دیوانہ“ اور ”نادان“ بن کر اپنی خود ساختہ توحید کے پردے کو بھی تار تار کر ڈالا ہے۔

© ایک اہم نکتہ کی طرف بھی معزز قارئین کرام کی توجہات مرکوز کرنا ضروری ہے کہ دار

العلوم دیوبند کے صدر المدرسین جناب مولوی محمود الحسن دیوبندی کا مرتب کردہ

marfat.com

”مرثیہ گنگوہی“ ۱۳۲۳ھ میں جناب گنگوہی صاحب کی موت واقع ہونے کے بعد مرتب کیا گیا ہے۔ اور گنگوہی صاحب کے انتقال کے بعد مرثیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ”تمہاری تربت انور کو“ یعنی گنگوہی صاحب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے گنگوہی جی! تمہاری محبت میں میں ایسا نادان ہو گیا ہوں کہ تمہاری قبر کو طور کے پہاڑ سے تشبیہ دے کر ”اَرِنِی“ کہہ کر تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنا دیدار کراؤ اور تم کو ”اَرِنِی“ کہہ کر پکارنے میں میری جو دیوانگی اور نادانی ظاہر ہو رہی ہے، اس کو تم نے دیکھا؟ مرثیے کے اس شعر میں گنگوہی صاحب سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو کیا انتقال کے بعد بھی اپنے ایک اندھے عاشق اور احمق دیوانے کے دلی جذبات کی پکار سننے کا گنگوہی صاحب کو تصرف ہے؟ کیا گنگوہی صاحب کو اپنی تاریخ اور اندھیری قبر کی چار دیواری میں محبوس ہونے کے باوجود مولوی محمود الحسن صاحب دیوبندی کا ”اَرِنِی“ سننے کا اختیار ہے اور کون ”اَرِنِی“ کہہ رہا ہے؟ وہ جان لینے کا علم رکھتے ہیں؟ حالانکہ دور حاضر کے منافقین کے اعتقاد میں انبیائے کرام کو پکارنا شرک ہے۔ ایک حوالہ پیش خدمت ہے:-

”جو بعض لوگ اگلے بزرگوں کو دور دور سے پکارتے ہیں اور اتنا ہی کہتے ہیں کہ یا حضرت تم اللہ کی جناب میں دُعا کرو کہ اپنی قدرت سے ہماری حاجت پوری کر دے اور پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا۔ اس واسطے کہ ان سے حاجت نہیں مانگی بلکہ دُعا کروائی ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اس لیے کہ اس کے مانگنے کی راہ سے شرک ثابت نہیں ہوتا لیکن پکارنے کی راہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کو ایسا سمجھا کہ دور سے اور نزدیک سے برابر سن لیتے ہیں۔“

حوالہ:- تعویث الایمان،

از:- مولوی اسماعیل دہلوی،

ناشر:- دارالتلخیص، سبئی، تاریخ اشاعت، اپریل ۱۹۹۷ء، ص: نمبر ۳۳

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تقویت الایمان کی مندرجہ بالا عبارت کا صاف مطلب یہ ہے کہ کسی کو ڈور یا نزدیک سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ ڈور سے اور نزدیک سے وہ برابر سن لیتے ہیں، شرک ہے۔ یعنی کسی بزرگ کو کہ جنہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ دُور سے پکارو یا نزدیک سے پکارو، ہر حال میں شرک ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین مولوی محمود الحسن دیوبندی صاحب نے اپنے پیشوا گنگوہی صاحب کو اپنے مرثیہ گنگوہی میں ”اَرِنْسِي“ کہہ کر پکارا ہے۔ ان کا یہ پکارنا چاہے دارالعلوم دیوبند کی عمارت میں بیٹھ کر یعنی دُور سے ہو یا چاہے بمقام گنگوہ گنگوہی جی کی ”سادھی“ پر حاضر ہو کر انہوں نے گنگوہی صاحب کو ”اَرِنْسِي“ کہہ کر پکارا ہو۔ امام المنافقین مولوی اسمعیل دہلوی کی رسوائے زمانہ کتاب ”تقویت الایمان“ کے فتوے کی رؤ سے کسی کو ڈور یا نزدیک سے پکارنا شرک ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو کام انبیائے کرام اور اولیائے عظام کے ساتھ کرنا دُور حاضر کے منافقین کے اعتقاد میں شرک، ناجائز اور حرام ہیں، وہی کام انہوں نے اپنے پیشواؤں کے حق میں جائز قرار دے کر اور اپنے پیشواؤں کی طرف داری کر کے کھلم کھلا ”سیاں بھیجے کو تو ال، اب ڈرکا ہے کا“ والی مثل پر عمل کر کے اپنے متضاد رویہ سے قوم و ملت کی رہبری کر رہے ہیں یا ربزنی کر رہے ہیں؟

خدائے تعالیٰ سے بڑھ کر تھانوی صاحب کا ڈر؟

اس عنوان کی سرخی دیکھ کر ہمارے معزز قارئین کرام شاید حیرت و تعجب سے چونک اٹھے ہوں گے۔ لیکن بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے پوری کتاب میں کامل دیا سنتداری سے کام لیتے ہوئے غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ الزام تراشی اور افترا پردازی سے پڑے ہو کر ہم نے دلائل و شواہد کے دائرے میں رہ کر، بہت ہی احتیاط سے اصل کتاب سے حوالہ نقل کیا ہے۔ وہابی تبلیغی جماعت کے حکیم الامت مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے ملفوظات کا مجموعہ ”الفضل لِقَوْلِ“ مؤلفہ:- مولوی ابرار الحق، ناشر:- مکتبہ تالیفات اشرفیہ تھانہ بھون،

یو پی، جز اول، ص: ۹ کی ایک عبارت ذیل میں پیش ہے:

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

”تیسری حالت یہ ہے کہ حضرت والا کا خوف اتنا ہے کہ گویا حق تعالیٰ کا خوف اتنا اپنے اندر نہیں پاتا۔ اگر حضرت والا کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جاوے، تو اتنی خشیت ہوتی ہے کہ زمین پھٹ جاوے اور اس میں سما جاؤں اور امر حق کی مخالفت سے اتنا خوف نہیں ہوتا۔ اس سے ڈرتا ہوں کہ گناہ تو نہیں؟
جواب :- نہیں۔ کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ غائب کا خوف عقلی ہے اور حاضر کا طبعی اور تفاوت خاصیتوں کا ہے۔“

مندرجہ بالا عبارت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر ملاحظہ ہو:-

”مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنے انتقال سے پانچ سال پہلے یعنی ۱۳۵ھ میں لاہور کا سفر کیا تھا۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی ۲۹ صفر المظفر ۱۳۵ھ بمطابق ۳۰ اپریل ۱۹۳۸ء بروز سنچرا اپنے گاؤں تھانہ بھون (ضلع مظفرنگر، یو، پی) سے بذریعہ ٹرین لاہور جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ تھانہ بھون سے لاہور بذریعہ ٹرین (ریل) جانے کے لیے براہ (via) سہارنپور اور امرتسر ہی جانا پڑتا تھا۔ تھانوی صاحب نے اپنے لاہور کے سفر کی اطلاع اپنے متعلقین و محبین کو پہلے ہی سے بذریعہ خط دے رکھی تھی لہذا جب تھانوی صاحب کی ٹرین امرتسر ریلوے اسٹیشن پہنچی، تو امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پر تھانوی صاحب کے ”مرید خاص“ مولوی فقیر محمد صاحب امرتسر موجود تھے۔ مولوی فقیر محمد صاحب کو کچھ ذہنی الجھنیں اور قلبی اشکال گھیرے ہوئے تھے اور ان کو طرح طرح کے دوسوے آیا کرتے تھے۔ لہذا انھوں نے اپنے دوسوے اور اشکال کا حل حاصل کرنے کی غرض سے تھانوی صاحب کے ساتھ لاہور کا سفر کرنا طے کیا تھا تا کہ اثنائے راہ ٹرین میں اور دوران سفر وہ موقع پا کر تھانوی صاحب کو اپنی الجھنیں سنا کر اس کا شافی حل حاصل کر سکیں۔

الغرض! مولوی فقیر محمد صاحب امرتسر سے تھانوی صاحب کے ہم سفر بنے اور لاہور تک کا سفر کیا۔ اس سفر کی تفصیل مولوی ابرار الحق نے تھانوی صاحب کے ملفوظات کا مجموعے: ”الفصل للوصل“ کتاب کے صفحہ نمبر ۱۵۱ تا ۱۸۲ میں ارقام کیا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر ۵۹ کے بعد پندرہم نمبر ۱۵۱ تا ۱۸۲ تک نقل کی ہے۔

مولوی فقیر محمد صاحب نے دوران سفر موقع پا کر اپنے چند اشکال تھانوی صاحب کے سامنے پیش کیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ:-

”میں خدا سے بھی زیادہ آپ کا ڈر محسوس کرتا ہوں۔ اگر خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو اتنا ڈر و خوف نہیں ہوتا، جتنا ڈر اور خوف آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام کرنے پر ہوتا ہے۔ آپ کے خوف کا تو یہ عالم ہے کہ اگر آپ کے مزاج کے خلاف مجھ سے کوئی کام ہو جاتا ہے، تب اتنا خوف لاحق ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں سما جاؤں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے تب اتنا ڈر نہیں لگتا۔ کیا اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟“

مولوی فقیر محمد صاحب کے مندرجہ بالا معروضے پر لگتا ہے کہ تھانوی صاحب پھولے نہیں سمائے ہوں گے۔ تیرے صدے جاتے جاؤں! تیرے منہ میں گھی شکر! کیا عجیب بات سنائی۔ واہ! واہ! تمہاری محبت و عقیدت قابلِ داد ہے! ارے! کیا کہا؟ خدا سے بھی زیادہ مجھ سے ڈرتے ہو؟ میرے مزاج کے خلاف کسی کام کے ارتکاب پر خوف و ندامت سے زندہ درگور ہو جانے کی خواہش کرتے ہو؟ اور خدا کے حکم کی خلاف ورزی پر کوئی خوف محسوس نہیں کرتے ہو؟ شاباش! کیا خوب کہی۔ اس احساس پر ڈر گئے ہو کہ گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ارے گھبراتے کیوں ہو۔ ہمارا جواب سنو!

مولوی فقیر محمد صاحب کو تھانوی صاحب نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ:-

”الجواب :- نہیں! کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ غائب کا خوف عقلی

ہے اور حاضر کا طبعی اور تفاوتِ خاصیتوں کا ہے۔“ یعنی تم کو خدا سے زیادہ میرا ڈر

محسوس ہوتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں کیونکہ یہ احساس غیر اختیاری ہے یعنی

تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غائب کا خوف عقلی یعنی عقل

سے منسوب ہے اور حاضر کا خوف طبعی یعنی طبیعت سے منسوب ہے۔ جس کا مطلب

ہے ہوا کہ نہ اختیار ہے لہذا اس کا خوف محسوس نہیں ہوتا اور میں حاضر ہوں لہذا میرا

خوف زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور خدا تمہارے سامنے سے غائب ہے لہذا تمہیں خدا سے زیادہ میرا خوف محسوس ہوتا ہے۔

قارئین کرام! انصاف فرمائیں! تھانوی صاحب اپنی اہمیت جتانے کے لیے خدا کے خوف سے اپنے خوف کے احساس کو مناسب قرار دینے کے لیے ”غائب“ اور ”حاضر“ کی بے تکی منطق بگھار رہے ہیں۔ اس وقت انبیائے کرام کی عظمت و اہمیت کا معاملہ نہیں، اس وقت ملت اسلامیہ کے کروڑوں صحیح العقیدہ مسلمانوں کے اعتقاد کا معاملہ نہیں بلکہ خود اپنی اہمیت و شان جتانے کا معاملہ ہے۔ اپنے عاشق زار اور عقیدت میں اندھے خاص الخاص مرید کے اعتقاد کا معاملہ ہے، لہذا شرک، ناجائز اور حرام کا فتویٰ دینا تو درکنار بلکہ اپنے مرید کے خلاف توحید تہورات و تخیلاتِ فاسدہ کو مناسب ٹھہرانے کی سعیِ بلیغ کی جارہی ہے۔ اپنے مرید کے خیالاتِ فاسدہ کا دفاع کرنے کے لیے معاذ اللہ خدا کو ”غائب“ اور خود کو ”حاضر“ سے مٹھون کیا۔

اگر تھانوی صاحب میں غیرتِ ایمانی کا ذرہ برابر بھی شائبہ ہوتا، تو ایسے خلافِ توحید خیالات پر تامل اٹھتے کیونکہ سوال پوچھنے والا کوئی دیہاتی جاہل نہ تھا کہ جس کو پتہ نہ ہو کہ تمیز نہ ہو۔ بلکہ سوال پوچھنے والا ایک ذمہ دار مولوی تھا۔ حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ جس خلافِ توحید شبہ کے ازالے کے لیے مولوی فقیر محمد نے تھانوی صاحب کی طرف رجوع کیا، اس شبہ کا ازالہ کرنے کے بجائے تھانوی صاحب نے اضافہ کر دیا یعنی معاملہ سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا بلکہ الجھنا آسان سلجھنا مشکل والے مقولے پر عمل کر دکھایا۔ یعنی مولوی فقیر محمد صاحب کے دل میں خلافِ توحید جو دوسوہ تھا، اس دوسوے کو دوڑ کرنے کے بجائے اس دوسوے کی مضرت کو منفعیت قرار دیا یعنی جو دوسوہ مہلک اور نقصان دہ تھا اس کو مناسب بنایا۔ جو دوسوہ ایمان کے لیے سم قاتل تھا، اس میں ”غائب“ اور ”حاضر“ کی منطق کا قاتل زہر ملا یا اور خود کے بھی ایمان کے لالے پڑ گئے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کو ”غائب“ یعنی غیر موجود کہنا سراسر خلافِ توحید اور خلافِ آیاتِ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ منقہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اکھڑے ”شہد“ یعنی گواہ

یعنی موجود ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید کی چند آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں:-

☆ آیت نمبر ۱:- "إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا"

(پارہ: ۵، سورۃ النساء، آیت ۳۳)

ترجمہ:- "بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔" (کنز الایمان)

☆ آیت نمبر ۲:- "هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا"

(پارہ: ۲۸، سورۃ المجادلہ، آیت: ۷)

ترجمہ:- "وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں ہوں" (کنز الایمان)

☆ آیت نمبر ۳:- "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ"

(پارہ: ۲، سورۃ البقرہ، آیت: ۱۸۶)

ترجمہ:- "اور اے محبوب! جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک

ہوں۔" (کنز الایمان)

☆ آیت نمبر ۴ اور ۵:- "وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ"

(۱) پارہ: ۲۸، سورۃ المجادلہ، آیت: ۲

(۲) پارہ: ۳۰، سورۃ البروج، آیت: ۹

ترجمہ:- "اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔" (کنز الایمان)

☆ آیت نمبر ۶:- "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ

نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ"

(پارہ: ۲۶، سورۃ ق، آیت: ۱۶)

ترجمہ:- "اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو دوسوہ اس کا نفس

ڈالتا ہے۔ اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔"

(کنز الایمان)

☆ آیت نمبر ۷:- "إِنَّ رَبَّكَ لَبِاْمُرْصَادٍ"

(پارہ: ۳۰، سورۃ الفجر، آیت: ۱۳)

marfat.com

ترجمہ:- ”بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں۔“ (کنز الایمان)

○ آیت نمبر ۱ اور ۹ :- ”إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ“

(۱) پارہ: ۳، سورۃ آل عمران، آیت: ۱۱۹

(۲) پارہ: ۶، سورۃ المائدہ، آیت: ۱۰۱

ترجمہ:- ”اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات“ (کنز الایمان)

○ آیت نمبر ۱۰ :- ”وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ“

(پارہ: ۲۸، سورۃ التغابن، آیت: ۲)

ترجمہ:- ”اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔“ (کنز الایمان)

○ آیت نمبر ۱۱ :- ”يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ“

(پارہ: ۲۴، سورۃ المؤمن، آیت: ۱۹)

ترجمہ:- ”اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔“ (کنز الایمان)

○ آیت نمبر ۱۲ :- ”وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“

(پارہ: ۲۵، سورۃ الشوری، آیت: ۱۱)

ترجمہ:- ”اور وہی سنا دیکھتا ہے۔“ (کنز الایمان)

○ آیت نمبر ۱۳ :- ”وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ“

(پارہ: ۴، سورۃ آل عمران، آیت: ۱۵۳)

ترجمہ:- ”اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔“ (کنز الایمان)

ایسی تو سینکڑوں آیات قرآنہ پیش کی جاسکتی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت

”شَهِيدٌ“، ”بَصِيرٌ“، ”سَمِيعٌ“، ”عَلِيمٌ“ اور ”خَبِيرٌ“ کا بیان ہے، مندرجہ بالا کُل

تیرہ (۱۳) آیات شریفہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ:-

○ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے۔ دیکھو آیت: ا، اور ۴، اور ۵، اور گواہ کبھی بھی

غائب نہیں ہوتا۔ غائب کی گواہی شرعاً، قانوناً اور عقلاً معتبر و مسوع نہیں۔ اللہ تبارک

و تعالیٰ کی صفت ”شہید“ (گواہ) اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز غائب

یعنی غیر موجود، غیر حاضر اور پوشیدہ نہیں۔

① بندہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، دیکھو آیت نمبر ۲، اور جو ساتھ ہوتا ہے وہ غائب نہیں ہوتا بلکہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلیات و کبریائی کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے لہذا وہ ہرگز غائب نہیں ہے بلکہ موجود و قریب ہے۔

② اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نزدیک ہے۔ دیکھو آیت نمبر ۳، اور نزدیک وہی ہوتا ہے جو غائب نہیں ہوتا۔ غائب میں نزدیک و قریب ہونے کی صفت و صلاحیت نہیں ہوتی بلکہ جو غائب ہوتا ہے وہ بعید اور دُور ہوتا ہے۔ اتنا دُور ہوتا ہے کہ پوشیدہ ہوتا ہے۔

③ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک اور قریب ہے۔ دیکھو آیت نمبر ۶، جب اللہ تعالیٰ بندے کے دل کی رگ سے بھی "أَقْرَبٌ" یعنی زیادہ نزدیک ہے، تو یقیناً ماننا اور کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز غائب نہیں۔

④ اللہ تعالیٰ کی نظر سے کچھ بھی غائب نہیں، دیکھو آیت نمبر ۷، جب اللہ تعالیٰ کی نظر سے کچھ بھی غائب نہیں تو سب کچھ سے اللہ تعالیٰ بھی غائب نہیں۔ اس کی قدرت اور نظر کائنات کی ہر چیز کو محیط یعنی گھیرے ہوئے ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا غائب ہونا محال اور ناممکن ہے۔

⑤ اللہ تعالیٰ دلوں کی بات اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے، وہ خوب جانتا ہے، دیکھو آیت نمبر ۸، ۹، اور ۱۱، اور جو غائب ہوتا ہے وہ جان نہیں سکتا لہذا لامحالہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز غائب نہیں ہے۔

⑥ اللہ تعالیٰ بندوں کے کام دیکھ رہا ہے۔ دیکھو آیت نمبر ۱۰، اور دیکھنے کے لیے دیکھنے والے کا موجود ہونا لازمی ہے کیونکہ جو غیر موجود یعنی غائب ہوتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام کام دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا صاف اور صریح مطلب یہی ہوا کہ یقیناً طور پر اللہ تعالیٰ غائب نہیں بلکہ موجود ہے اور بندوں کے

اعمال ملاحظہ فرما رہا ہے۔

◎ اللہ تعالیٰ "سبح" اور "بصیر" ہے یعنی ستاد دیکھتا ہے۔ دیکھو آیت نمبر ۱۲، اور سننا اور دیکھنا اسی کے لیے ہی ممکن ہے جو غائب نہ ہو بلکہ موجود ہو۔ جب اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے تو ثابت ہوا کہ بے شک اللہ تعالیٰ موجود ہے اور غائب نہیں۔

◎ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے تمام کاموں کی خبر ہے۔ دیکھو آیت نمبر ۱۳، اور خبر ہونا یعنی اطلاع و معلوم ہونا اسی کے لیے ممکن ہے جس نے کاموں کا مشاہدہ کیا ہو اور مشاہدہ کرنے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ غائب کے لیے مشاہدہ کرنا ممکن نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو بندوں کے تمام کاموں کی خبر ہے۔ تو لازمی ہے کہ بندوں کے تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطہ مشاہدہ میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ موجود ہے اور غائب نہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی مندرجہ بالا مذکورہ صفات سے اللہ تعالیٰ کا غائب نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحہ کے لیے بھی غائب نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ دائمی ہیں، عارضی نہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ◎ ازلی ◎ ابدی ◎ سرمدی ◎ قدیم ◎ واجب الوجود ◎ غیر مخلوق ◎ غیر حادث ہے اسی طرح اللہ کی تمام صفات بھی ازلی، ابدی، سرمدی، قدیم، واجب الوجود، غیر مخلوق اور غیر حادث ہیں۔

◎ **ازلی اور قدیم:** یعنی ہمیشہ سے ہیں۔ جس طرح خدا کی ذات ہمیشہ سے ہے اسی طرح اس کی تمام صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پہلے صرف خدائے تعالیٰ کی ذات ہی تھی اور بعد میں اس کی صفات ظہور پذیر ہوئیں بلکہ خدا کی ذات کے ساتھ ساتھ ہی اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں۔

◎ **سرمدی اور ابدی:** یعنی ہمیشہ رہیں گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیشہ رہے گی اسی طرح اس کی تمام صفات بھی ہمیشہ رہیں گی۔ ایسا ہونا غیر ممکن ہے کہ خدا کی ذات تو ہمیشہ رہے گی اور اس کی صفات ہمیشہ نہ رہیں۔ بلکہ جس طرح خدا کی ذات ہمیشہ رہتی رہے گی اس کی تمام صفات بھی اس کی ذات کے ساتھ ساتھ

باقی رہیں گی۔

⊙ **واجب الوجود** :- یعنی اس کا وجود لازمی اور ضروری ہے۔ خدائے تعالیٰ کی تمام صفات اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ موجود ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی خدائے تعالیٰ کی صفات اس کی ذات سے الگ و جدا نہیں۔

⊙ **غیر مخلوق** :- یعنی پیدا کی ہوئی نہیں۔ بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات کسی کے پیدا کرنے سے وجود میں نہیں آئی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بفرمان قرآن "لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ" (پارہ: ۳۰ سورہ اخلاص، آیت: ۳، ترجمہ: - نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے۔) (کنز الایمان) کے مطابق اس کا وجود بذات خود ہمیشہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تولد یعنی پیدا ہونے سے پاک ہے اسی طرح اس کی تمام صفات بھی پیدا ہونے سے پاک اور کسی کے بنانے سے پاک یعنی غیر مخلوق ہیں۔

⊙ **غیر حادث** :- یعنی کبھی بھی زائل اور فنا نہیں ہوں گی، بلکہ ہمیشہ باقی رہیں گی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات فنا اور زائل ہونے سے پاک اور متزلزل ہے، اس کی تمام صفات بھی فنا اور زائل ہونے سے بری اور متزلزل ہیں۔

علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کی ذات ⊙ غیر محدود ⊙ محیط ⊙ حقیقی اور ⊙ غیر متناہی ہے۔ اسی طرح اس کی تمام صفات بھی ان خوبیوں کی حامل ہیں۔

الحاصل! اللہ تعالیٰ کو "غائب" کہنا، اس کی صفت ⊙ شہید ⊙ قریب ⊙ عظیم ⊙ سمیع ⊙ بصیر اور خبیر میں نقص لگانا ہے اور شان الوہیت کی تنقیص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات اتنی ارفع و اعلیٰ ہے کہ جس لفظ میں یا جس وصف میں بارگاہ الوہیت کی تنقیص و توہین کا ہلکا سا شائبہ بھی ہو، ایسے لفظ یا وصف کو اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے لیے استعمال کرنا، یا منسوب کرنا، یا اضافت کرنا، اپنے کو دائرہ ایمان و اسلام سے خارج کرنے کے مترادف ہے۔ بلکہ ایسے وصف سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو متصف کرنا کہ جو حقیقت پر مبنی ہونے کے باوجود غیر

مہذب ہو، حرام ہے۔

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

◎ آیات قرآنیہ سے اس مسئلے کی وضاحت :-

اللہ تعالیٰ تمام جہان کا مالک و رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام انسان، فرشتے، جنات، چرند و پرند، حیوانات و بہائم بلکہ اس کائنات میں جتنے ذی رُوح ہیں، ان تمام کو پیدا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ:-

◎ آیت نمبر: ۱
ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
فَاعْبُدُوهُ (پارہ: ۷، سورۃ الانعام، آیت: ۱۰۲)

ترجمہ:- ”یہ ہے اللہ تمہارا رب اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ ہر چیز کا بنانے والا، تو اُسے پوجو۔“ (کنز الایمان)

◎ آیت نمبر: ۲
قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

(پارہ: ۱۳، سورۃ الرعد، آیت: ۱۶)

ترجمہ:- ”تم فرماؤ، اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے۔“ (کنز الایمان)

◎ آیت نمبر: ۳
صُنِعَ اللّٰهُ الَّذِي اَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

(پارہ: ۲۰، سورۃ النمل، آیت: ۸۸)

ترجمہ:- ”یہ کام اللہ کا ہے جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز“ (کنز الایمان)

◎ آیت نمبر: ۴
وَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا (پارہ: ۱۳، سورۃ النحل، آیت: ۵)

ترجمہ:- ”اور چوپائے پیدا کیے۔“ (کنز الایمان)

مندرجہ بالا آیات مقدسہ سے ثابت ہوا کہ کائنات کی ہر چیز کا خالق یعنی بنانے والا اور پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ علاوہ ازیں آیت نمبر: ۴ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوپائے یعنی چار پاؤں والے جانور پیدا فرمائے۔ یعنی تمام جانوروں کو پیدا فرمایا۔ تمام جانوروں میں شیر، ہاتھی، بھیریا، گھوڑا، اونٹ، بیل گائے، بکری، خنزیر، وغیرہ سب آگئے۔ یہ مسلم حقیقت ہے کہ تمام جانوروں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاتھی، بکری، خنزیر، وغیرہ سب کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

اسی نے پیدا فرمایا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو خنزیر کا خالق کہنا جائز نہیں۔ ایک حوالہ پیش خدمت ہے:-

⑤ ”خداے تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن اس کو ”خالق الخنزیر“ کہنا جائز نہیں۔ شرح عقائد نسفی کی شرح نبراس ص: ۱۷۳ میں ہے کہ ”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ خَالِقُ الْخَنَازِيرِ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِطْلَاقُ الْمَلْذُومُ لَا الْإِلْزَامُ“ (حوالہ:- عجائب الفقہ، ص: ۶۱)

اس میں کوئی شک نہیں کہ خنزیر (Pig) کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام جانوروں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو خنزیر بھی تمام جانوروں میں شامل ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو ”خالق الخنزیر“ کہنا جائز نہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ خنزیر ایک لائق نفرت اور قابل قباحت جانور ہے۔ خنزیر ایک ایسا ناپاک اور حرام جانور ہے کہ اس کی حرمت اور نجاست پر قرآن مجید کی آیات اور متعدد احادیث کریمہ وارد ہیں۔ خنزیر کی حرمت، نجاست اور قباحت کی وجہ سے اس کی تخلیق کی مخصوص اضافت اللہ تعالیٰ سے کرنا خلاف شان الوہیت ہے۔

اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ”رَبُّ الْعَالَمِينَ“ یا ”خَالِقُ الْكَائِنَاتِ“ یا ”رَبُّ مُحَمَّدٍ“ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا ”رَبُّ الْكَعْبَةِ“ یا ”خَالِقُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ“ کہا، تو اس نے عین قرآن کے مطابق اور مناسب ہی کہا۔ لیکن اگر کسی نے مندرجہ بالا اوصاف کے بجائے اللہ تعالیٰ کو ”رَبُّ الْخِنَازِيرِ“ یا ”خَالِقُ الْخِنَازِيرِ“ کہا، تو اس نے اس حقیقت کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو پیدا فرمایا ہے اور تمام جانوروں میں خنزیر بھی شامل ہے لہذا خنزیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے، اس حقیقت کے باوجود بھی اس نے نا جائز اور غیر مناسب کہا ہے۔ کیونکہ خالق الخنزیر کہنے میں اللہ تعالیٰ کی شانِ عظمت بیان نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے بارگاہ خداوندی میں توہین اور گستاخی کرنے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کو ”خالق خنزیر“ کہا، تو کافر ہو جائے گا۔

اس کائنات میں سب سے زیادہ عزیز، تعظیم، ادب، تعریف، توصیف، مدح

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

وثناء، بزرگی، برتری، سراہنا اور خوبی بیان کرنے کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق و کائنات کا خالق اور رب ہے۔ خالق کائنات رب تبارک و تعالیٰ کے بعد تمام مخلوق میں سب سے زیادہ ارفع و اعلیٰ، اعظم و بالا شان اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم و اکرم، محبوب رب العالمین، رحمۃ اللعالمین، نبی کریم، رؤف و رحیم، مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم کی تعظیم و تکریم کا حکم فرمایا ہے:-

”إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ“

(پارہ: ۲۶، سورۃ الفتح، آیت نمبر: ۸ اور ۹)

ترجمہ:- ”بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوش اور ڈر سنانا تاکہ لوگو! تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔“
(کنز الایمان)

تفسیر:- اس آیت میں وارد لفظ ”شاہد“ یعنی حاضر و ناظر کی تفسیر میں وارد ہے کہ:-

”یعنی اپنی امت کے اعمال و احوال کا تاکہ روز قیامت ان کی گواہی دو اور مومنین مقررین کو جنت کی خوشخبری اور اور نافرمانوں کو عذاب و وزخ کا ڈر سنانا۔“
(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۹۲۰)

اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار رسالت کے آداب اور سماجی زندگی میں اپنے محبوب کے ساتھ کس طرح کا تعظیم کا برتاؤ کرنا چاہئے، اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ اس سلسلہ

marfat.com

کی چند آیات قرآنیہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں:-

☆ آیت نمبر:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا
وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(پارہ:- ۱، سورۃ البقرہ، آیت: ۱۰۴)

ترجمہ:- ”اے ایمان والو! راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔“

(کنز الایمان)

تفسیر:- (شان نزول):-

(۱) ”جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو صحابہ کرام کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے کہ ”رَاعِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ“ اس کے معنی یہ تھے کہ یا رسول اللہ! ہمارے حال کی رعایت فرمائیے یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجئے۔ یہودیوں کی لعنت میں ”رَاعِنَا“ کا کلمہ بے ادبی کے معنی رکھتا تھا۔ انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا: اے دشمنان خدا! تم پر اللہ کی لعنت۔ اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن مار دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، اے سعد! تم ہم پر تو خفا ہوتے ہو، لیکن مسلمان بھی تو یہی کلمہ کہتے ہیں۔ یہودیوں کی اس بات پر آپ رنجیدہ ہو کر خدمت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، جس میں ”رَاعِنَا“ کہنے کی ممانعت فرمادی گئی تھی اور اس معنی کا دوسرا لفظ ”انظُرْنَا“ کہنے کا حکم نازل ہوا۔“ (مسئلہ) ”اس سے معلوم ہوا کہ انبیائے کرام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں کلماتِ ادب عرض کرنا فرض ہے اور جس کلمہ میں

ترک ادب کا شائبہ بھی ہو، وہ زبان بڑا نامنوع ہے۔“

(۲) "وَاسْمَعُوا" کی تفسیر میں ہے کہ "اور ہم تن گوش ہو جاؤ تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور توجہ فرمائیں کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ (مسئلہ) "در بار انبیاء میں آدمی کو ادب کے اعلیٰ مراتب کا لحاظ لازم ہے۔"

(۳) "لِلْكَافِرِينَ" میں اشارہ ہے کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔" (حوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۲۹)

نوٹ:- صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بارگاہ رسالت میں کمال ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہی "وَاِئْتِنَا" عرض کرتے تھے لیکن اس لفظ کی آڑ میں بارگاہ رسالت کے گستاخوں کو بے ادبی اور توہین کرنے کا موقعہ ملتا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین بندوں یعنی صحابہ کرام کو بھی اس لفظ کے استعمال کی ممانعت فرمادی تاکہ دشمنوں کو بارگاہ محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بے ادبی اور گستاخی کرنے کا موقعہ ہی نہ ملے۔

آیت نمبر ۲:-

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ
أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ"

(پارہ: ۲۶، سورۃ الحجرات، آیت: ۲)

ترجمہ:- "اے ایمان والو! اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔" (کنز الایمان)

آیت نمبر ۳:-

"فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُخَرِّجُوا فِتْنَةً مِّنَّا وَيَبْهَتُوا"

(پارہ: ۵، سورۃ النساء، آیت: ۶۵)

ترجمہ:- ”تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم! وہ مسلمان نہ ہوں گے، جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں۔“ (کنز الایمان)

آیت نمبر ۴:-

”فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“

(پارہ: ۹، سورۃ الاعراف، آیت: ۱۵۷)

ترجمہ:- ”تو وہ جو اس پر (محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر) ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔“ (کنز الایمان)

آیت نمبر ۵:-

”وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ طَلِئِنِ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ
وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ“

(پارہ: ۶، سورۃ المائدہ، آیت: ۱۲)

ترجمہ:- ”اور اللہ نے فرمایا بے شک میں ضرور تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو۔“

(کنز الایمان)

آیت نمبر ۶:-

”لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا“

(پارہ: ۱۸، سورۃ النور، آیت: ۶۳)

ترجمہ:- ”رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔“ (کنز الایمان)

○ اس سلسلہ کی چند دیگر آیات :-

یہاں تک ہم نے صرف چھ آیات مقدسہ پر ہی اکتفا کیا ہے۔ ان میں سے صرف آیت نمبر ۱ کے ضمن میں بہت ہی مختصر تفسیر پیش کی ہے، بقیہ پانچ آیات کے صرف تراجم ہی ارقام کیے ہیں۔ طول تحریر کے خوف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان آیات کی تفسیر اور شان نزول کی تفصیل نہ لکھنے کی کوتاہی پر ہم اپنے معزز اور کرم فرما قارئین کرام سے معذرت خواہ ہیں۔ مزید برآں اسی سلسلہ کی چند دیگر آیات کی بھی نشاندہی کیے دیتے ہیں :-

(۷) ○ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ

لَكُمْ" (الخ) (پارہ: ۲۲، سورۃ الاحزاب، مکتب: ۵۳)

(۸) ○ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ

نَجْوِكُمْ صَدَقَةٌ" (پارہ: ۲۸، سورۃ المجادلہ، آیت: ۱۲)

(۹) ○ "إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ"

(پارہ: ۲۶، سورۃ الفتح، آیت: ۱۰)

(۱۰) ○ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ"

(پارہ: ۲۶، سورۃ الحجرات، آیت: ۱)

(۱۱) ○ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ"

(پارہ: ۹، سورۃ الانفال، آیت: ۲۳)

(۱۲) ○ "إِنَّ الَّذِينَ يَفُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ"

(پارہ: ۲۶، سورۃ الحجرات، آیت: ۳)

(۱۳) ○ "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا"

(پارہ: ۲۲، سورۃ الاحزاب، آیت: ۳۶)

(۱۴) ○ "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"

(پارہ: ۱۰، سورۃ التوبہ، آیت: ۶۱)

marfat.com

(۱۵) ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾

(پارہ: ۱۱، سورۃ التوبہ، آیت: ۱۰۳)

(۱۶) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا

يَعْقِلُونَ﴾ (پارہ: ۲۶، سورۃ الحجرات، آیت: ۴)

(۱۷) ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾

(پارہ: ۲۱، سورۃ الاحزاب، آیت: ۶)

(۱۸) ﴿قُلْ أَبَا اللَّهِ وَآيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ﴾

(پارہ: ۱۰، سورۃ التوبہ، آیت: ۶۵)

مندرجہ بالا کل بارہ آیات قرآنیہ کے علاوہ کئی آیات پیش کی جاسکتی ہیں۔ جن تمام کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم فرمایا ہے۔ اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر کرنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا ہے اور عظیم بشارتوں کے وعدے فرمائے ہیں اور شانِ اقدس میں توہین و تنقیص کرنے والوں کی سخت تعزیر و سزائیں فرما کر عذابِ عظیم کی وعید سے ڈرایا ہے۔ مثلاً:-

☆ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسے لفظ کا بھی استعمال نہ کرو کہ دشمنوں کو اس لفظ کی آڑ میں توہین کرنے کا موقع ملے۔ دیکھو آیت نمبر ۱،

☆ میرے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرو اور ان کے سامنے چیخ کر یا چلا کر بات مت کرو، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ اگر تم نے دربار رسالت کا ادب ملحوظ نہ رکھا اور میرے حبیب اکرم کے ساتھ عام انسانوں کی طرح گفتگو کی تو تمہارے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دیکھو آیت نمبر ۲۔

☆ اپنے ذاتی معاملات کا فیصلہ میرے محبوب کے سپرد کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا ”حکم“ یہ دل سے تسلیم کر کے ان کے فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر کے، ہر قسم کی ذاتی معاملات کے جھگڑوں کے متعلق جو کچھ بھی حکم صادر

فرمائیں، اس میں ذرہ برابر بھی چوں و چرا مت کرو۔ ان کے اہل فیصلے پر تم نے اف کیا یا کسی قسم کا تردد و تامل کیا تو تم مؤمن کہلانے کے لائق نہیں۔ دیکھو آیت نمبر ۳۔

جو لوگ میرے رسول اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم و نصرت و اطاعت کی، وہی لوگ بامراد ہیں۔ دیکھو آیت نمبر ۴۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لائے، رسولوں کے تعظیم و توقیر بجالائے اور فریضہ نماز و زکوٰۃ کو ادا کیا، ان لوگوں پر اپنے انعام و اکرام کی نوازش فرماتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ دیکھو آیت نمبر ۵۔

اور جس کو اللہ کا ساتھ مل گیا، وہ یقیناً اللہ والا ہو گیا۔

جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طرح میرے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مت پکارو۔ دیکھو آیت نمبر ۶۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔

میرے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں بغیر اجازت داخل ہونے کی جرأت مت کرو۔ ہاں وہ اگر کھانے کے لیے بلائیں تو حاضر ہو جاؤ اور کھانا کھانے کے بعد وہاں بیٹھ کر گفتگو میں مشغول مت ہو جاؤ، بلکہ روانہ ہو جاؤ۔ تمہارا بیٹھا رہنا مکان کی تنگی کی وجہ سے میرے محبوب کے اہل خانہ کے لیے تکلیف و مشقت کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن میرا محبوب حسن اخلاق کا پیکر جمیل ہونے کے وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن محبوب اعظم کی اس تکلیف پر میں تمہیں متنبہ فرماتا ہوں کہ اب سے اس طرح بیٹھے رہ کر میرے محبوب کو تکلیف و مشقت مت پہنچاؤ۔ دیکھو آیت نمبر ۷۔

اے میرے ایمان والے بندو! اگر تم میرے محبوب کی بارگاہ عالی میں کچھ عرض و معروض کرنا چاہتے ہو تو اپنے معروضات پیش کرنے سے پہلے کچھ صدقہ (خیرات) کرو۔ دیکھو آیت نمبر ۸۔

جو لوگ میرے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں گویا کہ وہ مجھ

سے ہی بیعت کرتے ہیں۔ دیکھو آیت نمبر ۹۔ اسی طرح جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی بیان کرتے ہیں۔

☆ اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ دیکھو آیت نمبر ۱۰۔

☆ اے اللہ کے مومن بندو! اللہ اور اس کے رسول کے بلائے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ رسول تمہیں کسی امر کی طرف بلائیں یعنی ایمان، جہاد اور شہادت فی سبیل اللہ کی طرف بلائے ہیں تو ان کا یہ بلانا تمہیں دائمی حیات بخشنے کے لیے ہے۔ دیکھو آیت نمبر ۱۱۔

☆ جو لوگ بارگاہ رسالت کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پشت کرتے ہیں اور بلند آواز سے گفتگو کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور پرہیز گاری کے لیے جن لیے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ دیکھو آیت نمبر ۱۲۔

☆ کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کے معاملہ میں جب اللہ و رسول کوئی حکم فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار نہیں رہتا۔ دیکھو آیت نمبر ۱۳۔ یعنی اللہ و رسول کا حکم ان کے لیے حرف آخر کی طرح نافذ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلہ میں کوئی بھی شخص اپنے نفس کا بھی خود مختار نہیں۔

☆ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب یعنی دوزخ کا سخت عذاب ہے۔ دیکھو آیت نمبر ۱۴۔

☆ میرے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں تمہارے دلوں کا چین ہے۔ دیکھو آیت نمبر ۱۵۔

☆ میرے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو لوگ حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں اکثر عقل ہیں۔ دیکھو آیت نمبر ۱۶۔ یعنی انہیں اپنی بے عقلی کی وجہ سے

بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام ٹھوٹا رکھنے کا شعور نہیں۔

❖ اے مسلمانو! اچھی طرح جان لو! تمہارے جسموں میں جو جان ہے اس جان کے مالک بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ دیکھو آیت نمبر ۱۷۔

❖ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ عالی میں گستاخی کا کلمہ بول کر پھر یہ عذر کرنا کہ ہم نے توہین کی نیت سے ایسا نہیں کہا بلکہ یونہی ہنسی کھیل اور دل لگی کے طور پر ایسا کہا ہے۔ یہ عذر ہرگز قابل قبول نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد۔ دیکھو آیت نمبر ۱۸۔

الحاصل:-

اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبِ اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، ادب و احترام، اور تعظیم و توقیر کا برتاؤ کرنا اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے، اللہ ان لوگوں سے ہمیشہ راضی رہتا ہے جو لوگ اللہ کے محبوبِ اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم اور ادب و توقیر بجالانے میں کوشاں رہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور ادب و احترام در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ہر مؤمن پر لازم ہے بلکہ ایمان کی جان ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ:-

”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَ
النَّاسِ أَجْمَعِينَ“ (مشکوٰۃ شریف، باب الایمان)۔

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ترجمہ:- ”تم میں کا کوئی بھی مؤمن ہو نہیں سکتا، جب تک اس کے نزدیک میں اس کی اولاد سے، والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔“

اس حدیث پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کامل طور پر عمل کیا اور ”رضائے الہی“ کے حقدار بنے۔ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر تابعین عظام، تبع تابعین کرام، ائمہ دین، صالحین، اولیاء کاملین، علمائے ملت اسلامیہ وغیرہ نے اپنے اقوال و کردار کے ذریعہ عالم دنیا کو ”عشقِ نبی“ اور ”تعظیمِ رسول“ کا پیغام حق دیا اور لوگوں کے ایمان کو پختہ و مجلا بنایا۔ تحفظِ ناموسِ رسالت کے لیے اپنا سب کچھ نثار کرنے کا جذبہ قوم مسلم میں زندہ رکھا اور ملت اسلامیہ کو ایمان کی حلاوت اور شیرینی سے روشناس کرایا۔

لیکن:

افسوس! صد افسوس! اس دور میں ایسے لوگ بھی ہیں، جو بظاہر تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ”روح ایمان“ یعنی محبت و عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محروم ہیں۔ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر سے ایسے بھاگتے ہیں کہ گویا انہیں سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ لوگوں کو عظمتِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روکتے ہیں۔ جب کبھی بھی حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تب فوراً توحید کا جھنڈا بلند کر کے ”شُرک“ اور ”بدعت“ کے فتاویٰ کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ بارگاہِ رسالت میں توہین و تنقیص کرنے کی غرض فاسد سے قرآن مجید کی آیات کے غلط تراجم و مطالب اور خود ساختہ توضیح پیش کرتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے۔ البتہ! جب اپنے پیشواؤں کا معاملہ سامنے آتا ہے تب اپنے خود ساختہ توحید کے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ مثلاً:-

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

منافقین زمانہ کے اعتقاد اور نظریات

(۲) اپنے پیرواؤں کے متعلق	(۱) حضور اقدس کے متعلق
◎ "مولوی رشید احمد گنگوہی کا درجہ انسانیت سے بالا ہے۔ وہ ایک فرشتہ مقرب تھے، جو انسانوں میں ظاہر کیے گئے" (حوالہ:- حکایت اولیاء، ص: ۲۵۹، حکایت نمبر ۲۳۳، اور سوانح قاسمی، جلد: ۱، ص: ۱۳۰)	◎ "حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفس بشریت میں جملہ بنی آدم کی طرف ہیں" (حوالہ:- براہین قاطعہ، ص: ۷) نوٹ:- جملہ بنی آدم میں مؤمن، کافر، مشرک، مجوسی وغیرہ ہر انسان شامل ہیں۔
◎ "مولوی حسین احمد ٹانڈوی صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند عالم نور میں رہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں، ان کے داہنے، ان کے بائیں اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہے اور وہ خود نور ہو گئے ہیں۔" (حوالہ:- الجمعیت دہلی کا شیخ الاسلام نمبر، ص: ۱۲)	◎ "تمام انبیاء و اولیاء سب انسان ہی ہیں اور عاجز بندے ہیں۔" (حوالہ:- تقویت الایمان، ص: ۹۹) نوٹ:- تمام انبیاء میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آگئے۔

© "مولوی حسین احمد ٹانڈوی جو کھدر کا لباس پہن کر گلی کوچوں میں گھومتے تھے، وہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا جلوہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی پر پردہ ڈال رکھا ہے اور گزی گاڑے میں ملقوف جس ٹانڈوی صاحب کو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ وہ اللہ بزرگ و برتر کا جلوہ اس سرزمین پر دیکھا ہے۔ (حوالہ:- شیخ الاسلام نمبر، ص: ۵۹)

© "مولوی حسین احمد ٹانڈوی کا دل شریعت کا حامل اور ان کا عمل شریعت کی تفسیر تھا۔ ان کے فضائل و کمالات کی صحیح اطلاع یا تو اللہ تعالیٰ کو ہے یا ان اولیاء و علماء کو ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے چشم بصیرت عطا فرمائی ہے۔ ہم جیسے کور چشم مولوی حسین احمد ٹانڈوی کی ذات کو نہیں پہچان سکتے۔ (شیخ الاسلام نمبر، ص: ۶۷)

نوٹ:- جب پہچان نہیں سکتے تو ان کے درجہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔

© "حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑائی دی، وہ بڑے ہوئے۔ ہم ان کے چھوٹے ہیں۔ ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے۔"

(حوالہ:- تقویت الایمان، ص: ۹۹)

© 'جس کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یا علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہے، وہ کسی چیز کا مختار نہیں، (حوالہ:- تقویت الایمان، ص: ۷۰)

© "عمل کے معاملہ میں امتی بسا اوقات بظاہر اپنے نبی کے برابر ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ (حوالہ:- تحذیر الناس، ص: ۵)

(۱) اعتقاد منافقین متعلق حضور اقدس	(۲) اعتقاد منافقین متعلق اپنے پیشوا
◎ ”بزرگان دین کو دور اور نزدیک سے پکارنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ دور سے اور نزدیک سے برابر سن لیتے ہیں، شرک ہے۔“ (حوالہ:- تقویت الایمان، ص: ۲۳)	◎ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی محمود حسن دیوبندی نے مولوی رشید احمد گنگوہی کو ان کے انتقال کے بعد ”آرینی“ یعنی ”مجھے اپنا دیدار دکھا“ کہہ کر پکارا۔ (حوالہ:- مرثیہ گنگوہی، ص: ۱۲)
◎ ”حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ کو قبر شریف کے نزدیک یا دور سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا کفر ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ علم غیب کے سب سے دور سے سنتے ہیں، کفر ہے۔“ (حوالہ:- فتاویٰ رشیدیہ، ص: ۶۳)	◎ ”مولوی محمود حسن دیوبندی نے دیوبند میں بیٹھ کر گنگوہ نامی مقام میں مدفون مولوی رشید احمد گنگوہی کو مخاطب کر کے ”آرینی“ یعنی مجھے اپنا دیدار دکھا“ کہہ کر پکارا۔ (حوالہ:- مرثیہ گنگوہی، ص: ۱۲)

منافقین زمانہ کی کتابوں سے ایسے سیکڑوں متضاد اعتقاد و نظریات کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ جو عقیدہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق رکھنا ان کے نزدیک شرک ہے، وہی عقیدہ اپنے پیشواؤں کے متعلق جائز قرار دیتے ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، تب انہیں ”توحید خالص“ کے اصول یاد آتے ہیں اور جب اپنے پیشواؤں کی عظمت کا معاملہ ہوتا ہے، تب اپنی خود ساختہ توحید کے تمام اصول فراموش کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟

◎ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ
يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

(پارہ: ۸، سورۃ الانعام، آیت: ۱۱۲)

marfat.com

Click For More

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ترجمہ:- ”اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیسے ہیں آدمیوں اور جنوں میں کے شیطان کہ ان میں کا ایک دوسرے پر خبیثہ الٹا ہے بناوٹ کی بات دھوکے کو۔“ (کتزۃ ایمان)

تفسیر:- یعنی وہو سے اور فریب کی بات خواہ کرنے کے لیے۔“

(تفسیر خزائن العرفان، ص: ۲۵۵)

اس آیت میں صحاف ارشاد ہے کہ ہر نبی کے دشمن ہر زمانہ میں ہوئے ہیں اور وہ دشمن آدمی شیطان اور جنات شیطان ہیں۔ اور انبیائے کرام کے جو دشمن ہوتے ہیں ان میں آپس میں ایسا گٹھ بندھن ہوتا ہے کہ وہ انبیائے کرام کے خلاف متحد ہو کر خبیثہ سازش کرتے ہیں اور وہوں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی مذکورہ آیت کے مطابق جب ہر نبی کے دشمن پیدا ہوئے ہیں، تو اجمالاً حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی دشمن پیدا ہوئے بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کی تعداد دیگر انبیائے کرام کے دشمنوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے زمانہ اقدس سے لے کر اب تک تقریباً چودہ سو سال کے عرصہ دوران میں کافی تعداد میں دشمنان رسول پیدا ہوئے ہیں اور ان کے بعد سے قیامت تک دشمنان رسول بکثرت پیدا ہوں گے۔

قرآن و دشمنان رسول کا آئین اور مقصد یکساں ہی ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو جین و تنقیض کرنا، آیات متشابہات کا سہارا لے کر اور ان آیات کے من مانے تراجم اور من گھڑت تفسیر کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عظمت گھٹانے کی کوشش کرنا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عظمت گھٹانے کے لیے قُلْ لِنَعْلَمَنَّ بِشَرِّ بَشَرِكُمْ آیت میں جو ہیں وہی ہمراہ رہنا۔

یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کفار و مشرکین عظمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھٹانے کے لیے لوگوں کو اس غرض بھگاتے تھے کہ:-

”یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ“

کیوں نہ اتارا گیا کہ ان کے ساتھ رہ کر ہم کو ڈر سنا تا یا غیب سے انہیں کوئی خزانہ کیوں نہ مل گیا یا ان کو کوئی باغ ہوتا، جس میں سے وہ کھاتے۔ ظالموں نے بالآخر قوم سے یہاں تک کہا کہ:-

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّشْحُورًا (پارہ: ۱۸، سورۃ الفرقان، آیت: ۸)

ترجمہ:- "تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا۔"

(کنز الایمان) (تفسیر بحوالہ:- تفسیر خزائن العرفان، ص: ۶۳۸ اور ۵۱۵)

دشمنانِ رسول ﷺ کی مندرجہ بولی کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور بارگاہِ

رسالت کے دشمنوں کا یہ مقولہ نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:-

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً

حوالہ:- (۱) پارہ: ۱۵، سورۃ بنی اسرائیل، آیت: ۲۸)

(۲) پارہ: ۱۸، سورۃ الفرقان، آیت: ۹)

ترجمہ:- "دیکھو انہوں نے تمہیں کیسی تشبیہیں دیں، تو گمراہ ہوئے کہ راہ

نہیں پاسکتے۔" (کنز الایمان)

اس آیت میں صاف لفظوں میں ارشاد ہے کہ کفار قریش نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت گھٹانے کے لیے حضور کا کھانا تناول فرمانا اور بازار میں چلنا بطور مثال پیش کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو "عام انسان" ثابت کرنے کی کوشش کی تھی جس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا کہ "أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ" یعنی "اے محبوب! دیکھو! انہوں نے یعنی کفار قریش نے تمہارے لیے کیسی مثالیں دیں ہیں۔ یعنی تمہارا کھانا پینا اور بازار میں چلنا پھرنا، بطور سند پیش کر کے تمہیں عام انسان ثابت کرنے کی کوشش کر کے تمہاری عظمت گھٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ تمہاری عظمت گھٹانے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن:- کیونکہ

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (پارہ: ۳۰، سورۃ الم نشرح، آیت: ۳)

marfat.com

ترجمہ:- ”اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کروایا۔“ (کنز الایمان)

پوری دنیا کے تمام کفار، مشرکین، یہود، نصاریٰ، منافقین، مرتدین اور ادیان باطل کے متبعین جمع ہو کر بھی اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی اور مراتب و درجات کی رفعت نہیں گھٹا سکتے۔ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ بلند فرمائے اس کو کون نیچا کر سکتا ہے؟ البتہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھٹانے کی کوشش کرنے والا اپنے ایمان سے ضرور ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد رب تعالیٰ ہے کہ ”فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيْلًا“ یعنی ”تو گمراہ ہوئے کہ اب کوئی راہ نہیں پاتے۔“

حضور اقدس، رحمت عالم، جانِ ایمان ﷺ کو اپنے جیسا بشر کہنے والے بحکم قرآن گمراہ ہیں۔

خوب یا اور کھوکہ:-

○ سب سے پہلے نبی کو بشر کہہ کر کافر ہونے والا ابلیس لعین تھا۔ شیطان کے نقش قدم پر چل کر ہر زمانہ کے کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں اور منافقوں نے ہی انبیائے کرام کو ”اپنے جیسا بشر“ کہا ہے اور جنہوں نے انبیائے کرام کو بطور توہین ”بشر“ یا ”اپنے جیسا بشر“ کہا ہے، وہ ایمان و ہدایت سے ہاتھ دھو چکے ہیں اور گمراہ و بے دین ہیں۔

○ کسی بھی نبی کے کسی بھی مومن امتی نے اپنے نبی کو ”اپنے جیسا بشر“ نہیں کہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے تھے۔ صرف کفار، مشرکین اور منافقین ہی حضور اکرم کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے۔

لہذا

○ اس زمانہ میں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ”اپنے جیسا بشر“ کہتے ہیں وہ کفار و مشرکین کے طریقہ پر ہیں اور جو لوگ حضور اقدس کو بے مثل و مثال نوری بشر کہتے ہیں، وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہیں۔

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی تعظیم و توقیر کا سلیقہ عنایت فرمائے اور مذہب حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ سید المرسلین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

فقط والسلام

خانقاہ برکاتیہ، مارہرہ مطہرہ

مورخہ:- ۱۳/ربیع الآخر ۱۴۲۲ھ

اور

خانقاہ رضویہ بریلی

مطابق ۷/جولائی ۲۰۰۰ء

کا ادنیٰ سواہلی

یوم دو شنبہ

عبدالستار ہمدانی،

خاص جیل۔ پور بندر (مجمرات)

”مصروف“

(برکاتی-نوری)

<http://t.me/Tehqiqat>

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

مآخذ اور مراجع

نمبر	اسماء کتب	اسماء مصنفین، مؤلفین وغیرہ
(۱)	قرآن مجید	کلام اللہ
(۲)	کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن	امام احمد رضا محدث بریلی
(۳)	معجم صغیر	ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی
(۴)	تفسیر خزائن العرفان	صدرالافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی
(۵)	تفسیر روح البیان	علامہ شیخ اسماعیل حقی بروسوی (متوفی ۱۱۳۷ھ)
(۶)	عجائب القرآن	علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
(۷)	تفسیر جمل علی الجلائین	سلیمان بن عمر الجعفی الشہیر بالجمل
(۸)	مدارج النبوة	شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی (متوفی ۱۰۵۲ھ)
(۹)	المواہب اللدینہ علی الشماک المحمدیہ	علامہ احمد بن محمد المصری القسطلانی شافعی
(۱۰)	دلائل النبوة	حضرت ابونعیم بن عبد اللہ اصفہانی (متوفی ۲۴۰ھ)
(۱۱)	شواہد النبوة	علامہ نور الدین عبدالرحمن جانی بن احمد بن محمد
(۱۲)	خصائص کبریٰ	امام جلال الدین سیوطی
(۱۳)	الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ	قاضی ابوالفضل عیاض بن عمرو اندلسی (متوفی ۵۴۴ھ)
(۱۴)	علم النحو	مولوی مشتاق احمد چھترالوی (وہابی)
(۱۵)	فیروز اللغات	مولوی فیروز الدین
(۱۶)	دی نیوریل پرشین انکلس ڈسٹری	ایس بی پال
(۱۷)	قرآنی علوم	مفتی عبدالواجد قادری
(۱۸)	تفسیر نعیمی جلد ۳	مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
(۱۹)	جامع اللغات	مفتی غلام سرور لہوری

- (۲۰) مختصر سیرت نبویہ
عبد الشکور کاکوروی (وہابی)
- (۲۱) فتوح الشام
امام العدل علامہ محمد بن عمرو الوائدی
- (۲۲) مزہر
امام جلال الدین السیوطی
- (۲۳) المنجد
- (۲۴) تفسیر خازن
غلاء الدین علی بن محمد بغدادی (م۔ ۷۲۵ھ)
- (۲۵) مسلم شریف
امام ابوالحسن مسلم بن الحجاج قشیری
- (۲۶) در مختار شرح توہیر الابصار
امام محمد بن علی دمشقی حنفی (متوفی ۱۰۸۸ھ)
- (۲۷) رد المحتار (فتاویٰ شامی)
علامہ محقق امین الدین محمد بن عابدین شامی
- (۲۸) تقویۃ الایمان
مولوی اسماعیل دہلوی (وہابی) (متوفی ۱۲۳۶ھ)
- (۲۹) الطیب البیان رد تقویۃ الایمان
صدر الافاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی
- (۳۰) تفسیر عزیز (تفسیر فتح العزیز)
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
- (۳۱) طبقات المفسرین
امام جلال الدین سیوطی
- (۳۲) ترجمہ قرآن
محمود الحسن دیوبندی (وہابی)
- (۳۳) ترجمہ قرآن
مولوی اشرف علی تھانوی (وہابی)
- (۳۳) ترجمہ قرآن
عاشق الہی میرٹھی (وہابی)
- (۳۵) تملات الصفاء فی نور المصطفیٰ
(اعلیٰ حضرت) امام احمد رضا محدث بریلوی
- (۳۶) دلائل النبوة
امام ابوبکر بن حسین بیہقی شافعی (متوفی ۳۵۸ھ)
- (۳۷) افضل القرئی
امام ابن حجر عسقلانی
- (۳۸) شرح المواہب اللدنیہ
علامۃ الشمس محمد بن عبد الباقی الزرقانی مالکی
- (۳۹) انمیس فی احوال النفس نفیس
علامہ حسین بن محمد بن حسن دریابگری
- (۴۰) مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات
علامہ امام محمد مہدی بن احمد قاسمی (متوفی ۱۰۲۳ھ)
- (۴۱) جواہر البحار
علامہ امام عبدالکریم الجبلی
- (۴۲) موضوعات کبیرہ
ملا علی بن سید محمد ہدی تھانوی مکی حنفی

- (۴۳) تفسیر کبیر (تفسیر رازی) مفتاح الغیب امام فخر الدین محمد بن عمر بن عمر رازی شافعی (م- ۶۰۶ھ)
- (۴۴) جود اللہ علی العلمین فی معجزات سید المرسلین علامہ یوسف بن اسماعیل بنہانی (المتوفی ۱۳۵۰ھ)
- (۴۵) اشعہ الممعات شرح مشکوٰۃ (فارسی) شیخ محقق شاہ محمد عبدالحق بن سیف الدین سعد
- (۴۶) الامن والعلیٰ امام احمد رضا محدث بریلوی (اعلیٰ حضرت)
- (۴۷) ارشاد الساری شرح صحیح بخاری امام احمد بن محمد المنصری القسطلانی
- (۴۸) نوادر الاصول امام محمد بن عیسیٰ ترمذی (متوفی ۲۷۹ھ)
- (۴۹) جمع الوسائل ملا علی بن سلطان محمد ہروی قاری نکلی خنقی
- (۵۰) تفسیر مدارک التنزیل امام اجل علامہ ابوالبرکات عبداللہ بن محمود نسفی (م- ۱۷۰ھ)
- (۵۱) نسیم الریاض شرح شفاۃ قاضی عیاض علامہ امام احمد شہاب الدین خفاجی مصری
- (۵۲) مکتوبات امام ربانی (تین وفات میں) تصوف امام ربانی مجدد الف ثانی سرہندی
- (۵۳) سبیل الہدیٰ والرشاد فی سیرۃ خیر العباد علامہ محمد بن یوسف شامی
- (۵۴) داری ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن بن فضل بن البہرام (م- ۲۵۰ھ)
- (۵۵) معجم صغیر ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی (م- ۳۹۰ھ)

تمت بالخیر

- ◆ کیا حضور اقدس ﷺ عام انسانوں کی طرح بشر تھے؟
- ◆ حضور اقدس ﷺ کو اپنے جیسا بشر کہنے والے کون تھے؟ اور کون ہیں؟
- ◆ کفار، مشرکین اور منافقین کا انبیائے کرام کی بشریت کے متعلق کیا نظریہ تھا اور ہے؟
- ◆ مؤمنین اور خصوصاً صحابہ کرام کا انبیائے کرام کی نوری بشریت کے تعلق سے کیا عقیدہ تھا؟
- ◆ حضور اقدس ﷺ کی بے مثال نوری بشریت کے عنوان پر اپنے موضوع کی منفرد کتاب بلکہ حرف آخر کی حیثیت رکھنے والی نادر زمین تصنیف لطف۔
- ◆ اس کتاب کو پڑھ کر بہت سے ناواقف اور گمراہیت کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ اپنے نظریات فاسدہ اور افکار باطلہ سے توبہ کر کے راہ راست پر آ گئے۔

خیر بشر کی نوری بشریت

: مصنف :

مناظر المل سنت، ماہر رضویات، علامہ عبدالستار ہمدانی "مصرف" (برکاتی، نوری)

پور بندر۔ گجرات

قیمت 70.00 (عمدہ طباعت اور اعلیٰ معیاری کاغذ)

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

حیاتِ محمدیہ

(اول)

مُصَنَّف

ملک العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ظفر الدین بہاری قدس سرہ

ترتیب جدید

منفعتی محمدیہ مطبعہ الرحمن رضوی

کتابچہ پبلشرز

رحمن مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِيُحَدِّثَهُمْ فِي بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَنْبَاءِ وَالْأَحْكَامِ

امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کی تقریباً تین سو تعانیف کا خود (۲۶۶۲) احادیث و آثار

اور (۵۵۵) اقادات رضویہ پر مشتمل علوم و معارف کا مجموعہ گرانمایہ

الْمُخْتَارَاتِ الرِّضْوِيَّةِ مِنَ الْأَنْبَاءِ وَالْأَحْكَامِ وَالْمَوْثِقَاتِ

(معتبر وقت بہار)

جَاذِبَةُ الْأَحَادِيثِ

مِنْ بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ

مجدد اعظم امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ

جلد دوم

تقدیم بر ترتیب، تخریج، ترجمہ

مولانا محمد حنیف خان رضوی بریلوی

صدر المآثر مدرسین جامعہ توحید بریلوی رضویہ بریلی شریف

فائزر

شبیر برادرز

40 اردو بازار ایلاہ پور (و) 2246006

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

قصص الأئمة عليهم السلام

شيخ الإسلام الإمام الحافظ عماد الدين محمد بن اسماعيل رحمه الله تعالى

المؤلف

امام ابن كثير

مترجم

علامہ الحاج الحافظ السيد محمد شاہ مدظلہ

فاضلہ جامعہ نظامیہ رضویہ - لاہور

ناشر
شہیرا پبلشرز
اردو بازار
لاہور

martat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَنْ يَرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

مَجْمُوعَةٌ

فتاوى بریلی شریف

مصدقہ
استاذ الفقہاء رحمۃ المحققین
حضرت علامہ مفتی قاضی
محمد عبد الرحیم
صاحب مستوی
مظاہر العالی



مصدقہ
تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج
آشہاء مفتی
محمد رضا
قادی ازہری
دام ظلہ علینا

ترتیبین:
محمد عبد الرحیم المعروفہ نشر فتاویٰ محمد یونس رضا اویسی
مرکزی دارالافتاء سعودیہ کراچی بریلی شریف

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
توے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں

فتاویٰ حاکمہ

تصنیف

حجۃ الاسلام حضرت علامہ مفتی محمد جاہد رضا خان قادری برکاتی بریلوی قدس سرہ

جمع و ترتیب

مولانا محمد عبدالرحیم نشتر فاروقی مرکزی ادارہ لائسنس بریلی شریف

ناشر:

شبیر پرائزرز ۴۰- اردو بازار لاہور

marfat.com

Click For More

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

فتاویٰ رضویہ



فتاویٰ رضویہ
لاہور